

جنوبی ہند کے

جنگلوں میں



اے حمید

ابھی سارے ہندوستان پر انگریزوں کا راج تھا۔ اگرچہ ان کا اقتدار تاریخ کے آخری مراحل میں سے گزر رہا تھا۔ سری لنکا کا ملک بھی انگریز ہی کی علمداری میں تھا۔ اس وقت سری لنکا کا نام سیلون تھا۔ دونوں ملکوں میں انگریزوں کا قانون اور انگریزوں کا سکہ چلتا تھا۔ برما رنگون کی طرح سری لنکا یعنی سیلون جانے کے لئے بھی کسی پاسپورٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج کی طرح ہندوستان میں جانے کے لئے بھی کسی ویزا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ سیلانی مہاجر رکھنے والوں کے لئے کھلی چھٹی تھی۔ جب چاہیں نکل لے کر بحری جہاز میں بیٹھ کر برما، رنگون اور سیلون کو لبو کی سیاحت کو جاسکتے تھے۔

میں نے بھی بچپن ہی سے سیلانی مزاج پایا تھا۔ کسی ایک جگہ تک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ نئے ملک، نئے شہر اور ان شہروں کے لوگ اور ان ملکوں کے جنگل، وادیاں، سمندر دیکھنے کو ہر وقت دل چلتا تھا۔ اس وقت میری عمر تیرہ برس ہوگی۔ یہاں سے میری عمر کا اندازہ لگا لیں کہ میں امرتسر کے ایم اے او ہائی سکول میں آٹھویں جماعت کا طالب علم تھا۔ جب میں پہلی بار اپنا شہر امرتسر چھوڑ کر برما کے دارالحکومت رنگون کی طرف روانہ ہوا۔ آٹھویں جماعت مجھے اس لئے یاد ہے کہ جب میں رنگون کی آوارہ گردی کے بعد امرتسر واپس آیا تھا تو چونکہ میں نے آٹھویں جماعت پاس نہیں کی تھی اس لئے مجھے ایک بار پھر آٹھویں جماعت میں ہی داخلہ ملا تھا۔

بہر حال میرے پیش نظر سکول کی تعلیم اتنی اہم نہیں تھی جتنی اپنے اس شوق کی اہمیت تھی کہ نئے نئے ملک دیکھوں، نئے نئے شہر دیکھوں۔ ان جنگلوں کی سیر کروں جہاں

بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور جن کا حال میں جغرافیہ کی کتابوں میں پڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد کے سفر تو میں نے اکیلے اور خانہ بدوشوں کی طرح کئے مگر رنگون جاتے وقت میں اکیلا نہیں تھا۔ میری بڑی ہمشیرہ اور اس کا خاوند بھی ساتھ تھے۔ بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بڑی ہمشیرہ کے شریک حیات کا نام ممتاز ملک تھا جو بعد میں فوج میں کمیشن پا کر کیپٹن ممتاز ملک کے نام سے مشہور ہوئے اور اپنے زندگی کے آخری ایام میں روزنامہ نوائے وقت کے نیوز ایڈیٹر بھی رہے۔

ملک صاحب گورنمنٹ کالج سے بی اے کرنے کے بعد صحافت کے پیشے سے منسلک ہو گئے تھے اور رسالہ پھول شباب اردو اخبار زمیندار میں بھی کام کرتے تھے۔ وہ مولانا چراغ حسن حسرت ڈاکٹر باقر باری علیگ سجاد سرور نیازی راجہ مہدی علی خان اور ان م راشد کے دوستوں میں شامل تھے۔ اردو اور انگریزی زبان میں زبردست عبور رکھتے تھے۔ خبروں کے انگریزی پلیٹن کا ترجمہ حیرت انگیز تیزی سے کرتے تھے۔ بے تکان انگریزی بولتے تھے۔ انہوں نے بہاولپور اور چولستان کی صحرائی زندگی پر انگریزی میں ایک کتاب بھی لکھی تھی جو معلوم نہیں چھپی کہ نہیں چھپی۔ میں نے ان کے ہاتھ کا انگریزی میں لکھا ہوا مسودہ ان کے ہاں ضرور دیکھا تھا۔

جس زمانے میں میں ان کے ساتھ رنگون گیا وہ رنگون سے شائع ہونے والے اردو کے دور روزناموں یعنی شیر رنگون اور مجاہد برما کے ادارے سے منسلک تھے۔ روزنامہ شیر رنگون کے مالک ٹھیکیدار شیر محمد تھے۔ جس کے چیف ایڈیٹر بھائی جان یعنی کیپٹن ممتاز ملک تھے۔ اس اخبار کے ساتھ ہی ممتاز ملک نے رنگون کے نامور فروٹ مرچنٹ حاجی رحیم بخش صاحب کی شراکت سے ایک اپنا روزنامہ نکالا جس کا نام مجاہد برما تھا۔ حاجی صاحب کا تعلق پشاور سے تھا۔ میں آگے چل کر ان کا ذکر کروں گا۔ گجرات کے ایک ٹھیکیدار جن کا نام ظہور الحسن شاہ تھا اور جنہیں سب شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ وہ ان دونوں اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے۔

خوش لباس خوش شکل تھے۔ دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے۔ شیر رنگون اور مجاہد

برادریوں اخباروں کے چیف ایڈیٹر کیپٹن ممتاز ملک تھے۔ رنگون میں ہندوستان کے مختلف صوبوں کے آئے ہوئے مسلمانوں کی بھاری تعداد مختلف کاروبار کرتی تھی۔ ان میں سورتی مین بھی تھے۔ گجراتی مسلمان بھی تھے اور پنجابی مسلمان بھی تھے۔ جو صاحب ثروت ٹھیکیدار تھے اور بزنس بھی کرتے تھے۔ چنانچہ رنگون میں اردو عام بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اردو کی ادبی اور دینی کتابیں چھاپنے والا ایک ادارہ بھی تھا جس کا نام اب یاد نہیں۔ میں نے اس ادارے کی دکان سے بارش میں گھوڑا گاڑی باہر کھڑی کر کے میرزا ادیب کی کتاب ”صحرا نورد کے خطوط“ خریدی تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الگ اسلامی ریاست پاکستان کا مطالبہ کر دیا تھا اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت میں برصغیر میں تحریک پاکستان پورے زور و شور سے جاری تھی۔

ادھر یورپ میں دوسری جنگ عظیم بھی اپنے عروج پر تھی۔ لیکن ابھی جاپان میدان جنگ میں نہیں کودا تھا۔ اس اعتبار سے ہندوستان برما اور سیلون (سری لنکا) میں رات کو بلیک آؤٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے اور برما اور ہندوستان کے درمیان بحری جہازوں کی آمد و رفت بھی جاری تھی۔ شروع اگست کے دن تھے۔ جب ہم امرتسر سے رنگون کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور جنوبی ایشیا میں ان دنوں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں۔ میں نے ابھی جنوبی ایشیا کی بارشیں نہیں دیکھی تھیں۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ میں ان بارشوں سے ملنے جا رہا تھا۔ ابھی زندگیوں کے معمولات میں انفراتفری نہیں مچی تھی۔ کسی بھی شہر کی آبادی حد سے نہیں بڑھی ہوئی تھی۔ لوگ معمول کے مطابق قناعت پسندی اور سادگی سے زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ اشیائے خوردنی میں ملاوٹ نہ ہونے کے برابر تھی۔ دیسی گھی کے کنستری پنساریوں کی دکانوں پر عام مل جاتے تھے۔ اس کنستری کے چھوٹے سے گول ڈھکنے پر دکھتا ہوا انگارہ رکھ کر کھولا جاتا ہے۔ گھی برتن میں ڈالا جاتا تھا تو چاروں طرف اس کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ عام تھوروں پر خالص آٹے کی روٹی ملتی تھی۔ تھور سے روٹیاں پک کر نکل رہی ہوتی تھیں تو قریب سے گزرنے پر بیٹھے ہوئے باداموں کی خوشبو آتی تھی۔ ان تھوروں پر ایک پیسے کی روٹی کے ساتھ چنے کی دال

وقت پر برس کر چلے جاتے تھے۔ نہ وقت سے پہلے بارش لاتے تھے نہ وقت کے بعد تک برستے رہتے۔ بادل شہروں کے ساتھ ہی پورا انصاف کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ گڑھی شاہو میں بارش ہو رہی ہے اور میکلوڈ روڈ پر دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ دریاؤں اور نہروں میں آلودگی سے پاک ٹھنڈا اور میٹھا پانی بہتا تھا۔ آم کے باغوں میں سے گزرنے والی چھوٹی نہروں پر درختوں کے گرے ہوئے آم تیرتے تھے۔ جنہیں بچے نہر میں چھلانگیں لگا کر پکڑتے تھے۔ گرمیوں کی چمکیلے ستاروں والی خاموش راتوں میں کہنی باغ کی نہر کے کناروں سے گیلی مٹی اور سیلے گھاس کی مہک آتی تھی۔

چیت و ساکھ میں جب آم کے درختوں پر بور آتا تھا تو شہد ایسی میٹھی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ راتیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ دور..... بہت دور ریلوے سٹیشن پر انجن کے ہنٹ کرنے کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ بارہ بجے رات سینما کا آخری شو ٹوٹتا تو انجن پارک کی طرف سے لوگوں کی آوازیں کچھ دیر کے لئے ابھرتیں اور خاموش ہو جاتیں۔ پھر ہال بازار سے کسی کسی تانگے کے گزرنے کی آواز آتی جو دور ہوتے ہوئے رات کے سانٹے میں گم ہو جاتی۔

کہنی باغ ہمارے محلے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں چھت پر سوتے ہوئے کہنی باغ کی طرف سے کبھی کوئی ہوا کا جھونکا امرد کے باغوں کی خوشبو لے کر اور کبھی طرح طرح کے پھلوں کی خوشبو لے کر آتا۔ کسی وقت کول کی آواز رات کی خاموشی میں میٹھا نغمہ سناتے ہوئے گزر جاتی۔

یہ سب باتیں یہ سب چیزیں اب خواب میں دیکھی ہوئی چیزیں خواب میں سنائی ہوئی باتیں لگتی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے۔ غور سے سنا جائے تو یہ خواب ہی کی باتیں ہیں۔ خواب ہی کی چیزیں ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں خواب کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں آپ کو پتا تا دل اگر زندگی کی شادی ہو جائے تو خواب کو میں اس کی دلہن سمجھتا ہوں۔ خوبصورت پاکیزہ درمجموع خواب زندگی کی سہاگ رات کے برابر ہے۔ خواب میرے جسم کی روح ہے۔ بری روح کی توانائی ہے۔ میں اس وجہ سے زندہ ہوں کہ میں خواب دیکھتا ہوں۔ ایسا

مفت ملتی تھی۔ سبزیاں جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ سے پاک ہوتی تھیں۔ آج کا کیمیکل پیرے کے اندھا دھند استعمال کی وجہ سے سبزیوں کی خوشبو نہیں غائب ہونے لگی ہے۔ مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں سبزیوں کی دکان کے سامنے سے گزرتے وقت ہر سبزی کی خوشبو آتی تھی۔ جس میں ہرے دھنیے اور پودینے کی خوشبو نمایاں ہوتی تھی۔ ڈبل روٹی ڈاکٹر کی ہدایت پر بیمار کو دی جاتی تھی۔

نہ کوئی رکشا تھا۔ نہ سکوڑ تھے۔ نہ دیکھیں تھیں۔ نہ اتنے زیادہ دھواں اگے کارخانے تھے۔ آدمیوں کے دماغ اور قدرت کا آسمان آلودگیوں سے پاک تھا۔ رات شفاف آسمان پر ستارے بڑی آب و تاب سے چمکتے تھے۔ ہر ستارہ اپنے سائز اور روڈ کے ساتھ الگ الگ نظر آتا تھا۔ کسی کی روشنی سفید ہوتی تھی کسی کی سرخ اور کسی کی ہلکی اور کسی کی گہرے نیلے رنگ کی ہوتی تھی۔ چاند کی چاندنی موسیے کے سفید پھولوں کی چا کی طرح بچھ جاتی تھی اور راتوں کو سفر کرنے والوں کو خود راستہ دکھاتی تھی۔

کمیٹی کی گاڑیاں سڑکوں پر صبح صبح اور تیسرے پہر پانی کا چھڑکاؤ کرتی تھیں زمین میں سے مٹی کی ہلکی ہلکی خوشبو اٹھتی تھی۔ گلیوں کی نالیاں صبح شام صاف کی جاتی تھیں پینے والے پانی کی سپلائی بڑے بڑے دائرے کے ذریعے ہوتی تھی۔ جہاں ہر وقت پا کا مشاہدہ کیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی مضر صحت اجزا تو شامل نہیں ہو گئے۔ گرمیوں میں لوگ پیاس بجھانے کے لئے لسی اور شربت کا استعمال کرتے تھے۔ شربت خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کئے جاتے تھے۔ ایسنس کا نام و نشان نہیں تھا۔

صندل کے شربت میں سے خالص صندل کی خوشبو آتی تھی۔ انار کا شربت ہر اناروں اور شہتوت کا شربت خالص اور میٹھے سبز اور کاسنی بادانے شہتوت سے بنائے جاتے تھے۔ پھل دار پودوں، پھل دار درختوں اور خود پھلوں پر کسی قسم کی جراثیم کش ادویات چھڑکاؤ نہیں کیا جاتا تھا۔ پھلوں کی دکان کے آگے سے گزر جائیں تو ہر پھل کی خوشبو آگے آتی تھی اور یہ خوشبو دور تک ساتھ چلتی تھی۔

موسموں کا رویہ ابھی غیر قدرتی نہیں ہوا تھا۔ اپنے وقت پر آتے تھے اور۔

جاتا ہے اور پھر میری نگاہ کسی ایک پر نہیں ٹھہرتی۔ شدت شوق سے کبھی ایک شکل کو دیکھتا ہوں اور کبھی دوسری نورانی صورت کو سمجھنے لگتا ہوں۔ میں آپ کو آج سے پچاس پچپن سال پہلے کے زمانے کی سادگی اور قناعت پسندی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ یہ بات نہیں کہ اس زمانے میں مادہ پرستی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس کی اہمیت آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ باقی ساری کی ساری فضاؤں میں روحانیت رچی ہوئی تھی۔ جنہیں عام اصطلاح میں بدمعاش کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ گلی محلوں میں نظریں نیچی کر کے گزرتے تھے۔ وہ صرف بدمعاشوں کے واسطے بدمعاش تھے۔ شریفوں کے سامنے ان کی آنکھیں نہیں اٹھتی تھیں۔ چیزوں میں بڑی روحانیت تھی۔ بڑی برکت تھی۔ اب چیزیں پہلے سے زیادہ ہو گئی ہیں لیکن برکت اور روحانیت کہیں کہیں ملتی ہے۔

اب میں واپس اپنی زندگی کے پہلے سفر کی طرف واپس آتا ہوں جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ہم برسات کے موسم میں امرتسر سے رنگون کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ بھائی کو سمندری سفر کے لئے اس موسم کا انتخاب نہیں کرنا چاہئے تھا کیونکہ اس موسم میں جنوب مشرقی ایشیا کے سمندر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان میں بڑے طوفان آتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ رنگون میں ان کی صحافتی مصروفیات کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ ان کا وہاں جلد پہنچنا ضروری تھا۔ ہم لوگ تاگوں میں سوار ہو کر امرتسر کے ریلوے سٹیشن کی طرف چل پڑے۔ جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا۔ آپوجی (والدہ صاحبہ) نے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں بنا کر ساتھ رکھ دی تھیں۔

ہمیں ہوڑا ایکسپریس پکڑنی تھی جو لاہور سے آتی تھی اور کلکتہ جاتی تھی۔ کلکتہ سے ہمیں بحری جہاز کے ذریعے رنگون تک سمندر میں سفر کرنا تھا۔ اس روز امرتسر کے آسمان پر برسات کے بادل نہیں چھائے ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے ہوا بند تھی اور جس تھا۔ بھائی جان جب سٹیشن سے باہر قلیوں سے سامان اترا رہے تھے تو انہیں بہت پسینہ آیا ہوا تھا۔ اس ریل گاڑی کے ڈبے سبز ہوتے تھے اور یہ امرتسر صبح کے وقت پہنچتی تھی۔ پتھر کے کولوں

خواب جو میرے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ میری غیر ضروری مادی آلودگیوں کو مجھ سے الگ کرتا ہے۔ یہی وہ خواب ہیں جن کو دیکھنے کے لئے میں رات کو سوتا ہوں۔ جس دن یہ خواب مجھ سے جدا ہو گئے اس دن میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا۔ شاید پھر میں خوابوں کی ایک ایسی دنیا میں چلا جاؤں گا جو اس دنیا سے زیادہ حقیقی اور میرے اعمال کو پرکھنے والی دنیا ہوگی۔ بہت دیر ہوئی میں نے ایک بار کسی قدیم مصری دانشور کا قول پڑھا تھا۔ یہ اس قول کا ذکر میں پہلے بھی اپنے ایک کالم میں کر چکا ہوں۔ ایک بار اس قول کو دہرانا چاہتا ہوں۔ کسی اچھی بات کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ مصری دانشور کا قول یہ تھا۔

”جھونپڑی میں رہ کر شاہی محلات کا خواب دیکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی شاہی محلات میں رہے اور اس کے پاس خواب دیکھنے کے لئے کچھ نہ ہو۔“

ایک خواب ہوتا ہے۔ ایک خواب کا علم ہوتا ہے۔ علم خواب کی نفسیاتی تشریح کرتا ہے۔ اس کا سائنسی تجزیہ کرتا ہے۔ لیکن علم خواب نہیں دیکھتا۔ یہاں مجھے بے اختیار علامہ اقبال کے تین شعر یاد آ رہے ہیں۔ میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔

عقل گو آستان سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں
دل پینا بھی کر خدا سے طلب
آنکھ کا نور دل کا نور نہیں
علم میں بھی سرور ہے لیکن
یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں
(علامہ اقبال بال جبریل)

آپ سے باتیں کرتے ہوئے میں اصل موضوع سے ہٹ کر دوسری طرف نکل جاتا ہوں۔ اس کے لئے آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اصل میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے نور کے سانچے میں ڈھلی ہوئی حسین ترین شکلوں کا ایک جھوم سا

میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا۔ کھڑکی والی سیٹ ہمیشہ میری کمزوری رہی ہے۔ بس، ہواوائی جہاز ہو یا ریل گاڑی ہو میں کوشش کر کے کھڑکی کے پاس ہی بیٹھتا ہوں تاکہ باہر کا نظارہ کر سکوں اور اپنے آپ کو دوسرے مسافروں سے بے تعلق رکھ سکوں۔

ہوڑہ ایکسپریس امرتسر کے ریلوے یارڈ میں سے گزر رہی تھی اور اس کی رفتار آہستہ آہستہ تیز ہو رہی تھی۔ پہلے سبز جیوں والا پل آیا۔ اس کے بعد گاڑی کہنی باغ والے پل کے نیچے سے گزرنے لگی۔ اس پل کا نام میں بھول گیا ہوں۔ شاید ریلوے برج نام تھا لیکن میرا خیال ہے کہ امرتسر سے لاہور جاتے ہوئے گول باغ کے قریب جو پل آتا تھا اس کا نام رنگو برج تھا۔ کہنی باغ والا جو پل تھا اس کی چار سڑکیں تھیں اور اس پر سے بھاری ٹریک بھی گزرتی تھی۔

اس کی ایک سڑک شریف پورے کی طرف سے آتی تھی۔ دوسری سڑک ہال بازار کی طرف سے آتی تھی۔ ایک سڑک کہنی باغ کے بڑے ہسپتال والے دروازے کی طرف جاتی تھی اور ایک سڑک ریلوے سٹیشن کی طرف نکل جاتی تھی۔ اس پل کی ایک جانب انجمن پارک تھا جہاں مسلم لیگ کے جلسے بھی ہوتے تھے اور کرکٹ میچ بھی ہوتے تھے۔ انجمن پارک کے جنوبی کونے میں کسی بزرگ کا مزار تھا۔ جہاں سبز جھنڈا ہوا میں لہرایا کرتا تھا۔ اس کے قریب ہی مسجد نور تھی۔

پھر کہنی باغ اور عید گاہ والا ریلوے پھاٹک آ گیا۔ اس کے ایک جانب حسین پورے شریف پورے اور تحصیل پورے کے مکان تھے اور ایک جانب امرود کے باغات تھے۔ جن کے عقب میں کہنی باغ تھا۔ اس کے بعد ایک ریلوے لائن بنالہ گورداسپور کی طرف جاتی تھی۔ پھر چالیس کھوہ آ گئے۔ یہ صاف پانی کے بڑے بڑے زمین دوز ٹینک تھے جن میں سے امرتسر شہر کو پینے کا پانی سپلائی ہوتا تھا۔ اس کے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع لگ گیا۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا یہ سب کچھ بڑے شوق سے دیکھ رہا تھا۔

اب ہوڑہ ایکسپریس نے کافی سپیڈ پکڑ لی تھی۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ گرد رہی تھی۔ مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ہوا کا رخ دوسری جانب تھا اور انجن کا

سے چلنے والا بڑا گراڈیل اور باجبروت انجن آگے لگا ہوتا تھا۔

میں نے شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک برصغیر کی ریل گاڑیوں میں سفر کیا ہے۔ مجھے ریل گاڑی میں سفر کرنا بہت پسند ہے۔ لیکن اس زمانے کی ریل گاڑیوں کی جس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا وہ ان گاڑیوں کے آگے لگے ہوئے کولے کے چھوٹے چھوٹے ذرات شامل ہوتے تھے۔ لمبا سفر کرنے والے مسافروں کے سر کے بالوں اور چہروں پر کالک کی ہلکی سی تہہ جم جاتی تھی جو صرف صابن کے ساتھ منہ دھونے یا چہرے کو تولنے سے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے سے ہی اترتی تھی۔

ایک اور مصیبت یہ تھی کہ آنکھوں میں پتھر کے کونکوں کے ذرے پڑ جاتے تھے۔ ایک بار آنکھ میں کوئی ذرہ پڑ جاتا تھا تو پھر لاکھ کوشش کریں۔ پانی کے چھینٹے ماریں، آنکھ میں رومال کے کونے پھیریں، پتھر کا ذرہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ آنکھ مل کر لال ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب آدی دو تین دن کے ریل کے سفر کے بعد میزبان کے ہاں پہنچتا تھا تو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ انجن کے دھوئیں کی وجہ سے چہرے پر کالک کی تہہ جی ہوتی تھی اور ایک آنکھ لال سرخ ہو کر سوچ گئی ہوتی تھی۔

امرتسر سے کلکتے تک کا ریل کا سفر بھی کافی لمبا تھا۔ میں پہلی بار کلکتہ جا رہا تھا۔ اس کے بعد تو کلکتے کی بہت آوارہ گردیاں کیں۔ لیکن بھائی جان کے ساتھ یہ میرا کلکتے اور رنگون کا پہلا سفر تھا۔ میں آٹھویں جماعت میں سکول چھوڑ کر بھائی جان کے ساتھ رنگون ہ رہا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کب رنگون پہنچیں گے اور راستے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں گی۔ گھر والے ہمیں ریل پر چڑھانے آئے ہوئے تھے۔

پلیٹ فارم پر ہمارا سامان ایک طرف لگا دیا گیا تھا۔ سبز رنگ کے ڈبوں والا ہوڑہ ایکسپریس لاہور سے آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہو گئی۔ جلدی جلدی سامان ڈبے میں رکھوانے کے بعد ہم بھی سوار ہو گئے۔ کیونکہ ہوڑہ ایکسپریس امرتسر میں پانچ سات منٹ ۶ ٹھہرتی تھی۔ گارڈ نے سیٹی دی۔ انجن نے تین بار سیٹی بجائی گارڈ نے سبز جھنڈی لہرائی اور ٹرین چل پڑی۔

رنگوں میں اپنے قیام اور سفر کے بارے میں میں نے تین چار کتابیں ناول اور افسانوی انداز میں لکھی ہیں۔ ضابطہ ادب کے تقاضوں اور بعض مصلحتوں کے باعث ان ناولوں اور افسانوں میں میں نے بعض واقعات نہیں لکھے اور اگر لکھے ہیں تو ان میں حقیقت کی جگہ افسانوی رنگ زیادہ ہے۔ اس وقت میں اپنے رنگوں کے سفر اور قیام رنگوں کے بارے میں جو سفر نامہ لکھ رہا ہوں اس میں پورے حقائق سے کام لیا جا رہا ہے اور جن سب کے نام میں بھول گیا تھا ان کے نام تصدیق کرنے کے بعد لکھ رہا ہوں اور تمام مصلحتوں کو بھی میں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے۔

مثال کے طور پر میں نے رنگوں کے بارے میں اپنے ایک ناول میں لکھا تھا کہ رنگوں میں جو دو اردو روزنامے ”شیر رنگوں“ اور ”مجاہد برما“ شائع ہوتے تھے ان کے مالک اور پبلشر سید کشتی شاہ صاحب تھے۔ اب پوری طرح تصدیق کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا اور میں غلط لکھ گیا تھا۔ ”شیر رنگوں“ کے مالک محترم شیر محمد صاحب تھے جن کا شمار برما کے مشہور ٹھیکیداروں میں ہوتا تھا جبکہ ”مجاہد برما“ کیپٹن ممتاز ملک اور رنگوں کے مشہور فریٹ مرچنٹ محترم حاجی رحیم بخش صاحب نے مل کر نکالا تھا۔ ان دونوں اخباروں کے چیف ایڈیٹر کیپٹن ممتاز ملک ہی تھے جو قیام پاکستان کے بعد لاہور میں آ کر روزنامہ ”نوائے وقت“ سے منسلک ہو گئے تھے۔

ان حضرات کے بارے میں آگے چل کر تفصیل سے لکھوں گا۔ اس وقت میں ہونڈہ ایکسپریس میں سوار ہوں اور ہم لوگ جناب ظفر نیازی صاحب کو الوداع کہہ کر

دھواں میری طرف آنے کی بجائے دوسری طرف جا رہا تھا۔ مانا نوالہ سٹیشن آیا۔ کرتار پور آیا۔ ٹرین ان سٹیشنوں پر سے شور مچاتی سیٹیاں بجاتی گزر گئی۔ پھر جالندھر آ گیا۔ ٹرین یہاں رک گئی۔ تین چار منٹ کے بعد پھر چل پڑی۔ بھائی جان نے بتایا تھا کہ لدھیانے سٹیشن پر ان کا ایک دوست ظفر نیازی کھانا لے کر آیا ہوا ہوگا۔ ٹرین لدھیانے کی تو پلیٹ فارم پر ایک اونچا لمبا گورا چٹا خوش شکل نوجوان کھانا لئے موجود تھا۔ دو نوکر بھی اس کے ساتھ تھے۔ ان صاحب کا نام ظفر نیازی تھا اور یہ شاعر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد معلوم ہوا کہ راولپنڈی میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ظفر نیازی صاحب بھائی جان سے گلے لگ کر ملے۔ ٹرین وہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی تھی۔ جلدی جلدی کھانے کے برتن وغیرہ ڈبے میں رکھوائے۔ اتنے میں گارڈ نے سیٹی بجا کر سبز جھنڈی لہرا دی اور ٹرین چھک چھک کرتی آگے چل پڑی۔



کے ہاں قیام کرتا تھا۔ ن۔م۔ راشد صاحب بھائی جان کے دوست تھے اور انہوں نے بھائی جان کو کہا تھا کہ رنگون جاتے ہوئے میرے ہاں ضرور قیام کرنا۔ راشد صاحب کی کوشی غالباً علی پور روڈ پر ہی تھی۔ انگریزوں کے زمانے کا ایک منزلہ بنگلہ تھا جس کے تین جانب کشادہ لان تھا۔ میں اس عمر میں ذرا موٹا ہوا کرتا تھا۔ راشد صاحب نے مجھ سے ہاتھ ملا کر کہا۔

”کیا حال ہے پہلوان؟“

مجھے ان کا یہ جملہ اس طرح یاد ہے جیسے انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ہو۔ میں کوشی کے ایک کمرے میں پھرتا پھرتا گیا تو دیوار کے ساتھ رسالوں کے ڈھیر لگے تھے۔ مجھے یاد ہے ان میں ”ادب لطیف“ کے رسالے بھی تھے۔ جو میں امرتسر میں اپنے محلے کی کمیٹی کی لائبریری میں بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ ایک رسالے پر افسانہ نگار کرن چندر اور منٹو کی رنگین تصویریں چھپی ہوئی تھیں۔ میں ان کے افسانے بڑے شوق سے پڑھتا تھا اور یہ میرے پسندیدہ ادیب تھے۔ ہم رات کے وقت راشد صاحب کے بنگلے پر ایک تالکے میں سوار ہو کر پہنچے تھے۔ ن۔م۔ راشد صاحب ان دنوں آل انڈیا ریڈیو میں ڈائریکٹر آف پروگرامز تھے۔ دوسرے دن بھائی جان کے ساتھ میں ان کے دفتر گیا۔ راشد صاحب ایک کشادہ کمرے میں بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کی بائیں جانب دو چھوٹی میزیں چھپی تھیں۔ ایک میز پر بیٹھے ہوئے گورے چنے سیاہ بالوں والے دبلے پتلے نوجوان کو میں نے پہچان لیا کیونکہ میں نے ان کی تصویریں اکثر ادبی رسالوں میں دیکھی ہوئی تھیں۔

یہ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو تھے۔ منٹو صاحب کچھ لکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ چہرہ اٹھا کر اپنی گول گول آنکھوں سے اردگرد کا جائزہ لیتے اور پھر لکھنے میں مصروف ہو جاتے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ منٹو صاحب نے ان دنوں ریڈیو کے لئے بڑے دلچسپ ایکٹ کے پلے لکھے تھے جو لاہور میں ”جنازے“ اور ”آؤ“ کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہوئے۔ دوسری میز پر جو گندی رنگت کا دبلا پتلا نوجوان بیٹھا تھا میں نے اسے نہیں پہچانا۔ راشد صاحب نے بتایا کہ یہ افسانہ نگار چندر کانت ہے۔ چندر کانت کے اردو

لدھیانے سے آگے نکل چکے ہیں۔ لدھیانے کے بعد ٹرین انبالہ شہر کے سٹیشن کو چھوڑ کر انبالے کینٹ کے سٹیشن پر رکی۔ بڑا صاف ستھرا سٹیشن تھا۔ پلیٹ فارم کا فرش چمک رہا تھا۔ زیادہ رش نہیں تھا۔ انبالہ کینٹ اس زمانے میں فوج کی مشہور چھاؤنی تھی۔ یہاں سے ٹرین چلی تو سہارن پور آ کر رکی۔

سہارن پور کے گئے یعنی کمانڈ بڑا مشہور تھا۔ ریلوے ٹریک کے دونوں جانب کھیتوں میں اونچی اونچی فصل کھڑی تھی۔ بھائی جان نے بتایا کہ یہ کماد کے کھیت ہیں۔ مجھے یاد ہے امرتسر میں ہمارے محلے کے دروازے کے باہر گئے جکتے تھے۔ گئے بیچنے والا ”سہارنی گئے“ کی آواز لگایا کرتا تھا۔ میں اور میرا چھوٹا آرٹسٹ بھائی مقصود یہاں سے گزرتے لیتے اور انہیں چالیس کھوہ کے کھیتوں میں بیٹھ کر کھایا کرتے تھے۔

سہارن پور کے بعد ٹرین میرٹھ چھاؤنی کے سٹیشن پر رکی۔ 1857ء کی جنگ آزادی کا آغاز میرٹھ چھاؤنی کے سٹیشن سے ہی ہوا تھا۔ اس شہر کے غیور مسلمانوں کی شجاعت اور دلیری آج بھی بدستور ایک مثالی حیثیت رکھتی ہے۔ میرٹھ بڑا مردم خیز شہر ہے۔ اس سرزمین نے دینی سیاسی اور علمی ادبی اعتبار سے بڑی بڑی نامور ہستیوں کو جنم دیا ہے۔ میرٹھ کینٹ بھی انگریزوں کی بہت اہم فوجی چھاؤنی تھی۔ اس کے بعد ہم دلی چھاؤنی گئے۔ دلی سٹیشن پر بھی دوسرے سٹیشنوں کی طرح پلیٹ فارم پر انگریزی اور اردو میں لکھے ہوئے رنگین پوسٹر چسپاں تھے جن پر لکھا تھا انواہوں پر اعتبار نہ کریں۔

فقہہ کالم سے ہوشیار رہیں ریڈ کراس میں خون کے عطیات جمع کرائیں وغیرہ۔ فقہہ کالم سے مراد دشمن کے جاسوس ہوتے ہیں۔ آج کے دلی شہر اور اس زمانے کے دلی شہر میں زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ جو لوگ ویزا لے کر دلی جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دلی میں ٹریفک کا شور فضائی آلودگی، غربت اور گندی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے۔

جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے کی دلی اسلامی تہذیب و ثقافت کی منہ بولتی تصویر تھی۔ اس شہر میں جو مسلمان بادشاہوں کا پائے تخت رہا تھا ان کے زوال کے بعد بھی ایک شان باقی تھی۔ میں ایک دو دن دلی میں مشہور شاعر جناب ن۔م۔ راشا

افسانے ادب لطیف اور ادبی دنیا میں کبھی کبھی چھپا کرتے تھے۔

دلی کارنیڈیو سٹیشن بھی علی پور روڈ پر ہی واقع تھا۔ دوسرے دن دوپہر کو خواجہ حسن نظامی صاحب نے بھائی جان کو کھانے کی دعوت دے رکھی تھی۔ ہم لوگ اب یاد نہیں کہ کسی ٹیکسی میں یاریڈیو کی گاڑی میں بیٹھ کر خواجہ حسن نظامی صاحب کے دولت خانے پر پہنچے جو درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے پچھواڑے مزار کے احاطے میں ہی واقع تھا۔ فرشی دستر خوان بچھا ہوا تھا جس پر انواع و اقسام کے کھانے موجود تھے۔ اب یاد نہیں کہ کیا کیا کچھ تھا۔ ہر شے بڑی لذیذ اور خوشبودار تھی۔

بھائی جان خواجہ صاحب سے رنگون میں اردو کی ترقی کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ کچھ وہاں کے اخباروں کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے خواجہ نظامی صاحب مجھے بھائی جان اور ہمیشہ صاحبہ کو لے کر مکان کے باہر تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں ایک دروازہ دکھایا جس پر گولیوں کے سوراخ تھے۔

انہوں نے بتایا کہ یہاں ان پر ہندو مہاساجائیوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا۔ چند قدموں کے فاصلے پر ایک قبرستان کی چار دیواری تھی جس کی تنگ سی ڈیوڑھی میں سے ہو کر ہم چھوٹے سے قبرستان میں آ گئے۔ یہاں اردو اور فارسی کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی قبر تھی۔ قبر کے سرہانے لوح مزار پر جو کچھ لکھا تھا وہ میں پورا نہ پڑھ سکا۔ غالب کا نام ضرور پڑھا اور یہ لکھا ہوا پڑھا۔ ”ہاتف نے کہا میری سمجھ میں نہ آیا کہ ہاتف کون تھا۔“

وہ رات بھی ہم نے ن۔م۔ راشد صاحب کے بیٹکے پر بسر کی اور دوسرے دن ٹرین میں بیٹھ کر دلی سے کلکتے کی طرف روانہ ہو گئے۔ بمبئی جاتے ہوئے گاڑی دلی سے متھرا، آگرہ، گولیاڑ جھانسی سٹیشن والے ریلوے ٹریک کی طرف مڑ جاتی ہے۔ کلکتے کے لئے ٹرین مراد آباد بریلی والی ریلوے لائن پر آ جاتی ہے۔ دلی سے ٹرین چلی تو دریائے جمنا کے پل پر سے گزر گئی۔ بہت مشہور دریا تھا۔

گنگا جمنا دریاؤں کا حال میں اپنی جغرافیہ کی کتاب میں پڑھ چکا تھا۔ کئی سٹیشن آئے اور گزر گئے یہ بھی کوئی ایکسپریس ٹرین تھی۔ ہوڑہ ایکسپریس تھی یا کلکتہ میل تھی یا

نہیں۔ بڑا شہر مراد آباد آیا۔ مراد آباد کے ہینٹل کے برتن اس زمانے میں بڑے مشہور تھے۔

شاعر جگر مراد آبادی کی غزلیں بھی میں نے ادبی رسالوں میں پڑھی تھیں۔ سٹیشن دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ جگر صاحب اسی شہر مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ سٹیشن پر کافی رونق تھی۔ اس کے بعد بڑا شہر رام پور تھا۔ رام پور کے بعد بریلی کا سٹیشن آیا۔ ٹرین چلتی رہی۔ سٹیشن پر سٹیشن آتے اور گزر جاتے۔ کسی سٹیشن پر گاڑی رکتی، کسی سٹیشن کو چھوڑ کر گزر جاتی۔ شاہجہان پورا آیا، سیتا پور آیا، پھر ہندوستان کا مشہور شہر لکھنؤ آ گیا۔ یہ انگریزوں کے زمانے کا لکھنؤ تھا۔ پلیٹ فارم کی طرز تعمیر سے اسلامی رنگ جھلکتا تھا۔ عمرانی دروازے تھے۔ آدھی دیواروں پر پھولدار چمکیلی ٹائلیں لگی ہوئی تھیں۔ پان سگریٹ والے کا سٹال خوب سجا بنا تھا۔ کالج کے کتروں کے رنگین پھول بنے ہوئے تھے۔ ایک عطر فروش کا سٹال بھی تھا جس کی پیشانی پر بڑی خوش خطی سے لکھا ہوا تھا۔ ”اصغر علی محمد علی تاجران عطر“ اس نام کا اشتہار ادبی رسالوں میں بھی میری نظر سے گزرا تھا۔

اخباروں کے سٹال پر لاہور کے سول اینڈ ملٹری گزٹ ”ٹریبون اور کلکتے کے انگریزی اخبار سٹیٹسمن اور امرت بازار پتربیکا رکھے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کی مشہور انگریزی فرم وھیلر اینڈ وھیلر کے تھے۔ اگر میں بھول نہیں رہا تو اس فرم کا یہی نام تھا۔ چائے کے سٹال پر پولسن (Polson) بٹراور بے پی منگارام بسکٹ اور بروک بانڈ چائے کے چھوٹے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ زندہ دلاں لکھنؤ ملل کے کتروں میں ملبوس پان کھاتے پلیٹ فارم پر گھوم پھر رہے تھے۔ پلیٹ فارم پر خس کے عطر کی خوشبو بناری پانوں اور پلشن چائے کی خوشبوؤں سے کھل ل رہی تھی۔ آج کا لکھنؤ جا کر ذرا دیکھیں عطر والوں کے سٹال پر سکھ بیٹھے پاپڑوڑیاں بچ رہے ہیں۔

ٹرین لکھنؤ سے چلی تو بنارس سے پہلے کچھ سٹیشنوں پر ضرور رکی تھی مگر مجھے وہ سٹیشن یاد نہیں رہے۔ جمنا نام کے ایک سٹیشن پر بھی ٹرین کچھ دیر کے لئے رکی تھی۔ جمنا میں کوسلے کی کاٹیں ہیں۔ یہاں انجن نے پانی اور پتھر کا کونکر لیا تھا۔ میں ڈبے سے نکل کر پلیٹ فارم پر ٹھہلا انجن کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ میلی کچیلی ساڑھیوں والی مزدور

عورتیں ایک سیزھی پر چڑھ کر انجن کے پچھلے خانے میں پتھر کے کونکوں کی ٹوکریاں الٹی جاتی تھیں۔ اس عہد کی مشہور گانے والی کملا جھریا اسی شہر کی رہنے والی تھی۔

ہمارے گھر میں اس کی گائی ہوئی ٹھمریوں اور غزلوں کے چار پانچ ریکارڈ تھے جو میں گراموفون پر بجا کر سنا کرتا تھا۔ شام ہو رہی تھی۔ جب ٹرین بنارس پہنچی۔ بنارس شہر دریائے گنگا کے کنارے پر واقع ہے۔ ہندوؤں کا قدیم شہر ہے۔ اگرچہ اس شہر بنارس کی شہرت میں مسلمان دست کاروں، ہنرمندوں، موسیقاروں اور پارچہ بانوں کا بڑا ہاتھ ہے مگر بنارس پر دریائے گنگا کے دونوں کناروں پر واقع گھاٹوں کی وجہ سے اس شہر پر ہندوؤں کی چھاپ ہے۔

بسم اللہ خان شہنائی نواز کے نام سے کون واقف نہیں ہے۔ ان کی بجائی ہوئی شہنائی کا ریکارڈ آج بھی آل انڈیا ریڈیو کے ہر سٹیشن پر صبح صبح بجایا جاتا ہے۔ بسم اللہ خان کے مقابلے میں بعض ہندو شہنائی نوازوں نے بہت زور مارا مگر ان کی شہنائی میں وہ باریکیاں، لگاؤ اور نغمگی پیدا نہ ہو سکی جو قدرت نے بسم اللہ خان کو عطا کر رکھی ہے۔ بنارس کے شہر کے کنارے والے گھاٹوں کے پاس ہندو اپنے مردوں کو نذر آتش کرتے ہیں۔ یہ منظر بڑا عبرتناک ہوتا ہے۔ مردے بھوپانوں (بالس کے سٹرکچروں) پر قطار میں رکھے ہوتے ہیں۔ مردے جلانے والے جنہیں شمشان کے باؤے کہا جاتا ہے باری باری مردے کو آگ پر رکھتے ہیں اور کچا بھنا کر کے دریا میں پھینک دیتے ہیں جہاں یہ ادھ جلے مردے بڑی بڑی پھیلیوں، کچھوؤں اور مگر مچھوں کی خوراک بن جاتے ہیں۔

جن مردوں کے آدمی ذرا بااثر ہوتے ہیں ان کے مردے پورے جلانے جاتے ہیں اور ان کی ہڈیاں دریا میں بہا دی جاتی ہیں۔ بنارس کے ہر گھاٹ پر ایک تنگ دھڑنگ (صرف لنگوٹی پہنے ہوئے) سادھو چھتری لگائے اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ بڑے موٹے پیٹ والے جنادھاری اور پلے ہوئے سائڈوں ایسے سادھو ہوتے ہیں۔ ہندو عورتیں ان کے آگے پھل پھول اور پیسے رکھتی ہیں۔ یہ انہیں کیسر کا تنگ لگاتے ہیں۔ بنارس میں دریائے گنگا کے دونوں کناروں پر بے شمار گھاٹ ہیں۔ یہاں سڑھیاں دریا میں

ارتی ہیں جہاں ہندو عورتیں اور مرد قریب قریب ہی کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر دریا میں اشنان کرتے ہیں۔

ہر قسم کے گندے مندرے میلے کچیلے لوگ گنگا میں آ کر نہاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جو ہندو ایک بار گنگا میں اشنان کر لے وہ پوتر ہو کر مرنے کے بعد کسی دوسرے روپ میں جنم لینے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ گنگا اشنان پر مشہور طنزیہ شاعر راجہ مہدی علی خان نے ایک بڑی اچھی چھوٹی سی نظم لکھی تھی۔ نظم میں بھول گیا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ نکلتا تھا کہ اے گنگا میں اشنان کرنے والے گندے مندرے لوگو! تم نے تو گنگا میں نہا کر اپنا جسم صاف کر لیا اب یہ بتاؤ کہ گنگا کہاں جا کر اشنان کرے؟

دریائے گنگا پر بھی انگریزوں نے بہت بڑا ریلوے پل بنایا ہوا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ٹرین دریائے گنگا کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ دریا کی ایک جانب بنارس شہر کے مکان اور مندر نظر آ رہے تھے اور دوسری جانب شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی بنوائی ہوئی تاریخی عالمگیری مسجد تھی جو سب سے الگ اور سب سے بلند ایک پر جلال اور باوقار انداز میں ایستادہ تھی۔ اس کے گنبدوں اور میناروں کے کس غروب ہوتے سورج کی ارغوانی روشنی میں ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس کے بعد صوبہ بہار کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی میں صوبہ بہار کے شمال میں بھاگلپور سے 24 میل دور ایک قدیم یونیورسٹی وکرم شیلا ہوا کرتی تھی۔ نائندہ اور ٹیکسلا کے بعد یہ سب سے بڑی یونیورسٹی تھی۔ اس یونیورسٹی کی چار دیواری اتنی بلند اور مضبوط تھی کہ علاؤ الدین خلجی نے اسے کافروں کا کوئی قلعہ سمجھ کر اس پر چڑھائی کر دی تھی۔ اس زمانے کے لوگ اپنی زبان میں یونیورسٹی کو دہار کہتے تھے جو بگڑتے بگڑتے بہار میں تبدیل ہو گیا اور پھر یہی اس صوبے کا نام پڑ گیا۔

ٹرین گیا کے سٹیشن پر ٹھہر گئی۔

صوبہ بہار میں گیا کا شہر گوتم بدھ کے ماننے والوں کا بڑا مقدس مقام ہے۔ اس

کسی کا حق نہ چھینو۔ جھوٹی گواہی نہ دو
 کسی پر تہمت نہ لگاؤ۔ نہ جھوٹ بولو۔ منشیات سے دور رہو
 دل میں نیک خواہشات رکھو
 پتھر کے بت نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں
 اپنے حواس پر قابو پائے رکھو
 ٹرین گیا کے ٹیشن سے بھی چل پڑی۔

صوبہ بہار کے بعد بنگال کی سرزمین شروع ہو جاتی ہے۔ بنگال کے شروع
 ہوتے ہی مکانوں اور جموں پڑوں کے آگے تالاب دیکھے جن کی پتھر کی میڑھیاں پانی میں
 اترتی تھیں۔ دھان کے کھیت ہی کھیت تھے۔ تاڑ اور ناریل کے درخت جگہ جگہ نظر آنے
 لگے تھے۔ ایک ہی دھوآ (ساڑھی) سے سارا جسم ڈھانپنے کی کوشش کرتی ہوئی دیہاتی
 عورتیں جموں پڑوں کے باہر اور کھیتوں میں دکھائی دے رہی تھیں۔ دیہاتی مردوں کے بدن
 پر بھی گھٹنوں سے اونچی ایک دھوٹی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

کالے کالے ننگ ڈھرننگ بچے ریل گاڑی کو دیکھ کر کھیتوں میں اس کے ساتھ
 ساتھ بھاگ رہے تھے۔ تالابوں میں ماہی گیر جال ڈال کر مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ میں نے
 بنگال کی سرزمین اور بنگال کے کلچر کو نیو تھیٹرز کی فلموں میں دیکھا تھا۔ پہلی بار ان مناظر کو
 اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ڈھلانی چھتوں والے مکان تھے۔ مکانوں کی دیواریں بارش
 اور دھوپ کی مار سہ سہ کر کالی ہو رہی تھیں۔ بھائی جان نے مجھے بتایا کہ بنگال کے دو
 بڑے مشہور شاعر ہیں۔

ایک کا نام رابندر ناتھ ٹیگور ہے وہ ہندو ہے۔ دوسرے مسلمان بنگالی شاعر کا نام
 نذر الاسلام ہے۔ نذر الاسلام بنگالی مسلمانوں میں اور رابندر ناتھ ٹیگور بنگالی ہندوؤں میں
 مقبول ہے۔ نذر الاسلام کی نظمیں ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں۔ اس کو نذر الگیتی کہتے
 ہیں۔ ٹیگور کی نظمیں بھی ایک خاص طرز میں گائی جاتی ہیں جس کو رابندر گیت کہتے ہیں۔

مقام پر برگد کے ایک درخت کے نیچے گیان دھیان میں مشغول گوتم بدھ کو گیان حاصل
 تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ درخت آج بھی موجود ہے اور بدھ مذہب کے ماننے
 والے وہاں آ کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے گوتم بدھ
 کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔

گوتم بدھ کا نام سدھارتھ تھا۔ وہ ساکیہ قبیلے کے سردار اور کپل وستو نام کی چھوٹی
 سی شہری ریاست کے راجہ کا بیٹا تھا۔ بچپن میں ایک کوڑھی فقیر اور ایک مردے کو دیکھ کر اس
 کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آدمی کی زندگی کس قدر مصیبتوں اور دکھوں سے بھری ہوئی
 ہے۔ پھر جب سدھارتھ بڑا ہوا تو سچائی کی تلاش میں محل چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔
 سادھوؤں کی طرح جنگلوں میں پھرتا رہا۔ برہمنوں کی شاگردی کی سخت تکلیفیں برداشت
 کیں۔ آخر قصبہ گیا کے قریب کہتے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے اسے گیان حاصل ہوا اور
 اس نے زندگی کا راز پالیا۔ اس کے بعد گوتم کو بودھ یعنی جس نے عقل حاصل کر لی ہو سچائی
 حاصل کر لی ہو کہا جانے لگا۔

بودھ مذہب ذات پات کی تقسیم اور بتوں کی پوجا کے سخت خلاف ہے۔ بدھ
 مت کی تعلیم آدمی کو راست بازی اور نیک دلی کی ہدایت کرتی ہے۔ گوتم بدھ نے پانچویں
 صدی قبل از مسیح کے اواخر میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ایک انگریز مصنف سر
 ایڈون آرنلڈ نے گوتم بدھ کی زندگی اور اس کی تعلیمات پر "فائیت آف ایشیا" کے نام
 سے انگریزی میں ایک طویل نظم کتابی صورت میں لکھی جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔

آرنلڈ سلسکرت اور پالی زبان کا عالم تھا۔ اس نے آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کی
 تھی اور اس کا انتقال 1904ء میں ہوا۔ اس نے پالی زبان میں لکھی ہوئی بدھ مت کی
 تعلیمات کو نظم کی شکل میں انگریزی میں ترجمہ کیا۔ یہاں اس طویل نظم کے دو ایک بند ترجمہ
 کر کے پیش کرتا ہوں۔

”تم جو بوو گے وہی کاٹو گے“

وقت میرے لئے کلکتہ صرف چت پور روڈ تک ہی محدود تھا۔ اسی سڑک پر کافی آگے جا کر جہاں ڈیہوڑی سکوائر شروع ہوتا تھا۔ ایک سینما ہاؤس بھی تھا جہاں بیسے ٹائیکز کی اشوک کمار اور لیلا چٹس والی فلم نگن اپنے 75 ویں ہفتے میں چل رہی تھی۔

رنگون جانے کے لئے کسی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ایک روز ہم بندرگاہ پر جا کر محکمہ امیگریشن والوں سے اپنا میڈیکل چیک اپ کروا آئے تھے۔ ہمیں ٹیکے بھی لگا دیئے گئے تھے۔ رنگون کے بحری سفر کے ٹکٹ بھی منگوا لئے گئے تھے۔ اب اس دن کا انتظار کر رہے تھے جس دن جہاز نے اپنے شیڈول کے مطابق کلکتے سے رنگون روانہ ہونا تھا۔



نذر الاسلام اپنی نظموں میں اسلام کی عظمت بیان کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک مرکز پر جمع ہو جانے کی تلقین کرتا ہے۔ دوسری بار جب میں اکیلا گھر سے بھاگ کر کلکتے آیا تو میں نے نذر الکتبی بھی سنی اور رابندر سنگیت بھی سنا۔ رابندر سنگیت کے مقابلے میں نذر الاسلام کے گیتوں میں ایک جوش و ولولہ اور گھن گرج کا عنصر غالب تھا۔

کلکتہ قریب آ رہا تھا۔ بہت بڑا شہر تھا۔ کئی سال پہلے اس شہر کی آباد کاریاں کارخانے وغیرہ شروع ہو گئے تھے۔ میں خدا کا شکر بجالارہا تھا کہ سارا راستہ ٹرین کے سفر میں میری آنکھوں میں انجن کے کولے کا کوئی ذرہ نہیں پڑا تھا۔ دھوئیں کی وجہ سے چہرے اور حلیہ ضرور بدل گیا تھا۔ بھائی جان ممتاز کا تعلق چونکہ چنیوٹ سے تھا اور کلکتے میں چنیوٹ کے سوداگروں کا بہت وسیع کاروبار تھا چنانچہ بھائی جان کو کلکتے میں چنیوٹ کے اپنے ایک عزیز کے ہاں قیام کرنا تھا۔

کلکتے کے دوٹیشن ہیں۔ ایک کا نام ہوڑہ ہے دوسرے کا نام سیالہ ہے۔ ہمارے ٹرین ہوڑہ کے ٹیشن پر رکی۔ وسیع و عریض پلیٹ فارم تھا۔ بھائی جان کے عزیز اور ان کی بیگم ہمیں لینے ٹیشن پر آئے ہوئے تھے۔ ایک بڑی سی پرانی گاڑی میں بیٹھ کر ہم بھائی جان کے عزیز کے چہ سات کروں والے فلیٹ پر آ گئے۔ میزبان کو بھائی جان ملک صاحب کہہ کر بلا تے تھے۔ ملک صاحب کا خشک میوں کا کاروبار تھا اور لوئر چت پور روڈ پر ان کا گودام اور دفتر تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ ہم کلکتے میں ملک صاحب کے ہاں دو دن ٹھہرے یا چار دن ٹھہرے۔ میں کلکتے کے بازاروں میں گھومتا رہا تھا۔ مگر چت پور روڈ اور لوئر چت پور روڈ کے آس پاس ہی رہتا تھا کہ اتنا بڑا شہر ہے کہیں بھٹک نہ جاؤں۔ لوئر چت پور روڈ پر ٹرام چلتی تھی۔ ابھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس علاقے میں ذکر یا سٹریٹ بھی ہے جہاں امرتسر کے کشمیری شمال مرجنٹ، شمال بانف اور رفوگر کاروبار کرتے ہیں اور وہاں مسجد ناخدا بھی ہے اور امجدیہ ہوٹل بھی ہے۔

ان ساری جگہوں کا انکشاف مجھے میرے کلکتے کے دوسرے پھیرے پر ہوا۔ اس

جاتا تھا کہ یہ شخص فلاں سگریٹ پی رہا ہے۔ بھائی جان کریون اے اور گولڈ فلیک کے سگریٹ پیتے تھے۔ جس کے پیکٹ بھی ہوتے تھے اور بند گولڈ ڈبوں میں بھی ملتا تھا۔ یہ گولڈ ڈبے ارنائٹ یعنی ہوا بند ہوتے تھے۔ ہر ڈبے میں پچاس سگریٹ ہوتے تھے اور انہیں جب کھولا جاتا تھا تو اندر سے جو پہلی خوشبو نکلتی تھی اسے سگریٹ پینے والے بڑی اہمیت دیتے تھے۔ کینسر اور ہارٹ ایک کا نام ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ صرف ٹی بی کی بیماری ہوتی تھی جس سے لوگ بڑا خوف کھاتے تھے اور یہ مرض اس زمانے میں لاعلاج سمجھا جاتا تھا۔

اس زمانے کی فلموں میں بھی ہیرو کو ٹی بی کا مرض ہی لاحق ہوتا تھا۔ کبھی کوئی ہیرو یا ہیرو کا باپ کینسر یا ہارٹ ایک سے نہیں مرا تھا۔ اس زمانے کی سب سے مشہور فلم جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے تھے مشہور گلوکار سہگل کی فلم ”دیوداس“ تھی۔ اس فلم میں بھی ہیرو کو ٹی بی ہو گئی تھی اور اسی مرض نے اس کی جان لے لی تھی۔ اس زمانے میں بہی کی فلم کمپنی پیسے ٹاکیڑ اور کلکتے کی فلم کمپنی نیو تھیٹر کے فلمی گانے بہت مشہور تھے۔ فلم ”دیوداس“ کا گانا ”ہالم آئے بسو میرے من میں“ اور بیسے ٹاکیڑ کی فلم نوجوان کا گانا ”چل چل رہے نوجوان“ ہر نوجوان کی زبان پر تھا۔

خال خال گھروں میں پرانی ٹائپ کا کوئی ریڈیو ہوتا تھا۔ گراموفون ضرور ہوتے تھے جن پر فلمی گانوں اور انڈو بالا، کملہ جھریا، بھائی چھیلا پٹیلے والا، اختری بائی فیض آبادی، سہگل، کانن بالا اور پنکج ملک کے ریکارڈ بجا کر سنے جاتے تھے۔ پان سگریٹ کی دکانوں اور دھڑوں، ریستورانوں میں بھی گراموفون پر ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ ابھی لاؤڈ سپیکروں کا رواج نہیں چلا تھا۔ سینما گھروں میں لاؤڈ سپیکر پر ضرور ریکارڈنگ ہوتی تھی۔ کولمبیا کمپنی کے گراموفون کے مقابلے میں ہر ماسٹرز وائس کا گراموفون کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوتی تھی۔ اس کے ماؤنڈ بکس میں سے آواز بڑی صاف اور سرلی نکلتی تھی۔ ہر ماسٹرز وائس کا گراموفون بڑے مائیک کا بھی ہوتا تھا اور ایڈجی کیس کی طرح کا بھی ہوتا تھا۔ ہر ماسٹرز وائس کی ریکارڈ بجانے کی سونیاں بھی الگ ڈبی میں آتی تھیں جس پر ہر ماسٹرز وائس کے گراموفون اور کتے کی

لوڑ چت پور روڈ کے چوک میں ایک بہت بڑی بلڈنگ تھی جس میں بے ایک ایک دو دو کمروں والے فلیٹ تھے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس بلڈنگ کا نام ہرا بلڈنگ ہے۔ سراج بلڈنگ کے بڑے گیٹ کی دونوں جانب پان سگریٹ کی دکانیں تھیں۔ بنگالی گانوں کی ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی۔ بنگالی دکاندار احمد آبادی اور بنارس پان لگا لگا رکھے جاتے تھے۔ ان کے دو شاگرد لڑکے انہیں لپیٹ لپیٹ کر گاہکوں کو تھا دیتے تھے۔ بنارس پان کارنگ زرد ہوتا تھا۔ احمد آبادی پان کا پتا چوڑا اور خستہ ہوتا تھا۔ پان کبھی کبھار ہی کھاتا تھا۔ ہاں لک چھپ کر سگریٹ ضرور پیتا تھا۔ یہ سگریٹ پینے کی عادت مجھے سکول کے زمانے سے ہی پڑ گئی تھی۔ اس زمانے میں جو سگریٹ ہوتے تھے ان کے نام یہ ہیں۔ اعلیٰ کوالٹی کے سگریٹ کریون اے، کیتھڈر، گولڈ فلیک، سٹیٹ ایکس اور کیپٹن۔ درمیانے درجے کے سگریٹ قینچی، پانگ شو وغیرہ بہت مقبول تھے۔ تیرہ درجے کے سگریٹوں میں سپورٹس، نیوی بلیو تھے اور سب سے کم تر کوالٹی کے سگریٹوں ٹیلیگراف نام کا سگریٹ محنت کش طبقے میں بڑا مقبول تھا۔ اس کو تار کا سگریٹ بھی تھے۔ اس کے دھوئیں کی بو اس قدر ناگوار ہوتی تھی کہ اچھا سگریٹ پینے والا آدمی سگریٹ پینے والے کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا۔

یہ سگریٹ چاہے کتنے گھٹیا تھے مگر ان میں یہ خوبی ضرور تھی کہ جو کچھ بھی اندر بھرا ہوا ہوتا تھا اصلی ہوتا تھا۔ نقلی نہیں ہوتا تھا۔ درمیانے اور اعلیٰ درجے کے سگریٹوں میں ہر برانڈ کا ذائقہ اور اس کی خوشبو الگ ہوتی تھی۔ اس کے دھوئیں سے آدمی کو

تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی۔

گراموفون چابی دینے سے چلتا تھا۔ اس کے اندر سپرنگ ہوتا تھا جو چابی وں سے کس جاتا تھا۔ چابی دیتے وقت بڑی احتیاط کرنی پڑتی تھی۔ چابی دینے والی ہتھی کا ایک چکر بھی زیادہ ہو جاتا تھا تو گراموفون کا سپرنگ جسے فٹر کہتے تھے ٹوٹ جاتا تھا اور نیا سپرنگ ڈلوانا پڑتا تھا۔ چابی کم دی جاتی تو گھومتے ہوئے ریکارڈ کی رفتار دھیمی ہو جاتی تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے گانے والا گاتے گاتے سو گیا ہو۔ اس وقت فوراً چابی دی جاتی اور گانے والے کی آواز ایک بار تیز ہو کر دوبارہ نارمل ہو جاتی تھی۔

جس روز ہم کلکتے سے رگون روانہ ہوئے اس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہم لوگ اپنے ساز و سامان ساتھ کلکتے کی بندرگاہ خضر پور جیٹی پر پہنچ گئے۔ رگون جانے والے مسافر ایک بہت کا ہال کمرے میں اپنے اپنے سامان کے پاس بیٹھے تھے۔ ان میں ہندوستان کے تقریباً صوبے کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ سورتی مین لوگوں اور پوریوں اور مدراسیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک سردار جی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ فرش پر دری بچھائے بیٹھے کوئی کڑ پڑھ رہے تھے۔ جنگ لگی ہوئی تھی اور ہٹلر کی آپ بیتی ”میری جدوجہد“ اس زمانے بڑی مشہور کتاب تھی۔ یہ سردار جی بھی ہٹلر کی آپ بیتی والی کتاب کا اردو ترجمہ ہی پڑھا تھا۔ ہماری فیملی بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ سردار جی بھائی جان سے باتیں کرنے لگے۔ سردار جی کا رگون میں کوئی کاروبار تھا۔ انہیں معلوم ہوا کہ رگون سے جو اردو اخبار شائع ہوتے ہیں بھائی جان ان اخباروں ایڈیٹر ہیں تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے ہٹلر کی کتاب دکھا کر بھائی جان سے پوچھا۔

”ملک صاحب! آپ نے ہٹلر کی ”میری جدوجہد“ پڑھی ہے؟“

اردو میں اس کتاب کا نام ”میری جدوجہد“ تھا۔ بھائی جان نے بتایا کہ

نے وہ کتاب پڑھ رکھی ہے۔ سردار جی بولے۔

”بڑی زبردست کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہمیں

ایسے لیڈر کی ضرورت ہے۔ یہ بکری کا دودھ پینے والے دھوتی پوش کانگریسی لیڈر ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ کیا خیال ہے ملک صاحب؟“

بندرگاہ کے ہال کمرے میں مسافروں کے رش کی وجہ سے جیس ہو رہا تھا۔ لوگوں کا شور بھی بہت تھا۔ میں نے ایک مسافر کو دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں کبھی ہال کے اس گیٹ پر جاتا تھا جہاں ہمیں ٹکٹ اور میڈیکل کے کاغذات دکھا کر جہاز کے پاس جانا تھا اور کبھی دوڑ کر دوسرے گیٹ کی طرف چلا جاتا۔ اس آدمی کا گھبراہٹ ہوا پسینے میں شرابور زرد چہرہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ گجراتی ہے اور ہندوستان سے جو مال برمالے جا رہا تھا اس کو بندرگاہ کے حکام نے کسی وجہ سے عین وقت پر روک لیا ہے۔ معلوم نہیں اس گجراتی تاجر کے ساتھ بعد میں کیا ہوا۔ ہم سینکر پر اعلان ہونے کے بعد ٹکٹ اور میڈیکل کے کاغذات دکھا کر بندرگاہ کے وارف یعنی پلیٹ فارم پر آ گئے۔ بہت بڑا بحری جہاز جیٹی کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ دو جگہوں پر سیڑھیاں لگی تھیں۔ ایک سیڑھی درمیانے اور نچلے ڈیک والے مسافروں کے لئے تھی اور دوسری سیڑھی اوپر والے ڈیک یعنی عرشے کے لئے تھی۔ سیکنڈ اور فٹ کلاس کے مسافر ٹچل سیڑھی کے ذریعے جہاز پر سوار ہو رہے تھے اور تھرڈ کلاس کے مسافر اوپر والی سیڑھی کے ذریعے عرشے پر جا رہے تھے۔ ہمارے ٹکٹ سیکنڈ کلاس کے تھے۔ جیٹی کے قلیوں نے ہمیں اپنے نمبر دے کر ہمارے کیمبن کا نمبر لے لیا تھا۔ سامان ایک اور تختہ نما سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھایا جا رہا تھا۔

میں پہلی بار کسی بحری جہاز میں داخل ہو رہا تھا۔ جہاز کے خلاصی نیلی دردیوں میں لمبوس گھوم پھر کر اپنے اپنے فرائض ادا کر رہے تھے۔ ہر طرف ایک ہنگامہ برپا تھا۔ مسافر ایک دوسرے کو آوازیں دے دے رہے تھے۔ جہاز کی گیلری میں آتے ہی مجھے کافی تمباکو اور مشین کے جیلے ہوئے تیل کی ملی جلی بو محسوس ہوئی۔ ہمارے کیمبن کے آگے لمبی راہ داری تھی۔ میں راہ داری کے جھنگلے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور نیچے مسافروں کو ادھر ادھر دوڑتے بھاگتے بچوں کو سنبھالتے اور قلیوں کو سامان اٹھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں نے جھک کر جہاز کے پینڈے پر نگاہ ڈالی۔ پلیٹ فارم کی دیوار اور جہاز کے پینڈے کے

اور بچے بھی ساتھ ہی تھے۔ کچھ مسافروں نے چادریں تان کر پردہ کیا ہوا تھا۔ ذرا آگے لوہے کا ایک گول چکر تھا جس کے ساتھ لنگر کی موٹی زنجیر لٹی ہوئی تھی۔ یہ سمندر میں لنگر پھینکنے والی مشین تھی۔

میں جہاز کے اس مقام پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سامنے کی جانب جہاز کی دونوں طرف کی دیواریں آ کر مل جاتی تھیں۔ یہ جہاز کا شمالی سرا تھا۔ یہاں ایک لمبے پول پر جہاز کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یہاں بیٹھنے کی چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور جھانک کر دریا کی گدلی لہروں کو دیکھنے لگا جو بے معلوم انداز میں جہاز کے پینڈے سے آ کر ٹکرا رہی تھیں۔ یہاں جہاز کے اوپر والے حصے کے ایک گول سوراخ میں سے لنگر کا موٹا سنکل نیچے جا کر دریا میں اتر گیا تھا۔ جہاز لنگر انداز تھا۔

کچھ دیر یہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں نیچے کیبن میں آ گیا۔ بھائی جان کہنے لگے۔ ”تم کہاں چلے گئے تھے؟ آؤ بیٹھو۔ تھوڑی دیر میں کھانے کا ٹائم ہو جائے گا۔ میں نے کھانا کیبن میں ہی منگوایا ہے۔“

مگر میرے پاؤں نہیں نکلتے تھے۔ میں تھوڑی دیر کے بعد کیبن سے نکل آیا اور کیبن کے سامنے جو گیلری تھی اس کے جنگلے کے ساتھ لگ کر چینی کے پلیٹ فارم کو دیکھنے لگا جہاں ابھی تک مسافروں کی ریل چل گئی ہوئی تھی۔ میں بڑی بے چینی سے جہاز کے چلنے کا منتظر تھا۔ پھر پلیٹ فارم پر ایک سفید اور نیلی وردی والا کوئی آفیسر نمودار ہوا۔ وہ جہاز کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور گلے میں لٹکی ہوئی سیٹی دو تین بار زور زور سے بجائی۔ پلیٹ فارم پر ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ تیلی وردیوں والے قلی جہاز کی سیڑھیوں سے جلدی جلدی اتر رہے تھے۔ اس کے بعد پلیٹ فارم مسافروں سے تقریباً خالی ہو گیا۔ سیکنڈ کلاس کے دوسرے مسافر مدعو تھیں بھی کیبن سے نکل کر گیلری میں آ گئے۔ بھائی جان بھی باہر آ گئے۔ کہنے لگے۔

”لو بھئی جہاز چلنے لگا ہے۔“

میں بہت خوش ہوا کہ اب میرا پہلا سمندری سفر شروع ہونے والا ہے۔ میں نے

درمیان جگہ جگہ بڑے بڑے ربڑ کے ٹائر پھنسے ہوئے تھے۔ یہ اس لئے رکھے جاتے تھے کہ جہاز کی دیوار پلیٹ فارم کی دیوار سے رگڑ نہ کھائے۔

میں سیکنڈ کلاس کی راہ داری کا زینہ چڑھ کر اوپر عرشے یعنی کھلے ڈیک پر آ گیا آسمان پر بادل تھے۔ سفید پرندے جہاز کی ایک جانب اڑ رہے تھے اور دریا میں مسافروں کے گرائے ہوئے ڈبل روٹی وغیرہ کے ٹکڑے غوطہ لگا کر اٹھاتے اور اوپر کو نکل جاتے تھے۔ جہاز دریا میں کھڑا تھا۔ یہ جہاز دریا ہے جو بنگال میں داخل ہونے کے بعد ہنگلی کے نام سے پکارا جا رہا ہے۔ یہ دریا آگے جا کر خلیج بنگال کے سمندر میں گرتا ہے۔ خلیج بنگال کے سمندر کو کالا پانی بھی کہا جاتا ہے۔

بھائی جان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ اس سمندر کا پانی کالا سیاہ ہے مگر صرف دیکھنے میں کالا سیاہ نظر آتا ہے۔ چلو میں بھر کر دیکھو تو وہ کالا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا اس کی وجہ خلیج بنگال کے سمندر کی تہ میں آگی ہوئی سیاہ جھاڑیاں اور سیاہ چٹانیں ہیں بہر حال میں اس سمندر کے سیاہ پانی کو دیکھنے کے لئے بے تاب تھا کیونکہ میں نے اس وقت تک یہی سنا اور پڑھا تھا کہ سمندر نیلا ہوتا ہے۔ سمندر کالا بھی ہوتا ہے یہ میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا۔

میں دریا کی دوسری طرف عرشے کے جنگلے کے پاس کھڑے ہو کر دریا کا نظارہ کرنے لگا۔ دریا کا پاٹ اتنا کشادہ نہیں تھا۔ دور کنارے پر درختوں کے جھنڈ دکھائی دے رہے تھے۔ دریا کا پانی گدلا تھا۔ کچھ فاصلے پر چھوٹی چھوٹی کشتیاں چل رہی تھیں۔ دریا سطح کافی نیچی تھی۔ یہ تین چار منزلہ جہاز کافی بڑا تھا۔ مجھے جنگلے پر جھک کر دریا کی سطح دیکھنا پڑتا تھا۔

آبی پرندے اڑ رہے تھے۔ چکر لگا رہے تھے۔ شور مچا رہے تھے اور غوطے لگا لگا دریا کی سطح پر سے اپنی خوراک اٹھا رہے تھے۔ بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ عرشے کے درمیان میں بہت بڑی آہنی چھت کے نیچے تھرڈ کلاس کے مسافروں نے اپنے اپنے سامان لگا کر بیٹھے اور مسافروں میں زیادہ تعداد بد راسیوں اور پوربیوں کی تھی۔ ان کی عورتا

بھائی جان سے پوچھا کہ جہاز سمندر میں کس وقت پہنچے گا۔ کہنے لگے۔
”رات کو کسی وقت پہنچے گا۔“

جہاز کی سیڑھیاں اتاری جانے لگیں۔ پھر جہاز کے خلاصیوں نے اوپر جہاز
ساتھ بندھے ہوئے موٹے موٹے ریسے کھول کر نیچے پھینکنے شروع کر دیئے۔ جہاز ابھی
ساکن تھا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گڑ گڑ گڑ کی آ
آنے لگی۔ بھائی جان بولے۔

”جہاز کا لنگر اٹھایا جا رہا ہے۔“

لنگر اٹھانے جانے کی آواز غائب ہوئی تو جہاز کے انجن چلا دیئے گئے۔ جہا
گیلری کے فرش پر لرزش پیدا ہونے لگی۔ انجنوں کی آواز دبی دبی سی تھی۔ جیسے دور نیچے
تہہ خانے میں چل رہے ہوں۔ جہاز نے بارن بجانا شروع کر دیئے۔ بڑی زوردار آواز
تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد جہاز نے چھ سات بار بارن بجایا اور جہاز کو ہلکا سا جھٹکا
اس وقت پلیٹ فارم یعنی جیٹی پر مسافروں کو الوداع کہنے والے لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا
جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے۔ وہ ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے۔ اوپر ڈیک پر
کلاس کی گیلری اور فسٹ کلاس کی گیلری کے جھنگلے کے ساتھ بھی مسافروں کا ایک ہجوم
تھا۔ وہ بھی ہاتھ ہلا کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کو الوداع کہہ رہے تھے۔ میں جہا
دیوار کو نیچے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جہاز نے ہلنا شروع کر دیا تھا اور آہستہ آہستہ جیٹی
پہنچے ہٹ رہا تھا۔

جیٹی کی دیوار اور جہاز کے درمیان فاصلہ پیدا ہو رہا تھا اور یہ فاصلہ آہستہ آ
زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ جہاز نہ دائیں طرف مڑ رہا تھا نہ بائیں طرف مڑ رہا تھا۔ وہ پور
پورا آہستہ آہستہ پیچھے کو ہٹتا چلا جا رہا تھا۔ یہ جہاز کافی پیچھے چلا گیا تو وہ بے معلوم انداز
دائیں جانب سے بائیں جانب گھومتے لگا۔ جہاز اپنا رخ موڑ رہا تھا۔ بندرگاہ پیچھے ہو
رہی تھی۔

بھائی جان کیمین میں چلے گئے تھے۔ میں راہ داری کا زینہ چڑھتا ہوا ادھر

ڈیک پر آ گیا اور جہاز کے سرے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جہاز کی ٹکونی ٹوک دریا کی لہروں کو
چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ آبی پرندے جہاز کے اوپر چکر لگا رہے تھے۔ دریا کافی نیچے
تھا۔ بندرگاہ کی عمارت کافی پیچھے ہو گئی تھی۔ اور پلیٹ فارم سمیت پوری کی پوری نظر آنے
لگی تھی۔ جہاز دریا میں آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ عرشے پر جہاز کے خلاصی کل
پرزوں کی طرح اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ پورے ایک طرف اپنے سامان کے
پاس بیٹھے ڈھولک بجا کر کچھ گانے لگے تھے۔ مجھے خیال آیا کہ کھانا کیمین میں آ گیا ہوگا۔
مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں کیمین میں آیا تو کھانا لگ چکا تھا۔ میں نے سب کے ساتھ
بیٹھ کر کھانا کھایا۔ جہاز کا کھانا بڑا مزیدار تھا۔ بھائی جان کے چھیوٹ والے دوست ملک
صاحب نے خشک میووں کی ایک ٹوکری بھر کر ساتھ کر دی تھی۔ ہیشیرہ صاحبہ نے کھانے کے
بعد خشک میوے نکال کر پلیٹ میں رکھ دیئے۔ میں نے تھوڑے سے میوے اور بادام جیب
میں ڈالے اور یہ کہہ کر اوپر ڈیک پر آ گیا کہ میں جہاز کو چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔

اس وقت جہاز کلکتہ کی خضر پور جیٹی سے کافی آگے نکل آیا تھا اور اس کی عمارت
بائیں جانب کھلونے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ سورج بدستور بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔
دریا کے کنارے کافی دور دور ہو چکے تھے۔ جیٹی کے کنارے کی جانب کچھ جہاز بہت فاصلے
پر کھڑے آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے جا رہے تھے۔ دوسرے کنارے درخت اب ایک سیاہ
لیکیر میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دریا کا پاٹ بہت چوڑا ہو گیا تھا۔ سامنے کی جانب
دریا ہی دریا تھا اور کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔

آبی پرندوں کے جھگڑے ختم ہو گئے تھے۔ صرف چند ایک پرندے ابھی تک جہاز
کے اوپر منڈلاتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ خوشگوار ہوا کے جھونکے معمول کے مطابق
چل رہے تھے۔ ہوا میں دریا کی نمی کی خوشبو تھی۔ جہاز بڑے معمولی انداز میں کبھی دائیں اور
کبھی بائیں جانب ڈول رہا تھا۔ مجھے بچپن ہی سے موٹر اور لاری میں سفر کرتے ہوئے چکر آ
جایا کرتے تھے۔ مجھے یہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ اگر جہاز میں چکر آنے لگے تو کیا کروں گا۔
موٹر میں یا لاری میں چکر آتے تھے تو لاری رکوا کر نیچے اتر جاتا تھا لیکن اگر جہاز میں چکر

آنے لگے تو کیا کروں گا؟ نہ میں جہاز کو روکوا سکوں گا نہ نیچے اتر سکوں گا۔ جہاز کے ڈولنے کے باوجود جب مجھے ایک بھی چکر نہ آیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ سفر بڑے آرام سے کٹ جائے گا اور میں اس سے خوب لطف اندوز ہوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ابھی جہاز سمندر میں داخل نہیں ہوا۔ سمندر میں داخل ہونے کے بعد جہاز جس طرح ڈولے گا اور مراجو حال ہوگا وہ میرا حلیہ بگاڑ دے گا۔

جہاز کی ٹکونی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جب میں تھک گیا تو نیچے اپنے کیبن میں آ گیا۔ دن گزرتا جا رہا تھا۔ میں کیبن کی اوپر والی برتھ پر لیٹ کر سو گیا۔ کافی دیر سویا رہا۔ جب اٹھا تو سب سے پہلے میں نے یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ جہاز کے ڈولنے کی کیا کیفیت ہے۔ جہاز اسی طرح معمول کے مطابق ڈول رہا تھا، ہمشیرہ صاحبہ نے بتایا کہ شام کے پانچ بجتے والے ہیں۔ ہم دس گیارہ بجے دن کے وقت کلکتے سے چلے تھے۔ میں اوپر ڈیک پر آ گیا۔ دریا کے دونوں کنارے غائب ہو چکے تھے۔



میں نے دن کی ڈھلتی روشنی میں نیچے جھانک کر دریا کو دیکھا اور دریا کے پانی کا رنگ جو پہلے گدلا تھا اب اس میں نیلا ہٹ آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک آدمی میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ سمندر ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔

”سمندر ابھی نہیں آیا۔ ابھی تو سمندر بہت دور ہے۔ ابھی تو دریا، سمندر کی لہروں سے مل رہا ہے۔“

میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ جہاز کے اوپر اب کوئی آبی پرندہ نہیں منڈلا رہا تھا۔ آبی پرندے جہاز کو الوداع کہہ کر واپس جا چکے تھے۔ جہاز بھی کچھ زیادہ ڈولنے لگا تھا۔ مجھے چکر تو نہیں آرہے تھے۔ لیکن اس خیال سے کہ عرشے پر رہ کر چکروں کا احساس زیادہ نہ ہو جائے میں نیچے کیبن میں آ گیا۔ بھائی جان کپڑے بدل چکے تھے۔ کہنے لگے۔

”چلو یار! ٹی روم میں چل کر چائے پیتے ہیں۔“

ہم کیبن سے نکل کر جہاز کی بائیں طرف والی گیلری میں آ گئے۔ یہاں سے دریا نظر آ رہا تھا۔ دن کی روشنی شام کے بڑھتے ہوئے دھندلکے میں غائب ہو رہی تھی۔ جہاز کے ٹی روم میں چھوٹی چھوٹی گول میزوں پر گلدان سجے ہوئے تھے۔ فرش پر قالین بچھا تھا۔ بڑے سنجیدہ قسم کے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ان میں ہندوستانی بھی تھے اور دو تین انگریز بھی نظر آ رہے تھے۔ بڑی خاموشی تھی فضا میں۔ وردی پوش پیرے ٹرے میں چائے اور کھانے پینے کی چیزیں رکھے بے آواز قدموں سے ہر میز پر جا کر چیزیں وغیرہ رکھ رہے تھے۔ میں اور بھائی جان بھی ایک میز پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے چائے اور چکن سینڈویچز کا

درخت سے یا کسی دوسری لاری سے نکرانے لگتی یا اس میں اچانک آگ لگ جاتی تو میں لاری میں سے چھلاگ لگا کر جان بچا سکتا تھا لیکن یہاں تو چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ ہیبت ناک سمندر ہی سمندر ہے۔ اگر جہاز ڈوب گیا تو میں بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جاؤں گا۔

مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کرہ ارض پر سمندر ہی سمندر ہے۔ زمین کہیں نہیں ہے۔ مجھ پر کالے سیاہ اور بڑی بڑی موجوں والے سمندر کی ہیبت کی طاری ہو گئی۔ مجھے خوف محسوس ہونے لگا اور میں جلدی سے نیچے کیبن میں آ گیا۔ اس وقت مہرے دل میں زمین کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔

ایک بات کی وضاحت میں ایک بار پھر اپنے قارئین کرام کے سامنے کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے میں نے برما اور سری لنکا کے سفر کے بارے میں چند ایک کتابیں لکھی ہیں جن میں ایک تو افسانوی اور ناول کا رنگ غالب تھا۔ دوسرے بعض جگہوں پر مصلحت کی بنا پر میں نے کچھ نام حذف کر دیئے تھے اور بعض واقعات کو افسانوی انداز میں پیش کیا گیا تھا لیکن اس سفر نامے کو میں پوری تفصیل کے ساتھ اپنے حقیقی روپ میں پیش کر رہا ہوں اور کسی مصلحت سے کام نہیں لیا جا رہا۔ تاکہ قارئین کرام کو اس زمانے کے حالات و واقعات اور لوگوں کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کی جاسکیں۔

اس وقت ہمارا جہاز کلکتے کے دریائے ہنگلی کے ڈیلٹے سے نکل کر خلیج بنگال کے سمندر میں جس کو کالا پانی کہتے ہیں داخل ہو چکا ہے۔ اس کالے سمندر کو دیکھنے سے ہی بدن پر خوف سا طاری ہوتا تھا۔ کئی کئی میل لمبی موجیں دور دور سے آ کر جہاز سے ٹکرائی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ جہاز سمندر کے رحم و کرم پر ہے۔ جہاز کی رونگ شروع ہو گئی تھی لیکن اس نے ابھی شدت اختیار نہیں کی تھی۔ موجیں کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب سے تھوڑا سا اوپر اٹھا کر پھر نیچے لے آتی تھیں۔ جہاز کی ایک اور حرکت بھی تھی وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر پھر اوپر اٹھ آتا تھا۔ مجھے معمولی سے چکر آنا شروع ہو گئے تھے۔ ہوا بھی

آرڈر دیا۔ یہاں بیٹھ کر جہاز کی حرکت بہت خفیف محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی جان کو علم تھا کہ مجھے لاری میں ہی چکر آ جاتے ہیں کہنے لگے۔

”نکرنہ کرو..... جہاز میں آکر چکر آئے تو یہاں کے ڈاکٹر دوآئی سے اسے بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔“

پھر چائے آ گئی۔ اس وقت تک چائے کے ساتھ میری دوستی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی۔ بس دور دور سے سلام دعا ہی ہوتی تھی۔ میرے مزاج میں چائے کا ذوق ضرور موجود تھا مگر مجھے اس کا احساس نہیں تھا۔ اتنا یاد ہے کہ چائے بڑی مزیدار تھی۔ کچھ دیر ٹی روم کی پرسکون فضا میں بیٹھنے کے بعد ہم واپس اپنے کیبن کی طرف چل پڑے۔ میں نے گیلری کے چنگلے کی طرف دیکھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہوا بھی تیز اور ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا بھی ہم نے کیبن میں ہی منگوا کر کھایا۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ ساری رات سو یا رہا۔ کافی دن چڑھے مجھے بھائی جان نے جگایا اور کہا۔

”اوپر جا کر دیکھو جہاز سمندر میں داخل ہو گیا ہوا ہے۔“

سب سے پہلے میں نے برتھ کی زنجیر کو پکڑ کر یہ دیکھا کہ جہاز زیادہ تو نہیں ڈول رہا لیکن جہاز زیادہ نہیں ڈول رہا تھا۔ اس کی رونگ میں صرف اتنا فرق پیدا ضرور ہوا تھا کہ پہلے دائیں اور بائیں خفیف انداز میں ڈولتا تھا اب تھوڑا تھوڑا اوپر نیچے بھی ہورہا تھا مگر مجھے کوئی چکر نہیں آ رہا تھا۔ میں جلدی سے جہاز کے عرشے پر آ گیا۔ وہاں اور مسافر بھی چنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔

کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں طرف کالا سیاہ سمندر ہی سمندر ہے۔ سامنے کی جانب سے سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا جہاز اوپر نیچے ہوتا، کبھی تھوڑا سا آگے کو جھکتا اور پھر اوپر کو اٹھتا آگے ہی آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ جہاز کی ٹکون سے سمندر کی سیاہ قام تار کول ایسی لہریں ٹکرائی کہ سفید جھاگ پیدا کر رہی تھیں۔ ہوا بھی تیز ہو گئی تھی۔

اس وقت مجھے پہلا جو خیال آیا تھا وہ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ پہلا خیال یہ آیا تھا کہ اگر میں کسی لاری وغیرہ میں سفر کر رہا ہوتا اور لاری بے قابو ہو کر آگے کسی

بڑی تیز چل رہی تھی۔ اس ہوا میں سمندر کی نمکین نمی تھی جو چہرے اور کپڑوں سے چپک رہی تھی۔ آسمان پر بادل گہرے ہو رہے تھے۔ پھر بوند باندی شروع ہو گئی۔ میرے چکرور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نیچے آ گیا اور برتھ پر لیٹ گیا۔

جہاز کی رولنگ جاری تھی۔ بھائی جان نے کہا کہ کچھ کھا لو۔ کھانے سے چکر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا خشک میوہ دیا۔ میرا کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی ایک دو بادام اور میوے کھائے۔ سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اٹھ کر ہاتھ روم میں گیا۔ ہاتھ روم سے واپس آیا تو طبیعت قدرے زیادہ خراب ہونے لگی تو بھائی جان مجھے جہاز کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے مجھے دوائی کی ایک ایک ڈبل خوراک پلائی جس کے بعد چکر آہستہ آہستہ غائب ہو گئے اور طبیعت کچھ سنبھل گئی۔

ساری رات جہاز بری طرح ڈولتا رہا۔ کبھی ایک دم نیچے چلا جاتا اور پھر سے اوپر کواٹھنے لگتا۔ دائیں بائیں بھی رولنگ کر رہا تھا۔ ہمشیرہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ یہ برسات کا موسم تھا۔ اس موسم میں خلیج بنگال کے سمندر میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں اور طوفان اٹھتے ہیں۔ ہمیں بھائی جان کی رنگون میں اخباری ذمے داریوں کی وجہ سے اس موسم میں سفر کرنا پڑا تھا۔

ڈاکٹر نے مجھے جو دوائی پلائی تھی اس کی وجہ سے مجھے چکر آنا تو بند ہو گئے تھے لیکن یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر جہاز سمندر میں ڈوب گیا تو ہم سب اس کے ساتھ ہی ڈوب جائیں گے۔ وہاں بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ساری رات اس ڈر خوف میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو جہاز کی رولنگ میں کوئی فرق نہیں آیا تھا بلکہ رولنگ زیادہ ہو گئی تھی۔ چونکہ میرے سر کے چکر بند ہو گئے تھے اس لئے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اوپر جہاز کے عرشے پر جا کر دیکھنا چاہئے کہ سمندری طوفان کیسا ہوتا ہے؟

میں کسی بہانے کیبن سے نکل کر راہ داری کی میزھیوں کا سہارا لیتا اوپر ڈیک پر آ گیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ دن کا وقت تھا۔ میں زینے کی سب سے اوپر والی میزھی پر دونوں ہاتھوں سے آہنی زینے کو پکڑ کر کھڑا تھا۔ کالے سیاہ سمندر کی دیوبہکل موجیں جہاز کو کھلونے

کی طرح ادھر ادھر اچھال رہی تھیں۔ عرشے کے تھرڈ کلاس کے سارے مسافر نیچے لوئر ڈیک میں جا چکے تھے جو جہاز کے اس حصے میں ہوتا ہے جو پانی میں ڈوبا ہوتا ہے اور جہاں عرشے پر باہر کو نکلی ہوئی بڑی بڑی چینیوں سے تازہ ہوا پہنچائی جاتی ہے۔

جہاز کے خلاصی دوڑ دوڑ کر چیزوں کو سمیٹ رہے تھے۔ پتا نہیں وہ کیا کام کر رہے تھے جس وقت جہاز سمندر میں داخل ہوا تھا تو پانی جہاز کے اتنا نیچے تھا کہ عرشے کے چنگے پر سے جبک کر اسے دیکھنا پڑتا تھا مگر اب اس کی پھری ہوئی موجیں جہاز سے ٹکرا کر شور مچاتی ڈیک کے فرش پر آ رہی تھیں۔

اس منظر نے مجھے زیادہ خوفزدہ کر دیا۔ یہ ساری علامتیں جہاز کے ڈوبنے کی تھیں بلکہ جہاز اوپر والے ڈیک تک سمندر میں پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔ سمندر کا طوفان غیض و غضب کے عالم میں تھا۔ چیخ چلاتی شور مچاتی تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ خدا کی خدائی یاد آ رہی تھی۔ میں زینے میں دونوں ہاتھوں سے ریٹنگ کو پکڑنے کھڑا تھا اور جہاز کے ساتھ ہی دائیں بائیں جھول رہا تھا۔ جہاز ایک بار ایک جانب سے اتنا اونچا ہو گیا کہ لگتا تھا الٹ جائے گا۔ میرا ایک ہاتھ چھوٹ گیا۔ میں گرتے گرتے بچا اور وہیں زینے میں لوہے کی ریٹنگ سے چٹ کر بیٹھ گیا۔

کافی اونچا جانے کے بعد جہاز ایک دم نیچے کو آ گیا۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں ایک ایک میزھی کر کے آہستہ آہستہ زینے پر سے نیچے آ گیا۔ راہ داری میں رولنگ کے پیش نظر دونوں جانب کیبنوں کی دیواروں کے ساتھ لکڑی کی ریٹنگ سی لگی ہوئی تھی۔ میں اس کو پکڑ پکڑ کر بڑی مشکل سے اپنے کیبن کے دروازے تک پہنچ گیا۔ اب کیبن کے دروازے کی ہتھی پر میرا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا۔ طوفانی موجوں نے جہاز کو میری بائیں جانب سے اونچا کیا تو میں خود بخود کیبن کے دروازے سے جا نکلایا۔ جلدی سے دروازہ کھول کر اندر گیا تو ہمشیرہ اور بھائی جان نے مجھے سخت ڈانٹا کہ میں اس قدر طوفان میں کہاں نکل گیا تھا۔ وہ ساری رات اور اگلے سارا دن جہاز سمندری طوفان میں سے گزرتا رہا۔

دوسرے دن میں لوئر ڈیک پر اتر کر گیا۔ یہاں فرش لوہے کا تھا اور نیچے جہاز

کے کلس غروب ہوتے سورج کی گلابی روشنی میں چمک رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے بدھ مندر زمین کے اندر سے ابھرے ہوئے ہوں۔ اس کے بعد برما شیل والوں کے بڑے بڑے دیو پیکل ٹینک زمین سے باہر نکلے ہوئے نظر آنے لگے۔ جہاز دریا میں آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ دو سٹیئر جہاز سے کچھ فاصلے پر ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ ایک جانب کئی جہاز کھڑے تھے جن پر اپنے اپنے ملک کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ہوا میں تازگی تھی اور پاکیزہ لمس کا احساس ہو رہا تھا۔

کناروں پر ناریل کے درختوں کے جھنڈ اور پرواٹھے ہوئے تھے۔ جہاز کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی۔ دور رنگوں کی بندرگاہ کی عمارتیں اور گوداموں کی سرخ چھتیں نظر آنے لگیں۔ آخر خدا خدا کر کے جہاز رنگوں کی بندرگاہ میں داخل ہو گیا اور پھر بندرگاہ کی جانب پہلو کے رخ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد پہلو کی جانب سے بندرگاہ کی جیٹی کی سمت بڑھنے لگا۔ وہ بڑی ہلکی رفتار سے بندرگاہ کے پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیٹی پر کھڑے لوگ نظر آنے لگے تھے۔

یہ مسافروں کے دوست اور عزیز واقارب تھے جو انہیں لینے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ آخر جہاز پلیٹ فارم کے ساتھ لگ گیا۔ جہاز کے اوپر سے موٹے موٹے رے نیچے پھینکے جانے لگے۔ جہاز کا آہنی لنگر گرا دیا گیا۔ پلیٹ فارم پر موجود آدمیوں نے جہاز کے رسوں کو پلیٹ فارم کے لوہے کے بڑے بڑے کھمبوں کے ساتھ باندھ دیا۔ بھائی جان میرے قریب ہی سیکنڈ کلاس کے ڈیک پر جھنگلے کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے جیٹی پر کسی کو دیکھ کر زور زور سے ہاتھ ہلایا۔ کہنے لگے۔

”حاجی صاحب آئے ہیں۔ ساتھ انجم صاحب بھی ہیں۔“

ہمارے ڈیک کو بھی میزھی لگا دی گئی۔ ہم جہاز سے اتر کر زمین پر آ گئے۔ مجھے اس وقت بھی زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دروازہ گورے رنگ کے خوش شکل اور شلوار قمیص میں لمبوس آدلی آگے بڑھ کر بھائی جان سے ملے۔ بھائی جان نے مجھے بھی ان سے ملایا۔ یہ صاحب رنگوں کے مشہور سوداگر حاجی رحیم بخش صاحب تھے جن کا رنگوں

کے انجنوں کے چلنے کی گڑگڑاہٹ بھی کافی سنائی دے رہی تھی۔ اور فرش پر لرزش بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تھر ڈکلاس کے مسافر جگہ جگہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے۔ ایک طرف چھوٹا سا کاؤنٹر تھا جہاں ایک بنگالی یا مدراسی بڑے سے حمام کے پاس بیٹھا تھا اور پیتل کے گلاسوں میں کافی ڈال کر گاہکوں کو دے رہا تھا۔ میں نے بھی ایک گلاس کافی کالیا اور وہیں ایک طرف فرش پر بیٹھ کر پینے لگا۔

عجیب بات تھی کہ ڈاکٹر کی دوائی نے طلسمی اثر کیا تھا اور میرے چکر بالکل غائب ہو گئے تھے۔ بھائی جان وہ دوائی میرے لئے اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے اور صبح کو انہوں نے مجھے اس کی ایک خوراک پلا دی تھی۔ کافی کڑوی تھی۔ دودھ اور چینی اس میں برائے نام ہی تھی۔ اس سے پہلے کلکتے میں بھائی جان کے ساتھ ایک جگہ کافی پی تھی مگر وہ کافی بڑی میٹھی تھی اور اس میں دودھ کے ساتھ کریم بھی ملی ہوئی تھی۔

یہ کافی سخت کڑوی تھی مگر اس نے میری طبیعت پر اچھا اثر ڈالا۔ تیسری رات کو کہ کہیں سمندر کا طوفان ختم کیا۔ رونگ کی شدت بھی ختم ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے جہاز کے ساتھ غرق ہونے سے بچالیا تھا۔

یہ تین دن کا سمندری سفر تھا۔ تیسرے دن صبح جہاز رنگوں کے دریائے ایراواڈ کے ڈیلٹے میں داخل ہو گیا۔ سمندر کے سیاہ پانی میں دریا کی گدلی لہریں کھل مل رہی تھیں جہاز کی رونگ بھی ختم ہو گئی تھی۔ جہاز کے اوپر ایک بار پھر آبی پرندوں نے منڈلانا شروع کر دیا تھا۔ یہ ملک برما کے آبی پرندے تھے۔ دریا کے کنارے ابھی دکھائی نہیں دے تھے۔ دوسرے مسافر بھی عرشے پر کھڑے زمین کی ایک جھلک دیکھنے کو بے تاب تھے اور دور پہلے دائیں جانب ایک سیاہ لکیری نمودار ہوئی اس کے بعد ایسی ہی ایک لکیر آہستہ بے معلوم انداز میں قریب آنے لگی۔

دوپہر کے بعد یہ لکیریں ملک برما کے مشہور دریا ایراواڈی کے کنارے تھے۔ کہا کہیں کشتیاں اور دور کھڑے جہاز بھی نظر آجاتے۔ پانی کے رنگ سے سیاہی غائب ہو تھی اور ہم دریا میں سے گزر رہے تھے۔ کنارے پر بڑے بڑے پیگو ڈال یعنی بدھ مندر

لک یعنی ملک بھائی جان کے دونوں اخباروں کا شاف بھی موجود تھا۔ میں رات کو جلدی سو گیا۔ صبح اٹھا تو کمرے کی کھڑکی میں سے تازہ سبزے کی خوشبو خوشگوار جھونکوں کے ساتھ ندر آ رہی تھی۔ میں باہر آنے کے لئے بنگلے کی لابی میں سے گزر رہا تھا کہ لکڑی کی خوشنما بیڑھیوں پر سے سرخ و سفید سنہری بالوں اور سنہری چشموں والے انجم صاحب بیڑھیاں ترتے ہوئے فارسی کا یہ شعر گنگنا رہے تھے۔ عجیب بات ہے ان کا یہ شعر مجھے پورے کا پورا ہی وقت یاد ہو گیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ گھر میں والد صاحب کے اصرار پر مجھے شروع ہی سے فارسی زبان سکھائی جاتی رہی تھی۔



میں فروٹ کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ حاجی صاحب کا تعلق پشاور سے تھا۔ ان کے ہمراہ گورے چنے رنگ، گھنگریالے سنہری بالوں اور سنہری چشمے والے ایک اور جوان رعنا بھی تھے۔ یہ صاحب حاجی رحیم بخش صاحب کے قریبی عزیز تھے اور ان کا نام انجم صاحب تھا۔ بعد میں معلوم کہ وہ شاعر بھی تھے اور انجم غالباً ان کا تخلص تھا۔ دو گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم حاجی رحیم صاحب کے بنگلے پر آ گئے۔ رنگوں کی سڑکیں کشادہ اور صاف ستھری تھیں۔ فٹ پاتھ اونچے اونچے درخت تھے جن کے پیچھے ماڈرن طرز کی عمارتیں تھیں۔ بری عورتیں اور سروں پر زرد رومال باندھے ہوئے تھے۔ ایک سڑک پر سے گزرے جہاں ٹرام چل تھی۔ کہیں کوئی بند گھوڑا گاڑی تھی اور کہیں موٹر کار تھی۔

ہاتھوں سے کھینچنے والے رکشا چلتے تھے۔ رکشا چلانے والے کالے رنگ کے زوہ انسان لگتے تھے۔ ان کے نقش اور رنگ مدراسیوں کے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ مدراس کے رہنے والے تامل لوگ ہیں جنہیں یہاں قرنگی کہا جاتا ہے۔ رکشا کھینچنے والا بری نہیں تھا۔ عمارتوں کے درمیان اور فٹ پاتھ پر ناریل کے جھنڈ بھی تھے۔ رنگوں کا بھی ویسا ہی تھا جیسا کلکتے کا موسم تھا۔ آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا۔ مجھے ابھی تک ایسے ہو رہا تھا جیسے میں بحری جہاز میں بیٹھا ہوں اور جہاز رولنگ کر رہا ہے۔ طبیعت پوری بحال نہیں ہوئی تھی۔ ہم ایک کشادہ چوک میں سے گزرے جہاں ایک عظیم الشان مندر یعنی ہیکو ڈا تھا۔

بھائی جان نے بتایا کہ یہ رنگوں کا سب سے بڑا ہیکو ڈا سولی ہیکو ڈا ہے۔ ایک بہت بڑے اور بلند چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ اوپر تک بیڑھیاں جاتی تھیں۔ ہیکو گنبد اور کلس ہارے کا سارا سنہری تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور بھی ہیکو ڈے تھے رحیم بخش صاحب کا بنگلہ بڑا خوبصورت تھا۔ چینی طرز کی دو منزلہ عمارت تھی۔ ساری لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ سرسبز گھاس والے باغ میں پھول کھل رہے تھے۔ حاجی صاحب نے بڑی پر تکلف دعوت دی۔ پشاور کے مشہور کھانے کپے ہوئے تھے

آباد کی طرف جاتے ہوئے دائیں جانب ادبستان صوفیہ سکول کے اندر کہیں تھا۔ سڑک پر سے اس کا اوپر والا آدھے سے زیادہ حصہ صاف دکھائی دیتا تھا جس کی ٹہنیاں سرخ پھولوں سے لدی ہوئی تھیں۔ میں یادوں کا مسافر ہوں۔ مجھے رنگوں یاد آ گیا۔ گاڑی یا رکشے میں آتے جاتے میں اس درخت کو ضرور دیکھا کرتا تھا۔

رنگوں کی صبح کلکتے کی صبح کی طرح مرطوب تھی۔ دو دن پہلے رنگوں میں بڑی بارش ہوئی تھی۔ سبزہ درخت اور پھولوں کے چہرے دن کی روشنی میں دھلے ہوئے لگ رہے تھے کیونکہ رنگوں میں گرد کہیں بھی نہیں اڑاتی تھی۔ کلکتے کی طرح اس شہر کی سڑکیں بھی رات کو روزانہ دھوئی جاتی تھیں۔ ویسے بھی شہر میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ پتے، تازہ اور ناریل کے درخت عام تھے۔ حاجی رحیم بخش صاحب کے بنگلے کے آگے ایک چھوٹی سی سڑک تھی۔ سڑک کے پار کھلا میدان تھا جس میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔

حاجی صاحب کا ایک کولڈ سٹوریج بنگلے کے عقب میں تھا۔ انہوں نے مجھے کولڈ سٹوریج دکھایا۔ کولڈ سٹوریج میں سیبوں کی خوشبو تھی۔ یہ سیب حاجی صاحب آسٹریلیا سے درآمد کرتے تھے۔ اندر سیبوں کے ڈھیر لگے تھے۔ کولڈ سٹوریج میں مجھے بڑی جلد ٹھنڈ لگنے لگی۔ حاجی صاحب مسکراتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ باہر لے آئے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے حاجی رحیم بخش صاحب سواری رنگ کی قرالی ٹوپی پہنتے تھے۔ فریئر اسٹریٹ میں ان کا آفس تھا۔ ان کی بڑی سی خوشنما میز پر پلیٹ میں دو تین سبز اور سرخ سیب ضرور رکھے ہوتے تھے اور ان کے آفس میں بھی سیبوں کی خوشبو پھیلی رہتی تھی۔ جس سڑک پر حاجی صاحب کا آفس تھا میں نے اس کا نام فریئر سٹریٹ لکھا ہے۔ مجھے مغالطہ تھا کہ شاید اس سڑک کا نام فریئر سٹریٹ تھا۔ میں نے بڑی ہمیشہ صاحبہ سے ٹیلی فون پر تصدیق کی تو انہوں نے کہا کہ اس سٹریٹ کا نام فریئر سٹریٹ ہی تھا اور اس سڑک کے آخر میں ڈاک خانہ بھی تھا۔ اس تصدیق کے بعد میں سفر نامہ آگے شروع کرتا ہوں۔

حاجی رحیم بخش صاحب کے بنگلے پر ایک یا دو دن رہنے کے بعد ہم لوگ لیوس سٹریٹ کے ایک کشادہ فلیٹ میں آ گئے۔ نام اس کا سٹریٹ ہی تھا مگر یہ کوئی گلی نہیں تھی۔

پانچویں جماعت میں والد صاحب نے مجھے محلے کے غلام محمد رفوگر کے پاس فارسی پڑھنے کے لئے بٹھا دیا تھا۔ والد صاحب کو شوق تھا کہ میں فارسی پڑھ کر انہیں ۱۰۰۰ روپے کی گلستان بوستان کی حکایات سنایا کروں۔ سکول میں بھی میں فارسی ہی پڑھتا تھا۔ سکول کی فارسی مجھے فارسی زبان نہ سکھا سکی۔ آج اگر فارسی مجھے تھوڑی بہت آتی ہے تو صرف میرے محسن استاد غلام محمد رفوگر کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھا چنانچہ اتنی فارسی زبان جان گیا تھا کہ جب سواری سوٹ میں ملیوس صاحب بنگلے کی دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے فارسی کا شعر گاتے اتر رہے تھے تو وہ فوراً یاد ہو گیا تھا۔ وہ شعر یہ تھا۔

علی الصباح چوں مردم بہ کاروبار روند
بلا کشان محبت بہ کوئے یار روند

میں بنگلے کے لان میں آ کر رنگوں کے آسمان درختوں اور سرسبز لان کے پھول کو دیکھنے لگا۔ یہ پھول اور درخت امرتسر کے کہنی باغ کے پھولوں اور درختوں سے ملتا تھے۔ یہ درخت سنبل کے درخت کی طرح بڑا گھٹا اور اونچا درخت تھا اور اس کی تہ ساری شاخیں سرخ رنگ کے پھولوں سے بھری ہوئی تھیں۔ بھائی جان نے بتایا کہ یہ پیکل یعنی استوائی درخت ہے اور صرف جنوبی ایشیا کے گرم مرطوب ملکوں میں ہوتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ایک ایسا ہی درخت میں نے لاہور میں دیکھا تو میں تک سڑک کے فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ یہ درخت مزنگ چونگی سے

یہ فریئر سٹریٹ ہی کے پہلو میں تھی اور بالکل ایسی سٹریٹ تھی جس طرح لاہور کی مال روڈ پر سے بیڈن روڈ نکلتی ہے۔ لیوس سٹریٹ بیڈن روڈ سے کچھ زیادہ ہی کشادہ تھی۔ فریئر سٹریٹ سے لیوس سٹریٹ میں داخل ہوں تو کونے پر ایک ریسٹوران تھا جس کا نام ماتری بھنڈار تھا۔ یہاں بیٹھ کر لوگ چائے پیتے تھے۔ کافی بھی پیتے تھے۔ ماتری بھنڈار میں نے زندگی میں پہلی بار کوکو مشروب پیا۔ یہ کافی سے زیادہ سڑوگ تھی اور ذائقہ کڑوا کڑوا تھا۔ مجھے کوکو اس لئے پسند آئی تھی کہ اس میں سے بانس کے پتوں کی خوشبو آتی تھی۔ رنگون میں ان دنوں لاہور کی بنی ہوئی فلم ”خزانچی“ ایک سینما ہاؤس میں سترہویں ہفتے میں چل رہی تھی۔ اس فلم میں ایم اسماعیل نے کیدو کے بعد اپنی زندگی کا یادگار رول ادا کیا تھا۔ اس فلم کا گانا (ساون کے نظارے ہیں) امرتسر میں بچے بچے کی زبان پر تھا۔ رنگون کے اٹھارہ اور بری اور گجراتی ریسٹورانوں میں دوسری زبانوں کے ریکارڈوں کے ساتھ اس فلم خزانچی کے گانے ضرور بجائے جاتے تھے۔ ماتری بھنڈار ریسٹوران میں بھی اس وقت یہی گانا لگا ہوا تھا جب میں اپنے ایک دوست ارجن دیور شک کے ساتھ وہاں بیٹھا کوکو پی رہا تھا۔ ارجن دیور شک گوالمنڈی لاہور کا رہنے والا تھا اور کافی دیر سے رنگون میں مقیم تھا۔ شاعر بھی تھا۔ اس کے بارے میں آگے چل کر ذکر کروں گا۔

اس وقت میں آپ کو وہ خاص بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں جسے میں نے ابھی تک آپ سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ چونکہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں اس سفر نامے میں کسی مصلحت یا مبالغے سے کام نہیں لوں گا اور جو بات بتانے کے لائق ہوگی اسے سچ سچ بتا دوں گا۔ اس لئے یہ بات بھی میں اپنے قارئین کو بتانا اپنا ادنیٰ فرض سمجھتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ان دنوں میرے سر پر میری زندگی کی پہلی محبت کا بھوت بری طرح سوار تھا۔ میں اس محبت کی دل گداز یادیں اپنے ساتھ ہی لے کر رنگون آیا تھا۔ مجھے یاد ہے جس وقت ہم اپنے مکان سے نکل کر سٹیشن کی طرف جا رہے تھے تو میں نے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اس مکان کی طرف دیکھا تھا جو میری بچپن کی اور میری زندگی کی پہلی محبت کا مکان تھا۔ اپنی محبت کے بارے میں بتانے کے لائق ہر بات بتا دوں گا مگر اس لڑکی کا اصلی نام نہیں

بتاؤں گا۔ اور اس کے مکان کا حدود اربعہ بھی بیان نہیں کروں گا۔ میں اپنی بچپن کی اور پہلی محبت کا نام رضیہ رکھ لیتا ہوں۔ اس زمانے میں لڑکیوں کے نام اسی قسم کے ہوتے تھے۔ یہاں میں یہ پیشگی وضاحت بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ میری یہ محبت اتنی پاکیزہ، معصوم اور لطیف تھی کہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ میں کسی لڑکی سے محبت نہیں کر رہا تھا بلکہ کہنی باغ کے کسی پھول سے محبت کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جب محبت..... گلاب سوسری اور موتیا اور کنول کا پھول بن جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں۔ آپ ایسا خود کر کے دیکھیں۔ یہ سننے سنانے سمجھنے اور سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ یہ اپنے اوپر طاری کرنے والی ایک کیفیت ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلے اپنے جسم سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ کون اپنا جسم چھوڑتا ہے۔ چھوڑیں اس بات کو..... بس یوں سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آدمی کو اس کی توفیق کے لئے دعا مانگنی چاہئے۔ میری روح کے گلستان آج بھی پہلی محبت کی خوشبوؤں سے مہک رہے ہیں۔ میں اپنی پہلی محبت کی کچھ خوشبوئیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں اپنی پہلی محبت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں بلکہ اپنی پہلی محبت کی کچھ روشنی اپنی سیاہ تحریر پر ڈالنا چاہتا ہوں۔

میری عمر اس وقت تیرہ چودہ سال کی ہوگی۔ ایم اے او ہائی سکول امرتسر کی آٹھویں کلاس سے اٹھ کر رنگون آیا تھا۔ کہنی باغ کے آم کے درخت، چھوٹی نہر، امرود کے باغ، کھٹے کے درختوں کی سفید کلیوں کی خوشبوئیں اور چالی کھوہ کے زرد اور کیمیری گیندے کے پھول اور منہ اندھیرے لوکاٹ کے باغوں سے آنے والی گولڈن اور نارنجی لوکاٹوں کی دھیمی دھیمی گرم خوشبوئیں اور رضیہ کی اداس محبت میں اپنے ساتھ ہی رنگون لے آیا تھا۔ یہ سب خوشبوئیں، سب محبتیں دل کو گداز کر دینے والی تھیں، اداس کر دینے والی تھیں۔ رضیہ کی محبت میں عدم سے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اس جہان فانی میں آنکھیں کھولتے ہی رضیہ کو دیکھا تھا اور اپنی محبت کو پہچان لیا تھا۔

شادی بیاہ کے موقعوں پر امرتسر کے کشمیری گھرانوں کی رونق اور چہل چہل سب سے الگ ہوتی تھی۔ تیل کی رات کو وڑی بھتہ پکتا۔ ایک ہفتہ پہلے ہی گھروں میں باستی

مردن ایک طرف کوچکی ہوئی ہوتی۔ بالوں کی ایک لٹ جسم کے ساتھ مل رہی ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے سر کی پہچان نہیں تھی اور معصوم انداز میں لوک گیت گانے والیاں مجھے گلاب اور گیندے کے پھولوں کی طرح لگتی تھیں۔ اب سر کے اکار کو تلاش کرتا رہ جاتا ہوں اور گلاب اور گیندے کے پھولوں ایسے چہرے آہستہ آہستہ لگا ہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ میرے بچپن کی محبت کے یہ وہ طلسمی رنگ اور خوشبوئیں اور اداس دو پہریں اور تیز بارشیں اور طلوع ہوتے غروب ہوتے آفتاب تھے جو میرے ساتھ ہی رنگوں آگئے تھے۔ رنگوں کے بازاروں میں گزرتی ہر بڑی لڑکی میں مجھے اپنی محبت کی شکل دکھائی دیتی تھی۔ میں اپنی محبت کی ڈائری لکھا کرتا تھا۔ میں یہ ڈائری بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔

رنگوں آئے ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ گھر سے ہمیشہ صاحبہ کے نام خیر خیریت کا خط آیا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ رضیہ کی ایک جگہ منگنی ہو گئی ہے۔ یہ خبر میرے لئے آسانی بجلی سے کم نہیں تھی۔ حالانکہ رضیہ مجھ سے چھ سات سال بڑی تھی اور اس کے ساتھ میری شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اس کی منگنی کا سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کوئی زبردستی سے رضیہ کو چھین کر لے گیا ہے۔ اداس اداس رہنے لگا۔ ان ہی دنوں میں شاعر ارجن دیو رشک سے میری ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی مجھ سے بڑا تھا۔ لیکن انتہائی ہنس کھ اور خوش گفتار تھا۔ لاہور کے محلے گوالمنڈی میں ان کا آبائی مکان تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ برما میں شائد ٹھیکیداری کا کام کرتا تھا۔ ہر دوسرے تیسرے بھائی جان سے ملنے ہمارے لیوس ٹریٹ والے فلیٹ پر آتا تھا۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے سے کھل مل گئے تھے۔ مجھے یاد ہے وہ بھائی جان کو اپنی اردو کی نظمیوں سنایا کرتا تھا۔ میں نے اس سے غزل کبھی نہیں سنی تھی۔

رشک انگریزی اور برمی زبان بڑی روانی سے بول لیتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد وہ بمبئی جا کر آباد ہو گیا تھا اور اس نے جس دلس میں گزرا بہتی ہے کہ مکالمے بھی لکھے تھے۔ بمبئی کا فلمی رسالہ فلم فیئر میری نظر سے گزرا تھا۔ جس میں اس فلم کا اشتہار چھپا تھا۔ اشتہار میں مکالمے سکرین پلے کے ساتھ ارجن دیو رشک کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس کا بمبئی میں

زغفران پلاؤ قہرے کے مصالے اور حنا کے عطر کی خوشبوئیں اڑنے لگتی تھیں۔ دوسرا چیزوں کے علاوہ کھنڈ قلوں اور باقر خانوں کے بھرے ہوئے تھاں خاص طور پر منگوا کر رکھ لئے جاتے۔ تین دن پہلے ہی لڑکیاں ڈھولک لے کر بیٹھ جاتیں۔ اس زمانے میں لڑکیاں ڈھولک پر فلمی گیت نہیں گاتی تھیں۔ پنجابی کے لوگ گیت گائے جاتے تھے۔ جیسے۔

لنگ آ جا پتن چناں دا
تساں نوں مان وطان دا
آیا نی لاڑیے تیرا سہریاں والا
اج رکھ لے میری ڈولی نی ماں

ہر لڑکی کو ڈھولک بجانا آتا تھا۔ ہر لڑکی کو پنجابی کے لوگ گیت یاد تھے۔ ایک لڑکی گردن ایک طرف ڈالے ڈھولک بجا رہی ہے۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی چھوٹے سے پتھر؛ حج سے ڈھولک پر تال دے رہی ہے۔ بھولے بھالے معصوم چہرے ہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے تو کرائے پر منگوائے ہوئے پیڈسٹل فین چل رہے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے تو کار بائیڈ مسالے والے گیس روشن ہیں۔ بڑی آپو اور بڑی خالہ جو لمبے کے پاس بیٹھی ہیں۔ جو لمبے پر سبز چائے کا بڑا دیگچہ چڑھا ہوا ہے۔ دیکھے میں سے سبز چائے کی خوشبو بھاپ بن کر اڑ رہی ہے۔ ہمارے بچپن کے زمانے میں گلی کو جھنڈیوں سے نہیں سجایا جاتا تھا۔ کیلے کے دو بڑے درخت کاٹ کر لائے جاتے اور ان کا دروازہ بنایا جاتا تھا۔ آم کے پتوں کے پتھوں کو رسی میں پرو کر گلی میں جھنڈیوں کی جگہ سجایا جاتا تھا۔ آم کے پتوں کی جھنڈیوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے کیلے اور آم کی بہت ہلکی ہلکی خوشبو آتی تھی۔ امرتسر کے کشمیری مسلمانوں میں رواج تھا کہ جس دیوان خانے میں برات نے بیٹھنا ہوتا تھا اس کی دیواروں پر پشمینے کی فردین (شالیں) اس طرح لٹکا دی جاتی تھیں کہ دیواریں چھپ جاتی تھی۔

فلمی گانوں کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی۔ صرف شادی بیاہ والے گھر سے لڑکیوں کے ڈھولک بجانے اور پنجابی لوگ گیت گانے کی دبی دبی سی آوازیں آتی تھیں۔ رضیہ بڑی مہارت سے ڈھولک بجاتی تھی۔ ڈھولک اس نے دونوں گھٹنوں کو جوڑ کر ساتھ لگائی ہوتی۔

ہوئی تھیں۔ ملاح سب کے سب برمی تھے۔ ان کشتیوں میں دو آدمیوں کے بیٹھے کی گنجائش تھی۔ برمی زبان میں ان کشتیوں کو سمیان کہتے تھے۔ ہم ایک سمیان میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرنے لگے۔ ایراوتی برما کا سب سے بڑا دریا ہے جو خدا جانے پیچھے کن پہاڑیوں میں سے نکل کر آتا ہے۔ رنگوں میں آ کر یہ سمندر میں جا گرتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب میں رنگوں کی یادوں کو ایک کتاب میں لکھنے بیٹھا تو مجھے ایک رسالہ مل گیا جس میں دریائے ایراوتی کا ایک گیت درج تھا۔ میں نے وہ گیت ترجمہ کر کے رنگوں کی یادوں پر مشتمل اپنے ناول جھیل اور کنول کے شروع میں دیا تھا۔

گیت یہ تھا۔

ایراوتی! میری ایراوتی!

میری محبوب ایراوتی!

سب ندیاں پیاری ہیں مگر

سب سے پیاری ہے ایراوتی

☆.....☆.....☆

دن بھر میں ناؤ کھیتا ہوں

تیرے پانیوں پر ایراوتی

ملاح کی زندگی بجائے خود ایک گیت ہے

تیرے پانیوں پر او ایراوتی!

خوبصورت لڑکیاں ناچ رہی ہیں

جھوم رہی ہیں

تیزی سے کبھی دھیرے دھیرے

تم نے یہ ناچ کہاں سیکھا؟

بتاؤ ایراوتی کی بیٹیو!

دریا کے اس موڑ پر ناچ سیکھا تھا

ہی انتقال ہو گیا تھا۔ بہر حال ابھی وہ میرے ساتھ رنگوں میں ہوتا تھا اور رنگوں کی بارشوں میں سڑکوں پر پھرا کرتے تھے۔ رشک کے ساتھ ہونے سے میرا غم کسی حد تک بہل جاتا اور کچھ دیر کے لئے میں بھول جاتا کہ رضیہ کی مکتبی ہو گئی ہے۔ ایک روز رشک نے کہا کہ دریائے ایراوتی کی سیر کرتے ہیں۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ جس ڈائری پر میں اپنا محبت کی باتیں لکھا کرتا تھا اسے میں دریا میں پھینک دوں گا۔ جب رضیہ مجھ سے چھین لی گئی ہے تو پھر اس کی محبت کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا۔ رشک نے کہا کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے چلیں گے۔ دریائے ایراوتی میں سورج کے غروب ہونے کا نظارہ بڑا فریب ہوتا ہے۔ عین وقت پر رشک آ گیا۔ میں نے ڈائری اپنی قمیص کے اندر چھپا کر رکھ لی تھی۔ اس وقت میری ذہنی کیفیت ایسی تھی جیسے میں اپنے ہاتھوں اپنی محبت کی ڈفن کرنے جا رہا ہوں۔ رشک نے میرے چہرے سے میری اداسی کا اندازہ لگا لیا تھا۔ فلیٹ کی سیڑھیاں اتر کر لیوس سٹریٹ میں آئے تو رشک نے مجھ سے پوچھا۔

”تم بہت اداس لگ رہے ہو۔ کیا بات ہے؟“ میں نے پرانی فلموں کے ناکا

محبت ہیروں کی طرح غمگین مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔

”کوئی بات نہیں ویسے ہی اداس ہو گیا ہوں۔“

”وطن یاد آیا ہوگا۔“ رشک نے مسکراتے ہوئے کہا۔

میں نے کہا۔ ”یہی سمجھ لو۔“

ہم نے لیوس سٹریٹ ہی سے ایک رکشہ لے لیا۔ رنگوں میں جو رکشہ چلتے تھے

انہیں پیچھا کہا جاتا تھا اور اسے آدی چلاتے تھے۔ یعنی یہ انسانی رکشے تھے۔ رکشہ چلانے

والے کبھی جنوبی ہند کے رہنے والے تامل لوگ تھے جنہیں وہاں کی زبان میں قرنگی کہتے

تھے۔ ان کے رنگ کالے ہوتے تھے۔ بڑے دبلے پتلے ہوتے تھے اور سر کے بال چھوٹے

سی گت کی شکل میں پیچھے بندھے ہوتے تھے۔

مجھے یاد نہیں کہ ہم کن کن بازاروں میں سے گزرے۔ رشک رنگوں کے ساتھ

شہر سے واقف تھا۔ ہم دریا کے گھاٹ پر پہنچ گئے۔ دریا کنارے چھوٹی چھوٹی کشتیاں بندھی

یا اس پہاڑ پر جہاں سے ایراوتی نکلتی ہے؟

بتاؤ ایراوتی کی بیٹیو!

☆.....☆.....☆

ایراوتی میں ہمارے آنسو ساتے رہے ہیں بھائیو!

ایراوتی کتنی میلی ہو رہی ہے

اور جب غریبی ہمارے گلے گھونٹ دے گی

ایراوتی اسی طرح بہتی رہے گی

جس وقت میں اپنے دوست کے ساتھ کشتی میں بیٹھا دریائے ایراوتی کی سیر کر

رہا تھا تو میں نے ایراوتی کے جفاکش ملاحوں کا یہ گیت نہیں سنا تھا۔ سورج غروب ہو

تھا۔ غروب ہوتے سورج کی ارغوانی روشنی نے دریا کو بھی روشن کر دیا تھا۔



جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو میں نے اپنے ساتھی رشک کی آنکھ بچا کر قیص سے ڈائری نکالی اور دریا میں ڈال دی۔ رشک نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے پوچھا۔

”یہ کاپی تم نے دریا میں کیوں پھینک دی؟“

میں نے اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔

”یونہی فضول سی کاپی تھی۔“

”نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو۔“ رشک بولا۔ ”ضرور کوئی خاص بات ہے مجھے

بے شک بتا دو۔ میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا۔“

اور میں نے رشک کو اپنی ناکام محبت کی کہانی بیان کر دی۔ کشتی دریا کی لہروں پر

ہلکے ہلکے ہچکولے کھاتی ہے جا رہی تھی۔ اس دریا کی لہروں میں بری ملاحوں کے آنسوؤں

کے ساتھ میری محبت کے آنسو بھی شامل ہو گئے تھے۔ شاعر دوست میری محبت کی روداد سن

کر خود بھی اداس ہو گیا۔ کہنے لگا۔

”محبت کی ناکام کہانیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مجھ پر بھی یہ صدمہ گزر چکا

ہے جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا اس کا نام ٹھنٹا تھا۔“

اس کے بعد ہمارے درمیان کیا کیا باتیں ہوئیں مجھے یاد نہیں۔

اتنا یاد ہے کہ تیز ہوا چلنے لگی تھی اور ہماری کشتی زیادہ ڈولنے لگی تھی۔ رشک نے

بری زبان میں ملاح سے کچھ کہا۔ اس نے جس رخ پر کشتی جا رہی تھی اس کے اخیر میں دیکھا

اور جلدی سے کشتی واپس موڑنی شروع کر دی۔

خوشبو غائب ہو جاتی ہے۔ سائے رہ جاتے ہیں۔ آدمی غائب ہو جاتے ہیں۔ جسم زندہ
روحوں سے خالی ہو جاتے ہیں اور محبتیں آنسوؤں کی مصومیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔
رنگوں کی مغل سٹریٹ میں ہی اقبال فرنیچر مارٹ 'فرنیچر کی ایک کافی بڑی دکان
تھی۔ اقبال نام کا ایک خوش شکل سنہری بالوں والا سرخ و سپید نوجوان اس دکان کا مالک
تھا۔ اقبال صاحب کے سرخی مائل سپید چہرے پر کہیں کہیں نسواری رنگ کے تل تھے۔ وہ
سگار پیا کرتے تھے۔ ان کی دکان میں پالش اور پرانی کٹڑی کی خوشبو ہر وقت پھیلی رہتی تھی۔
میں بھائی جان کے ساتھ ان کی دکان پر جاتا تو وہ بڑی آؤ بھگت کرتے۔ چائے، بسکٹ اور
پان سگریٹ سے تواضع کرتے۔ وہ بھائی جان کے دوستوں میں سے تھے۔

اقبال صاحب کا تعلق بھی مردم خیز خطے یعنی پنجاب کے گجرات شہر سے تھا۔ اگر
میں بھولا نہیں تو شاید اقبال فرنیچر مارٹ کے ہی اوپر دوسری منزل میں ایک لائبریری ہوا
کرتی تھی جس کی الماریاں اردو کتابوں سے بھری ہوئی تھیں۔ کبھی کبھی اس لائبریری میں
ادبی مجلس اور مشاعرہ بھی ہوتا تھا۔ جس میں احمد رنگونی جو بری تھا مگر علامہ اقبال کی پیروی
میں اردو کی نظمیں کہتا تھا۔ اپنا کلام سنانا تھا۔

رنگون میں اردو کی دو فلمیں بڑے زور و شور سے چل رہی تھیں۔ ایک پنجولی
آرٹ سٹوڈیو لاهور کی فلم خزانچی اور دوسری غالباً رنجیت موی ٹون کی فلم پردیسی۔ پردیسی
میں خورشید اور موتی لعل نے کام کیا تھا۔ ان دونوں فلموں کے گانوں کی ہولٹوں
ریستورانوں میں اکثر ریکارڈنگ ہوتی رہتی تھی۔ خزانچی فلم کا گانا ساون کے نظارے ہیں
در پردیسی فلم کا گانا پہلے جو محبت سے انکار کیا ہوتا رنگون کے بری بھی گنگنا تے تھے۔

ایک دن رشک اور میں یلاڈیم سینما ہاؤس میں انگریزی فلم دیکھنے گئے۔ بڑا
نولصورت سینما ہاؤس تھا۔ سینما ہاؤس کے سامنے رنگون کی مشہور شاپنگ مارکیٹ سکاٹ
ارکیٹ تھی۔ یہاں دنیا کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ فریئر سٹریٹ میں مسلمانوں کی بہت سی
کانٹینس تھیں۔ ان میں سورتی میمن مسلمانوں کی دکانیں بھی تھیں۔ گجرات کا ٹھیاواڑ کے
مسلمانوں کی کپڑے کی بڑی بڑی دکانیں بھی تھیں اور ترکی ریسٹورانٹ بھی اس سٹریٹ میں

رشک مجھے کہنے لگے کہ آگے منگی پوائنٹ تھوڑی دور رہ گیا تھا۔ منگی پوائنٹ وہ
جگہ ہے جہاں سے دریا کا ڈیلٹا شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان پر بادل بھی چھا رہے تھے۔
ایراوتی کے گھاٹ سے ہم رکشا میں بیٹھ کر فلیٹ پر واپس آئے تو سارا رستہ بارش ہوتی
رہی۔ رنگون کی بارشیں بارش کا پورا حق ادا کرتی ہیں۔ رنگون کی بارشیں مجھے ہمیشہ یاد ہیں
گی اور ان کی یادیں بارشوں کے ساتھ میری محبت میں خوشبوئیں اور موسیقی شامل کرتی رہیں
گی۔

رنگون کی بارشوں پر میں پہلی نظر میں عاشق ہو گیا تھا۔ برما کے جنگلوں کی بارشیں
میں نے بعد میں دیکھی تھیں۔ ابھی رنگون شہر کی بارشوں میں بھیگ رہا تھا۔ بارش میں بھیگنا
اپنے آپ کو فطرت یا نیچر کے حوالے کر دینا ہے اور رنگون کی شہر کی بارشوں میں تو خوشبوئیں
جنم لیتی تھیں۔ کچھ اس لئے بھی میرے جذبات میں شدت کا احساس تھا کہ لڑکپن میں
جنوب مشرقی ایشیا کی وہ پہلی بارشیں تھیں۔ جن سے ہم آغوش ہو رہا تھا۔ بارش میں رنگون
کے جامع مسجد والے بازار مغل سٹریٹ کی خوشبو الگ ہوتی تھی۔ جیسے چیزہ کے درختوں کی
خوشبو میں صندل کی خوشبو شامل ہو گئی ہو۔ فریئر سٹریٹ بارش میں ایسی خوشبو دیتی تھی جیسے
دیودار کے درختوں کے تازہ کئے ہوئے تنوں کے پاس بیٹھا کوئی اس زمانے کا کریون اے
کا سگریٹ پی رہا ہے۔ سپارک سٹریٹ بارش میں بنارس پان اور لکھنؤ کے زردے کی خوشبو
اڑتی تھی اور ہماری لیوس سٹریٹ میں سے بارش میں گزرتا تازہ سگاروں اور کافی کی خوشبو
آتی تھی۔

کہتے ہیں رنگون کے بازاروں اور گلی کوچوں سے بھی بارشوں کی یہ خوشبوئیں
رخصت ہو چکی ہیں۔ لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں وہ نیچرل بارشوں خالص
محبوتوں، معصوم محبتوں میں چھپ چھپ کر راتوں کو آنسو بہانے والوں اور گہری اور روح کی
گہرائیوں میں اتر جانے والی خوشبوؤں کا زمانہ تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے لئے تاریخ کو کئی
صہ یوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے اور جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے تو پیچھے پھول رہ جاتے ہیں۔

آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ جہاں یہ سٹریٹ بند ہو جاتی تھی وہاں سرکاری ریڈیو سٹیشن ریڈیو رنگون کے دفاتر اور سٹوڈیوز واقع تھے۔ یورپ میں دوسری عالمگیر جنگ پوری شدت سے لڑی جا رہی تھی۔ برما کا ملک چونکہ انگریزوں کی عمل داری میں تھا اس لئے حکومت نے ریڈیو رنگون سے ایک گھنٹے کی اردو سروس جاری کی ہوئی تھی۔ اس سروس میں اردو اور پنجابی میں خبروں کے بیٹن نشر ہوتے تھے۔ برطانوی افواج کی ہندوستانی رجمنٹوں کے لئے اردو بنگالی، تامل، تیلیگو اور پشتو گانے اور قوالیوں کے ریکارڈ بجائے جاتے تھے اور چھوٹے چھوٹے پراپیگنڈا فیچر نشر ہوتے تھے اور اتحادیوں کے حق میں پراپیگنڈا تقریریں بھی نشر ہوتی تھیں۔ ریڈیو سٹیشن ایک دو منزلہ عمارت میں تھا۔ دروازے میں سے گزر کر اندر داخل ہوں تو بائیں ہاتھ کو ڈیوٹی روم تھا۔ یہاں ایک ڈیوٹی آفیسر بری لڑکی بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کا کام ریڈیو پروگرام کو مانیٹر کرنا تھا۔ اس کی ڈیوٹی صبح آٹھ بجے شام 4 بجے تک ہوتی تھی۔ چار بجے کے بعد ایک مدراسی عورت ڈیوٹی سنبھالتی تھی۔ ڈیوٹی سنبھالنے کے علاوہ یہ مدراسی عورت ہر وقت اپنی ساڑھی سنبھالتی رہتی تھی۔

ڈیوٹی آفیسر بری لڑکی بڑی پاکیزہ اور شفاف تھی۔ چاندی اور شیشے کی بنی ہوئی لگتی تھی۔ اس لڑکی کے چاندی اور شیشے سے بنے ہوئے جسم کا جاپانیوں کی بمباری کے بعد کیا حال ہوا۔ یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ ریڈیو رنگون سے اردو بنگالی اور دوسری ہندوستانی زبانوں کے علاوہ بری زبان میں بھی پروگرام ہوتے تھے۔ ریڈیو کے سٹیشن ڈائریکٹر کا نام مسٹر میکاؤ تھا۔ جو ریڈیو انجینئر ہمارے اردو پروگرام کے لئے ہمیں ملا ہوا تھا وہ بھی بنگالی تھا۔ اور اس کا نام مسٹر ڈی کوسا تھا۔ ان لوگوں کے نام اور شکلیں مجھے پوری طرح یاد ہیں۔ مسٹر میکاؤ تو کالے رنگ کا تھا مگر مسٹر ڈی کوسا کا رنگ زرد تھا۔ درگا پوجا کا تہوار آیا تو بنگالی اور مدراسی لڑکیاں پروگرام کرنے سٹوڈیو میں آئیں۔ وہ سب ننگے پاؤں آتی تھیں۔ بھڑکیے رنگوں والی ساڑھیوں میں ملبوس تھیں۔ اس روز رنگون ریڈیو پر خوشبوئیں اڑ رہی تھیں۔

یہ ساری لڑکیاں بڑی خوبصورت تھیں۔ خوبصورت تھیں یا نہیں تھیں مگر مجھے بڑی

تھا۔ ترکی ریستورنٹ کے مالک کی شکل کسی بھولے بسرے خواب میں دیکھی ہوئی شکل کی طرح میرے ذہن میں ابھرتی ہے۔ شیشے کے شوکیسوں میں کریم رول اور بیسٹریوں سے بھری ہوئی پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب رنگون پر جاپانی بمبار جہازوں نے پہلی بمباری ان شوکیسوں کے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی کرچیاں اور کریم رول اور بیسٹریاں میں نے فریڈ سٹریٹ میں بکھری ہوئی دیکھی تھیں۔ یہ سب کچھ پوری تفصیل کے ساتھ میں آگے چل کر بیان کروں گا۔ ترکی ریستورنٹ میں فلمی اور غیر فلمی گانوں اور قوالیوں کی ریکارڈنگ ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کالوقوال یا شاہد کلن قوال کی قوالی

”سکھی ری ڈولی میں ہو جا سوار“ بہت مشہور تھی۔

اس قوالی کا ریکارڈ ترکی ہوٹل میں اکثر بجاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی میں بھی بھائی جا اور ظہور شاہ جی کے ساتھ اس ہوٹل یا ریستوران میں بیٹھ کر چائے پیا کرتے تھے۔ مجھے نہیں ترکی ہوٹل کی چائے کا ذائقہ کیسا ہوتا تھا۔ ویسے بھی ابھی چائے کا اتنا شعور میرے اندر پیدا نہیں ہوا تھا۔ چائے کا سورج قیام پاکستان کے بعد لاہور آ کر میرے ذہن۔ افق پر طلوع ہوا تھا۔ ترکی ہوٹل سے ذرا آگے تین چار دکانیں چھوڑ کر ایک سردار جی کا ہوٹل یا ڈھابا تھا۔ ہوٹل کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بہت بڑی چارپائی پر ایک بھاری بھر کم توند ہوا ہاسکھ ٹانگیں پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کی صورت سے سخت بیزاری چکتی تھی۔

جاپانی بمبار طیاروں کی فائرنگ نے اس سکھ کو چارپائی پر بیٹھے بیٹھے موت کی سلا دیا تھا۔ جاپانی طیاروں نے فریڈ سٹریٹ میں بہت نیچے آ کر گولیوں کا مینہ برسایا تو بوڑھے سردار جی کی لاش سارا دن فٹ پاتھ کی چارپائی پر پڑی رہی تھی۔ اس کے بعد سردار جی کے لواحقین لاش اٹھا کر لے گئے تھے۔ فریڈ سٹریٹ میں ہی گرینڈ ہوٹل ہوتا تھا جو آگے کے گرینڈ ہوٹل کی شاخ تھی۔ میرا شاعر دوست رشک اس ہوٹل میں بھی بیٹھ کر شراب کرتا تھا۔

گرینڈ ہوٹل کے سامنے میکسم سٹریٹ تھی۔ یہ سٹریٹ فریڈ سٹریٹ والی سڑک سے چھوٹ کر اندر کو جاتی تھی اور یہ سٹریٹ بھی ہماری لاہور کی بیڈن روڈ جتنی کشادہ تھی۔

تھیں اور رنگوں سے ہندوستانیوں کا ہمہ گیر انخلا شروع ہوا اور لوگ اپنی نجی سجاتی دکانیں اور بھرے پڑے مکان چھوڑ کر پیدل ہندوستان کے کاسمز بازار کی طرف ایک سیلاب کی طرح چل پڑے تھے تو مسز ہیمٹی باری کی چابیاں پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا تھا اور مقامی برمیوں میں شراب خانے کو اس احتیاط سے لونا تھا کہ ایک بوتل بھی ٹوٹنے نہیں پائی تھی۔ مقامی برمیوں نے گھر چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہندوستانیوں کے مکان اور دکانیں بھی لوٹ لی تھیں۔ اس کی تفصیل آگے چل کر بیان کی جائے گی۔

ابھی تو رنگوں میں امن وامان تھا۔ جنگ رنگوں سے ہزاروں میل دور یورپ میں لڑی جا رہی تھی۔ ابھی جاپان میدان جنگ میں نہیں اترا تھا۔ رنگوں کے بازاروں مارکیٹوں میں بڑے زور و شور سے کاروبار ہو رہا تھا۔ ملٹری کے ٹھیکیدار جنگی ضروریات کا سامان تیار کر کے دھڑا دھڑ یورپ کو سپلائی کر رہے تھے اور خوب دولت کما رہے تھے۔ ان میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بہت جلد انہیں یہ ساری دولت ساری ٹھیکیداریاں ساری دل داریاں اور ساری گرم بازاریاں چھوڑ چھاڑ کر صرف تین کپڑوں میں جائیں بچا کر بنگال کی طرف پیدل مارچ کرنا پڑے گا اور ان میں سے سینکڑوں لوگ برما کے دشوار گزار جنگلوں میں صعوبتیں برداشت نہ کر سکیں گے۔ اور کسمپرسی کے عالم میں راستے میں ہی مر کھ پ جائیں گے۔

ابھی تو دونوں ہاتھوں سے دولت کمائی جا رہی تھی اور بنکوں میں جمع کی جا رہی تھی۔ ابھی رنگوں میں رات کو بلیک آؤٹ بھی نہیں ہوتا تھا۔ رنگوں شہر کی روشنیاں راتوں کو جگمگ جگمگ کرتی تھیں۔ ابھی سب خیر خیریت تھی۔ ہر طرف سکون تھا۔ بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ سکون ایک بہت بڑے خونیں طوفان کا پیش خیمہ ہے۔

ریڈ یورنگوں کے پراپیگنڈا سیکشن سے منسلک ہونے کی وجہ سے بھائی جان کو اپنی اخباری مصروفیات میں سے وقت نکال کر کچھ دیر کے لئے رنگوں کے سیکرٹریٹ جانا پڑتا تھا۔ وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ رنگوں کا سیکرٹریٹ شہر میں ہی تھا۔ عمارتوں کے کئی بلاک تھے۔ بہت بڑے چھتے ہوئے پورچ کے باہر اردو میں لکھا ہوا تھا۔

خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بنگلہ تامل، تلیکو اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں باتیں کر رہی تھیں۔ شیش ڈائریکٹر کی جانب سے ان لڑکیوں کی کافی اور رس گلوں سے تواضع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانے کی طرح میں ہر لڑکی سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں صرف حسن پرست تھا میرے دل میں حسن پرستی کے سوا اور کوئی خیال نہیں تھا۔ ان لڑکیوں کے تازہ و شاداب اور جوانی کی تپش میں تہمتائے ہوئے چہرے آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ یہ میں سن 1941/42ء کی بات کر رہا ہوں اس بات کو ساٹھ برس سے قریب زمانہ گزر چکا ہے۔ ان لڑکیوں میں سے شاید ہی کوئی زندہ ہو اگر زندہ بھی ہوگی تو پہچانی نہیں جاتی ہوگی۔ وقت کے بے رحم ہاتھوں نے اس کے خوبصورت چہرے پر کیریں ڈال دی ہوں گی۔ جھریاں ڈال دی ہوں گی۔ پھول مرجھا بھی جائے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ گلاب کا پھول ہے یہ گیندے کا پھول ہے یہ مویجے کا پھول ہے۔ آدی بوڑھا ہو جائے تو پہچانا نہیں جاتا کہ یہ وہی خوبصورت لڑکا ہے جو چھپ چھپ کر اپنی محبوبہ کو محبت بھرے خط لکھا کرتا تھا۔ ہم گیندے گلاب اور مویجے کے پھولوں کی طرح کیوں نہیں زندا رہتے؟

ریڈ یورنگوں والی سٹریٹ میں داخل ہوں تو ککڑ پر شراب کی ایک بار تھی۔ اس کا نام میکسم بار تھا۔ یہ شراب خانہ ہی تھا۔ یہاں لوگ بیٹھ کر شراب سے جی بہلاتے تھے۔ اگر سے مجھے یاد آ گیا قیام پاکستان سے پہلے گوالنڈی لاہور کے چوک میں دارالاشاعت والا سڑک کے کونے میں جہاں آج کل مٹھائی کی دکان ہے وہاں ایک سکھ کا ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اس نے ہوٹل کی پیشانی پر اردو کے بڑے بڑے الفاظ میں لکھ کر بورڈ لگایا ہوا تھا اس پر لکھا ہوا تھا۔

”یہاں بیٹھ کر شراب پینے کی اجازت ہے۔“

پاکستان بننے کے بعد دو تین ماہ تک یہ بورڈ ویسے ہی لگا رہا پھر اتار دیا گیا۔ رنگوں کے میکسم باری کی بات کر رہا تھا۔ اس بار میں زیادہ تر غیر ملکی ملاح اور جہازی وغیرہ بیٹھا کرتے تھے۔ مسز ہیمٹی اس بار کا فیجر تھا۔ جب جاپانی فوجیں رنگوں کی طرف بڑھنا

میں نے برمیوں کے گھروں میں جا کر بھی دیکھا ہے۔ ٹڈل کلاس سے لے کر اپر کلاس تک کے لوگوں کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ گھروں میں زیادہ سامان رکھنے کے قائل نہیں تھے۔ جاپانی گھروں کی طرح ان کے گھروں میں بھی فرش پر چٹائیاں بچھی ہوئی تھی۔ ہونکے رکھ کر کھانا کھاتے تھے اور وہیں رات کو سو جاتے تھے۔ بانس کے دو تین اٹیچی کیس ہوتے تھے جن میں روزمرہ کے استعمال کے کپڑے ہوتے تھے۔ ان کا لباس بھی بڑا سادہ تھا۔ لنگی کرتے اور سر پر زرد یا گلابی رومال بندھا ہوتا۔ میں نے اس زمانے میں کسی برمی کو کوٹ چٹلون میں نہیں دیکھا۔ چاول ان کی اہم غذا تھی۔ روٹی نہیں کھاتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بارشوں کا گرم مرطوب خطہ ہے اور جہاں سارا سال بارشیں ہوتی ہیں وہاں فضا میں ہر وقت رطوبت رہتی ہے اور روٹی مشکل سے ہضم ہوتی ہے۔ پھلوں میں آم بھی ہوتا تھا مگر اناس اور ناریل اور پپیتے کی بھرمار تھی۔ مچھلی ان کی من پسند ڈش تھی۔ برما کے لوگ مچھلی کا اچار بھی بناتے تھے جس مکان میں مچھلی کے اچار کی چائی کا منہ کھلتا تھا اس گلی میں ان کی تیز بو پھیل جاتی تھی۔

برمی ٹیکسی ڈرائیور بڑی تیز گاڑی چلاتے تھے۔ جرائم پیشہ برمی چوریاں عام لڑتے تھے۔ میزہیوں میں لگے ہوئے گھروں کے بجلی کے میٹر اتار کر لے جاتے تھے۔ تن سانی ان میں بہت زیادہ تھی اور مشقت سے بہت گھبراتے تھے۔ چنانچہ کوئی برمی رکشا میں کھینچتا تھا۔ رکشا کھینچنے والے سب جنوبی ہند کے تامل لوگ تھے۔ برمی لوگ کاروبار سے لے کر جی چماتے تھے۔ ان کی ان ہی کمزوریوں کی وجہ سے ہندوستانیوں خاص طور پر تامل

”یہاں گاڑیاں کھڑی کرنے کا نہیں ہے۔“

بس اسی قسم کی گلابی اردو رنگوں کے برمی اور تامل لوگ بولا کرتے تھے۔ دفتر میں برمی کلرک وغیرہ بڑی آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرتے تھے۔ وہ انگریزوں کا غلامی سے ہر ممکن طریقے سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کے دل میں یہ بات بچا چکی تھی کہ انہیں دو تو میں لوٹ رہی ہیں۔ ایک ہندوستان کے لوگ جنہوں نے ان کا روبرو پر قبضہ جمایا ہوا ہے اور دوسرے انگریز جنہوں نے ان کے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے یہی وجہ تھی کہ جب جاپانی فوجیں ایک طوفان کی طرح سنگاپور ملایا پر قبضہ کرنے کے بارے میں رنگوں کی طرف بڑھ رہی تھیں تو برمی لوگ جاپانیوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ جاپانی انہیں انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ برمیوں نے جنگ کے اوائل میں اور دوران جنگ جاپانیوں کے لئے بڑی کارآمد جاسوسی کی تھی۔

تن آسانی اور لاابالی پن برما کے لوگوں کے مزاج میں شامل ہے۔ سیکرٹری میں بھی وہ انگریزوں سے دب کر کام نہیں کرتے تھے۔ میں نے سیکرٹریٹ کے دفاتر میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے کہ برمی کلرک تھوڑا سا کام کرنے کے بعد سگرسٹا کر بیٹھا ناگس رکھ کر ایک دوسرے سے لطفی بازیاں شروع کر دیتے تھے۔ ان کا کوئی افسر بھی آتا تو وہ ناگس میز سے نیچے نہیں کرتے تھے۔ دوسری بات ان میں یہ تھی کہ یہ لوگ جس انہیں تنخواہ ملتی تھی کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ پہلی تاریخ سے لے کر دس پندرہ تاریخوں ان کے گھروں میں بریانی پکتی تھی اور برمی کلرک بڑے قیمتی سگار پیتے تھے۔ پندرہ تاریخ کے بعد جب پیسے ختم ہو جاتے تھے تو سگار کی جگہ بیڑیاں پیتے تھے اور ایک دوسرے قرض مانگ کر باقی کے دن گزارتے تھے۔ پہلی تاریخ کے بعد پھر یہی چکر شروع ہوتا تھا۔



جانے لگا کہ جنگ مشرق بعید تک بھی پھیل سکتی ہے۔

برما کی انگریز حکومت نے تمام سرکاری ملازمین کے لئے فوجی ٹریننگ لازمی قرار دے دی۔ یہ حکم صرف نوجوانوں کے لئے تھا۔ چنانچہ مجھے بھی ٹریننگ حاصل کرنی پڑ گئی۔ اگرچہ میں باقاعدہ سرکاری ملازم نہیں تھا لیکن رنگون ریڈیو سے ہفتے میں تین بار اردو خبروں کے سات منٹ کے دورے کے پلٹن پڑھتا تھا۔ چونکہ بمباری کی صورت میں دشمن سب سے پہلے ریلوے سٹیشن اور ریڈیو سٹیشن کو نشانہ بناتا ہے اس لئے ہمارے لئے فوجی تربیت بہت ضروری سمجھی گئی۔

رنگون کے مضافات میں شہر سے دس پندرہ میل دور شمال کی جانب جنگل میں ایک جگہ برطانیہ کی ہندوستانی فوج کی ایک چھوٹی سی چھاؤنی تھی جس کا نام سیلز بیریکس تھا۔ میں روز صبح بس میں بیٹھ کر وہاں جاتا تھا۔ یہ برٹش انڈین آرمی کی کسی رجمنٹ کی سپلائی کور تھی۔ درمیانے قدم کا چوڑے منہ اور نیلی آنکھوں والا ایک انگریز کیمپن ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا۔ ہمیں قواعد کرائی جاتی۔ آگ بجھانے اور بمباری کی صورت میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے طریقے بتائے جاتے۔ رائفل چلائی سکھائی جاتی۔ دستی بم کا پین کیسے نکالا جاتا ہے اور اسے کیسے دشمن کے ٹھکانے پر پھینکا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا۔

اس زمانے میں فوجیوں کے بھاری جوتوں کے تلوؤں میں لوہے کے کیل اور کوکے لگے ہوتے تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ بھاری جوتے پہن کر پٹرول گیسولین کے ذخیروں میں نہیں جائیں گے۔ ہمارے جوتوں کے کیل کانٹوں سے چلتے وقت گڑکھا کر جو چنگاری نکلتی ہے وہ پٹرول کے ذخیرے کو آگ لگا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر روز پندرہ منٹ کے لئے ہمیں ایونیشن اور راشن کی سپلائی کا کورس بھی پڑھایا جاتا۔ انگریز کیمپن یہ سارے لیکچر انگریزی میں دیا کرتا تھا۔

جنگل میں ایک جگہ درختوں کو کاٹ کر تین چار فوجی بارکیس بنا دی گئی تھیں۔ یہاں گولہ بارود اور پٹرول وغیرہ کا زمین دوز ذخیرہ بھی تھا۔ ایک طرف چاند ماری کے لئے اونچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ اس رجمنٹ میں پوٹھوہار جہلم اور میرپور کے فوجی جوان سب سے

سورٹی، سیمین اور پنجابیوں نے سارا کاروبار سنبھالا ہوا تھا۔

تامل لوگ بھی پنجابی کی طرح جھاکش لوگ تھے اور یہ تو قدرت کا اصول ہے جو محنت کرے گا جھاکشی کے کام کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہاں میں سری لنکا کے لوگوں کی مثال ضرور دوں گا۔ سری لنکا کے لوگ بھی سخت تن آسان ہیں۔ سری لنکا کا شمال کا پلو جانفا کا علاقہ چونکہ ہندوستان کے قریب ہے اس لئے محنت مزدوری اور مشقت کا کرنے والے جنوبی ہندوستان کے تامل لوگ ہی آتے ہیں۔ وہاں یہ بات مشہور تھی دھان کی فصل سری لنکا والے بوتے ہیں اور کٹائی تامل لوگ آ کر کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ شمالی لنکا میں سالہا سال سے چل رہا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ تامل مزدور صبح سری لنکا آئیں اور دھان کی کٹائی کر کے شام کو واپس ہندوستان چلے جائیں۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ سری لنکا میں ہی آباد ہو گئے۔ شمالی علاقے جانفا میں ان کی اکثریت ہو گئی۔ چنانچہ آج تامل لوگ شمالی لنکا میں اپنی ایک الگ حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے لڑ رہے ہیں لیکن برما میں یہ صورت حال اس لئے پیدا نہیں ہوئی کہ برما کا شمالی بارڈر ہندوستان۔ صوبہ بنگال سے ملتا ہے اور بنگالی خود کابل اور ست الوجود ہیں۔

وہ زمانہ ویسے بھی بڑا سستا زمانہ تھا۔ روپے کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ لاہور کے لئے کر رنگون تک انگریزوں کے روپے آنے اور پیسوں کے سکے چلتے تھے۔ تازہ اور شیر انناس دو پیسے میں مل جاتا تھا۔ ناریل تو اس سے بھی زیادہ سستا تھا۔ ناریل بری لوگوں گھریلو دستکاریوں میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ ناریل کی چھائی کی چٹائیاں بنتی تھیں۔ دریاں بنتی تھیں۔ دریاں بنتی تھیں۔ ناریل کے خشک کھوپے سے پیالے اور ڈونیاں بنائی جاتی تھیں۔ میں نے رنگون میں ناریل کے کھوپوں سے بنا ہوئے پاندان دیکھے ہیں۔ بانس بھی برما کے جنگلوں میں عام اگتا تھا اور بانس سے بڑے کام لئے جاتے تھے۔ اٹیچی کیسوں، سوٹ کیسوں سے لے کر فرنیچر تک بانس سے تیار ہوا تھا۔

یورپ میں جنگ کی شدت میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا گیا اس بات کو محسوس

اردو میں ترجمہ اور اردو سے انگریزی میں ترجمے میں سو میں سے ہمیشہ 80 پچاسی نمبر لیا کرتا تھا۔ یہی پرچہ مجھے انگریزی میں پاس کرانا تھا لیکن مجھے اس انگریزی کی انگریزی سمجھ کے کیا لینا تھا۔ وہ کوئی کیٹس یا شیلے کی شاعری یا چارلس ڈکنز کے فن پر تو لیکچر دے نہیں رہا تھا۔

ان پڑھ قسم کا دیہاتی ٹائپ کا انگریز فوجی تھا۔ مجھے اگر اس کی کوئی چیز اچھی لگتی تھی تو پلیئرز سگریٹ کا پیکٹ ہوتا تھا جو ماچس کے ساتھ اس نے میز پر اپنے سامنے رکھا ہوتا تھا۔ ایک روز انگریز کیپٹن ہمیں بانس کی اونچی چھت کے نیچے لیکچر دے رہا تھا کہ ایک دم بارش شروع ہو گئی۔ یہ جنوبی سمندروں سے اٹھے ہوئے سیاہ بادلوں کی بارشیں ہوتی تھیں۔ بارش نے ایسا شور مچایا کہ انگریز کیپٹن کی آواز غائب ہو گئی۔ ہمیں صرف اس کے ہونٹ ہلنے دکھائی دے رہے تھے۔ اوپر سے چھت ٹپکنے لگی۔ اس نے ہمیں فال ان ہونے کا آرڈر دیا اور کوچک مارچ کرانا شور روم کے برآمدے میں لے آیا۔ برآمدے تک پہنچنے پہنچتے ہماری فوجی وردی بارش میں شرابور ہو گئی۔

میں پہلی بار جنگل کی بارش میں بیٹھا تھا۔ جنوبی ایشیا کے جنگلوں کی بارش نے میرے خون کو گرم کر دیا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بارش سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ جیسے یہ بارش زمین کی پہلی بارش تھی۔ جس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بارش کے ساتھ ہی اس جنگل کے درختوں کی الگ الگ خوشبوؤں نے بیدار ہو کر ایک خوشبو کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس میں بانس، ناریل، دارچینی، بادیاں، خطائی اور الائچی کی خوشبو بھی تھی۔ معلوم ہوتا تھا جیسے بارش جنگل کے بھیگتے ہوئے درختوں کے ساتھ بیٹھ کر موتی رنگ کا کشمیری قبوہ پی رہی ہے۔

آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میں کیا محسوس کر رہا تھا۔ میں زندگی کی انتہائی لطافتوں کا ادراک کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جسم روح سے بھی زیادہ لطیف ہو گیا ہے۔ انتہائی لطافت کا یہ مقام تھا جہاں روح بھی مادے کا ایک حصہ لگتی تھی۔ میرا جسم جیسے بارش کی خوشبو بن کر سارے جنگل میں پھیل گیا تھا۔ میں خود اپنے مادی جسم کے آر پار دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ موت کے بعد کی کیفیات ہیں جن کا تجربہ مجھے

زیادہ تھے۔ مدد راسی بھی تھے مگر وہ کلرک وغیرہ تھے۔ یا لانگری تھے۔ انگریزوں کو معلوم تھا کہ جنوبی ہند کے لوگ میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے چنانچہ ان سے وہ فوجی دھویوں اور لانگریوں کی ڈیوٹی لیتے تھے۔ مجھے نہ تو برٹش انڈین آرمی سے کوئی دلچسپی تھی نہ فوجی تربیت سے کوئی دلچسپی تھی۔ میں سیلز بیریکس کے فوجی کمپ میں ایک طرح سے پھنس گیا تھا۔ مجھے یاد ہے جو انگریز فوجی ہمیں لیکچر دیا کرتا تھا اس کا نام کیپٹن لیوس تھا۔ اس انگریز کی شکل بالکل پہلے روز کی طرح آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔

وہ پلیئرز کے سگریٹ پیا کرتا تھا۔ وہ زمانہ ہی خالص چیزوں کا تھا۔ سگریٹ بچو خالص ملا کرتے تھے۔ ابھی سگریٹوں کے پیچھے فلٹر نہیں لگے تھے اور جیسی تلخی اور خوشبو سگریٹ کے جلتے ہوئے سرے سے چلتی تھی۔ ویسی کی ویسی بلکہ کچھ اضافے کے ساتھ سگریٹ کے دوسرے سرے سے ہو کر سگریٹ پینے والے تک پہنچتی تھی۔ خیر سے میں سگریٹ اس زمانے میں ہی شروع کر دیئے تھے۔

برما میں وائٹ ہارس نام کا ایک سگریٹ بڑا چلتا تھا۔ میں یہی سگریٹ پیا کرتا تھا مگر ہمیں لیکچروں اور فوجی ٹریننگ کے دوران سگریٹ پینے کی اجازت نہیں تھی جبکہ انگریز کیپٹن لیکچر دیتے وقت برابر سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ اور پلیئرز کے اعلیٰ سگریٹ کی خوشبو لیکچر روم میں پھیلی ہوتی تھی۔

ایک دن ہمیں فوجی ٹرانسپورٹ طیارے میں بٹھا کر رگون سے کافی دور دریا کے دوسرے کنارے پر تیل کے کنوؤں پر لے جایا گیا۔ ہمارے فوجی جوتوں پر ربڑ کے غلاف چڑھادیئے گئے تاکہ ہمارے جوتوں میں لگے ہوئے کیل سے چنگاری پیدا نہ ہو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کرتا تھا۔ جب لیکچر سنایا جاتا تو میں لیکچر روم کی قریبی کمرے میں سے نظر آنے والے ناریل اور بانس کے درختوں کو دیکھا کرتا تھا۔ حرام ہے جو مجھے معلوم ہے کہ یہ انگریز کیپٹن کیا چیز ہے اور کس چیز کے بارے میں لیکچر دے رہا ہے۔

اس کی انگریزی برابر میری سمجھ میں آتی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی سے مضمون میں شروع ہی سے ہوشیار ہوتا تھا اور انگریزی کے پرچہ ”بی“ یعنی انگریزی سے

زندگی میں ہو رہا تھا۔

جہاں اس فوجی کیمپ سبزیریکس کا جنگل شروع ہوتا تھا وہاں بڑی سڑک پر سے ایک پتلی سڑک جنگل میں جاتی تھی۔ یہ سڑک فوج نے بنائی تھی۔ میں بڑی سڑک کے بس سٹاپ پر اتر جاتا تھا اور پتلی سڑک پر سے پیدل گزر کر فوجی کیمپ یا ٹریننگ سنٹر تک جاتا تھا۔ اس سڑک کے دونوں جانب اونچے اونچے درخت تھے جنہوں نے سڑک پر چھت ڈالی رکھی تھی۔ یہاں دن کے وقت سبز روشنی پھیلی رہتی تھی۔ جہاں یہ سڑک بل کھا کر کیمپ کی طرف مڑتی تھی وہاں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان مہانتا گوتم بدھ کا زمین پر لیٹا ہوا ایک بہت بڑا مجسمہ تھا۔ یہ اتنا بڑا مجسمہ تھا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں کسی برمی نے چائے کا کھوکھا بنا رکھا تھا۔

خدا جانے یہ کس زمانے سے یہاں پڑا تھا۔ بارشوں کی وجہ سے مجھے کارنگ کالا پڑ چکا تھا۔ گوتم بدھ اس طرح ایک پہلو پر لیٹا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بہت بڑے سر کو اپنے بازو کی ہتھیلی کا سہارا دے رکھا تھا۔ گلہریاں اس بت پر ادھر سے ادھر دوڑتی رہتی تھیں۔ اونچے درختوں کی چھت والی جنگل کی یہ پتلی سی نازک اندام سڑک مجھے اتنی اچھی لگتی تھی کہ میں بہت ہی آہستہ آہستہ وہاں سے گزرا کرتا تھا۔ یہاں سبزے اور درختوں اور جنگلی جھاڑیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو ہر وقت پھیلی رہتی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے ہر بار میرا سر گریٹ پینے کو جی چاہتا تھا لیکن میں اس خیال سے وہاں کبھی سر گریٹ نہیں لگاتا تھا کہ سر گریٹ کے دھوئیں سے درختوں کی پاک صاف فضا آلودہ نہ ہو جائے اور ننھی ننھی کونپلوں کا دم نہ کھٹنے لگے۔

رنگوں میں دو اخباروں کا ایڈیٹر ہونے کے ناطے بھائی جان کے ملنے والوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا۔ لیکن ان کے ذاتی دوستوں کا ایک حلقہ الگ تھا۔ جس میں بشیر صاحب کما میٹ والے، حکیم رشید صاحب، ظہور الحسن شاہ جی، احمد رنگونی کے علاوہ حاجی رحیم بخش صاحب کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شاہ جی اور بشیر احمد صاحب کما میٹ والے کا تعلق گجرات (پنجاب) سے تھا۔ کما میٹ نام کا ایک قصبہ رنگون سے شاید بیس پچیس میل

کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ سب دوست ہفتے میں ایک بار ایک دوسرے کو دعوت پر اپنے گھر بلا تے تھے۔

کما میٹ میں بشیر صاحب کا بڑا خوبصورت دو منزلہ بنگلہ تھا۔ وہاں ایک طرف انہوں نے ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا رکھا تھا جہاں ریڈ کے فلیٹ شوژ تیار ہوتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بشیر صاحب نے گجرات میں باسکو کے نام سے ایک مشہور فرم قائم کی جس نے ملک گیر شہرت حاصل کی۔ بھائی جان کے دوسرے دوستوں کی ہفتہ وار دعوتوں میں تو میں شاذ و نادر ہی کبھی جاتا مگر جس ہفتے کما میٹ میں بشیر صاحب کے ہاں دعوت ہوتی تو ضد کر کے میں بھی بھائی جان کے ساتھ جاتا۔

اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ بشیر صاحب کے ہاں ایک کافی بڑا ریڈیو گرام ٹائپ کا بڑا ماسٹرز وائس کا گراموفون تھا اور ساتھ میں تھیٹرز اور رنجیت مووی ٹون کی فلموں کے ان گانوں کے ریکارڈز کافی تعداد میں تھے جو مجھے بے حد پسند تھے۔ یہ بڑا گراموفون کونپلی کی دوسری منزل کے ایک کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ میں جاتے ہی گراموفون کو چابی دیتا۔ ساؤنڈ بکس میں نئی سوئی لگاتا ڈبے میں سے پیکج ملک کا گایا ہوا پیٹلن کو جانا ریکارڈ نکال کر لگا دیتا۔ اس کے بعد خورشید کے گائے ہوئے گانے۔

”پہلے جو محبت سے انکار کیا“ اور ”اب کہاں بشیر اپنا“ کا ریکارڈ بجا کر سنتا۔ اس کے علاوہ امیر بانی کرنا نیگی کا ایک گانا ہوتا تھا ”من بھولی وفا میں یاد نہ کر“ اور سہگل کا گانا ”میں کیا جانوں کیا جادو ہے ان دو متوالے نیوں میں“ بار بار لگا کر سنتا۔ بشیر صاحب کی کما میٹ والی کونپلی کا گراموفون والا کمرہ اور اس کمرے کی کھڑکی سے نظر آنے والے ناریل اور کیلے کے سرسبز درخت ہی یاد ہیں اور میرے نزدیک اس کونپلی کی یہی دو چیزیں یاد رکھنے والی تھیں۔ ایک روز دعوت کے موقع پر بڑی بارش ہو رہی تھی۔ اس بارش میں کیلے اور ناریل کے درخت بھیک رہے تھے۔ اس منظر کو میں کیسے بھلا سکتا ہوں۔ اگر انہیں بھلا دوں تو میرے پاس یاد رکھنے کو کیا باقی رہ جائے گا۔

جب رنگوں پر جاپانیوں کا قبضہ ہو گیا تو شہر اور شہر کے مضافات اور قصبات تقریباً سبھی ہندوستانی برما چھوڑ کر قافلوں کی شکل میں کاکس بازار بنگال کی جانب بید روانہ ہو چکے تھے۔ مگر بشیر صاحب اپنے کمانٹ والے بنگلے پر ہی رہے تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ وہ سیاسی اعتبار سے سمبھاش چندر بوس کی فارورڈ بلاک پارٹی سے منسلک تھے اور جب سمبھاش چندر بوس انگریزوں کے ہندوستان سے بھیس بدل کر فرار ہوا تھا تو دورا بشیر صاحب کے ہاں کمانٹ میں بھی ٹھہرا تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے بعد میں معلوم ہو گئیں۔ چنانچہ بشیر صاحب کا خیال تھا کہ جاپانی انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ لیکن جیسا کہ میں بھائی جان نے بتایا کہ جاپانیوں نے شروع شروع میں بشیر صاحب پر تھوڑا تشدد کیا لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ وہ واقعی سمبھاش چندر بوس کے خیر خواہوں میں سے ہیں انہیں ان کی کوشی بھی واپس کر دی اور جاپانی فوجیوں کے لئے ریز کے فلیٹ شوز بنانے آرڈر بھی دے دیا۔

سولی ہیکو ڈارنگون شہر کا سب سے بڑا بدھ معبد تھا۔ اس کے بیٹھے ہوئے چھوٹے بڑے گنبدوں اور ان کے کلس پر سونے کا پترا چڑھا ہوا تھا۔ اس کی کشادہ سنگین میڑھیوں سلسلہ اور پر مندر کے وسیع و عریض لان تک چلا گیا تھا۔ ان میڑھیوں کی دونوں جانب عورتیں بیٹھی پھول پتی تھیں۔ پانی سے بھری ہوئی کٹڑی کی بالٹیوں میں رنگ برنگ پھولوں کے گلے سے رکھے ہوتے تھے۔ ان میں کنول کے پھول اور کنول کے پھولوں کی کلیاں ہوتی تھیں اور گیندے اور موتیا اور رتاکلی کے کاسی پھول بھی ہوتے تھے۔

میڑھیاں چڑھتے ہوئے ان پھولوں کی خوشبو ساتھ ساتھ جاتی تھی۔ لوگ ان عورتوں سے پھول خرید کر لے جاتے تھے اور مہاتما بدھ کی مورتیوں پر چڑھاتے تھے۔ سولی ہیکو ڈا کی ان میڑھیوں پر ہی میں نے پہلی مرتبہ پھول بیچنے والی بری لڑکی ساتیں کو دیکھا۔ اس کا نام ساتیں تھا۔ وہ سفید مٹل کی کرتی اور سبز ریشمی لہنگا پہنے پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریوں کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کا رنگ کنول کے پھول ایسا زرد تھا۔ پھولوں کے پاس بیٹھی وہ خود ایک پھول کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔

اس کے معصوم چہرے پر کنول کے زرد پھولوں ایسی گہری اداسی اور تازگی تھی۔ اس بھولی بھالی پاک صاف شفاف چہرے والی بری لڑکی کو دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کنول کا پھول دیکھتا بھی ہے۔ کنول کا پھول بات بھی کرتا ہے اور کنول کا پھول محبت کی باتیں سنتا بھی ہے۔ پھول محبت چاہتے ہیں۔ عزت و احترام چاہتے ہیں اور جب محبت میں عزت و احترام کا نور شامل ہو جاتا ہے تو وہ پھولوں کی پاکیزگیوں اور معصومیتوں سے بھی آگے بہت آگے نکل جاتی ہے۔ پھر وہ روشنی کی رفتار کے ساتھ پرواز کرتی ہے اور آسمانوں کے تمام ستارے سیارے اور سورج اور چاند اس کے نورانی حلقے میں آ جاتے ہیں۔

پھول بیچنے والی اس بری لڑکی ساتیں کو دیکھ کر مجھے اسی نورانی محبت اور انسانیت کی عزت و احترام کا احساس ہوا تھا۔ جس طرح روشنی اندھیروں کو دور کر دیتی ہے۔ اسی طرح ساتیں کے تصور نے میرے دل کے تمام منفی اور برے خیالات کے اندھیروں کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ ابھی تک میں نے اس بری لڑکی اس کنول کے زرد پھول سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ابھی تک اس نے بھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ اس روز میں پہلی بار رنگوں کے اس عالی شان ہیکو ڈا کو دیکھنے جا رہا تھا۔ اس معبد کا شمار رنگوں کی مقدس تاریخی عمارتوں میں ہوتا تھا اور سیاح اسے دیکھنے ضرور جاتے تھے۔ ہیکو ڈا کے کئی دالان تھے۔ ہر دالان میں جگہ جگہ مہاتما بدھ کے چھوٹے بڑے سنہری مجسمے لگے ہوئے تھے۔ جن کے آگے عقیدت مند پھولوں کے گلے سے رکھتے اور اگر بتیاں سلگاتے تھے۔

معبد کے تین چار ہال کمرے تھے۔ ہر ہال کمرے میں گوتم بدھ کے بیٹھے ہوئے

اور نیم دراز جیسے تھے جن پر سونے کا پانی پھرا ہوا تھا۔ سب سے بڑے ہال کمرے میں گدھ کا سب سے بڑا مجسمہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سارے کا سارا سونے ہے۔ زرد کپڑوں والے بدھ بکھشو جگہ جگہ بیٹھے گوتم بدھ کی تعلیمات کے اشلوک پڑھ رہے تھے۔ ساری فنسار پر ایک تقدس چھایا ہوا تھا۔ اس معبد میں ہر عقیدے اور مذہب کے مانوالوں کو آنے کی اجازت تھی۔

سولی بیگو ڈا کے چھت سات قطعے تھے جو تھوڑی تھوڑی اونچائی پر بنے ہوئے تھے۔ ہر قطعے کے چار چار دالان تھے۔ لگتا تھا کہ یہ معبد ایک ٹیلے پر بنایا گیا ہے۔ تیسرے قطعے کے دالان میں ایک بہت بڑا درخت تھا جہاں چڑیوں کی چکار گونج رہی تھی۔ ہزاروں چڑیاں درخت کی شاخوں پر اور درخت کے نیچے بیٹھی دانہ دنکا چن رہی تھیں۔ درخت اٹھینوں کے ساتھ بے شمار مٹی کے پیالے لٹک رہے تھے۔ کسی میں دال چاول تھے تو کسی میں پانی بھرا ہوا تھا۔

کہتے ہیں کہ گوتم بدھ جب سچائی کی تلاش میں جنگل جنگل پھرا کرتے تھے اور کوا انہیں کھانے کو کچھ دے جاتا تھا تو وہ آدھا سے زیادہ کھانا چڑیوں کو ڈال دیا کرتے تھے۔ عورتیں اور بچے یہاں آ کر چڑیوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ یہاں چڑیوں نے اس قدر شور مچا ہوا تھا کہ واقعی کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔

جو تھے قطعے کے دالان کی مشرقی جانب نیچے زمین پر اگے ہوئے ناریلوں کے درختوں کے جھنڈ دالان کی پتھر ملی منڈیروں کو چھو رہے تھے۔ ان درختوں کے سبز پکے ناریلوں کو آپ ہاتھ سے چھو سکتے تھے مگر ان ناریلوں کو کوئی نہیں توڑتا تھا۔ وہ پک پک کہ خود بخود نیچے گر پڑتے تھے۔

میں دیر تک معبد کے دالانوں اور قطعوں میں پھرتا رہا۔ اس کے بعد والہر جانے کے لئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ دوسرے قطعے کی سیڑھیاں اترتے ہوئے میری نگاہ پر اپنے آپ پھول بیچنے والی لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ایک عورت کو پھول دے رہی تھی۔ پانی کی بالٹی میں سے اس نے گیندے اور رتنا کلی کے لمبے ڈنٹھل والے پھول نکالے اور ان

کا ایک گلہستہ سا بنا کر عورت کو دیدیا۔

میں سیڑھیوں کی چھوٹے چھوٹے ستونوں والی منڈیر کے ساتھ لگ کر کھڑا پھول بیچنے والی لڑکی ساتوں کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آ گیا کہ اس نے بھی میری طرف دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں کیا خیال کرے گی کہ میں کتنی بدتمیزی سے اسے گھور رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی نگاہیں ہٹانا چاہیں مگر میں ایسا نہ کر سکا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں نے ساتوں کے چہرے سے نگاہیں ہٹالیں تو وہ میری نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے غائب ہو جائے گی۔ عین اسی وقت ٹوکری میں پھولوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے پھول بیچنے والی کی نگاہ مجھ پر بھی پڑ گئی۔ میں گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔

میں جلدی جلدی اس قطعے کی سیڑھیاں اتر کر سب سے آخری قطعے کی سیڑھیوں پر آ گیا۔ میرے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے پھول بیچنے والی میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرا دی ہو۔ جیسے بادلوں میں ذرا سی بجلی چمک جاتی ہے۔ حقیقی محبت کی اس ننھی سی بجلی نے چمک کر میری روح کو اس کی گہرائیوں تک منور کر دیا تھا۔ مجھے اپنے سینے میں ایک ارتعاش سا محسوس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر پھول بیچنے والی کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش کی مگر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں اس دیدار کا متحمل نہیں ہو سکوں گا۔ اگر میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی۔

آہ! مجھے دانے کی محبت بھری لظم کا ایک شعر یاد آ گیا۔

”تو کس لئے اس خاتون سے محبت کرتا ہے

جب تو اس کے دیدار کا متحمل نہیں ہو سکتا“

اس لمحے مجھے عشق حقیقی اور قلب سلیم ایک ہی شکل میں دکھائی دے رہے تھے۔ عشق حقیقی کا مقام قلب سلیم میں ہی ہے۔ ایک دوسرے کے بغیر دونوں میں سے کسی کا وجود ممکن نہیں۔ یہ میرے اس وقت کے اس چھوٹی عمر کی پاکیزہ محبتوں کے محسوسات تھے۔ ان کے نام اور ان محسوسات کے حدود اربعے سے میں بالکل ناواقف تھا۔ یہ ساری وضاحتیں یہ

ساری تشریحات اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں۔ جب میں ایک زمانہ گزر جائے بعد آج ان محسوسات کا تجزیہ کرنے بیٹھا ہوں۔ تجزیہ کرتے وقت عقل اور علم کو شامل کرنا پڑتا ہے اور محبت کے دودھ میں علم اور عقل کا پانی شامل ہو جاتا ہے اور پھر محبت کو خوشبو تو غائب ہو جاتی ہے اور عقل اور علم کے کاغذی پھول باقی رہ جاتے ہیں۔ علامہ کیا خوب فرمائے ہیں۔

عشق کی تیج جگر دار اڑا لی کس نے
علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی

برمارغون کے بارے میں جب میں نے اپنا پہلا ناول لکھا تھا تو اس میں بیچنے والی اس لڑکی ساتیں کو میں نے بطور ہیروئن پیش کیا تھا اور اس سے اظہار محبت تھا اور بہت باتیں بھی کی تھیں۔ ایسا میں نے ناول کے ادبی تقاضوں کے تحت کیا لکشن تھی۔ وہاں مبالغہ آرائی کی گنجائش تھی مگر یہ میں لکشن نہیں لکھ رہا۔ یہ حقیقی واقعہ مشتمل سفر نامہ ہے۔ یہاں میں مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے سکتا۔ چنانچہ میں واقعہ اسی پیرائے میں بیان کروں گا جس طرح وہ رونما ہوئے تھے۔

میں سمجھتا ہوں کہ میرے لئے اس پھول بیچنے والی بری لڑکی ساتیں کے چہرے کو ایک نظر دیکھنا ہی بہت تھا۔ اس ایک نگاہ کے سورج نے میری روح کو گہرائیوں تک روشن کر دیا تھا۔ اس سے زیادہ روشنی میری بصارت کی برداشت تھی۔ جسم کی روحانیت اور مجازی محبت کا شاید یہ کوئی اعلیٰ درجہ تھا۔ کوئی بلند ترین جس نے مجھے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ یہ جسم نواز مگر بلند پرواز محبت کا جذبہ تھا جس نے میرے کردار کو زندگی کے عام تجربات سے بلند کر دیا تھا۔ کہتے ہیں محبت کا سوز و گداز انسانی کی اصلاح کرتا ہے اور انسانی سیرت کو بدل دیتا ہے۔ مجھے اس کا علمی شعور لیکن چونکہ میرے دل کا آئینہ شفاف اور بغیر کدورت کے تھا اس لئے پھول بیچنے والی کو ایک نظر دیکھنے سے میرے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ گیارہویں صدی عیسوی کے لاطین برنارڈو نے مشرق کے اسی تصور حسن و عشق سے متاثر ہو کر کہا تھا۔

”ایک بار اپنی محبوبہ کا جلوہ دیکھ لوں تو پھر جنت کی آرزو نہ کروں۔“

اس پھول بیچنے والی کنول کے پھول ایسی لڑکی کی محبت کے شعلے نے اچانک میرے اندر بھڑک کر میرے دل کو تمام آلائشوں سے پاک کر دیا تھا۔ اس وقت میں اپنی نفسیات کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی میں ان کیفیت کو سمجھ سکتا تھا۔ آج میں اپنی اس وقت کی جذباتی حالت کا تصور کرتا ہوں تو یہی کچھ میری سمجھ میں آتا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں۔ اس وقت میں نے اقبال اور رومی نہیں پڑھا تھا۔ اب پڑھا ہے اور مجھے رومی کا یہ شعر بے اختیار یاد آ رہا ہے۔

مرجا اے عشق خوش سودائے ما
اے طیب جملہ علت ہائے ما

میں بیگوڈا کے آخری قطعے کی بھی سیرھیاں اتر کر وہاں سے واپس اپنے فلیٹ والی لیوس سٹریٹ کی طرف چل پڑا۔

دوسرے دن ٹھیک اسی وقت میرے قدم اپنے آپ سولی بیگوڈا کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ میں آہستہ آہستہ سیرھیاں چڑھ کر اس قطعے پر آ گیا جہاں دونوں جانب پھول بیچنے والیاں بیٹھتی تھیں۔ میں دل میں فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج میں ساتیں سے کچھ پھول خریدوں گا۔ اس کنول کے پھول ایسی لڑکی کو قریب سے دیکھوں گا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا ساتیں پھولوں سے بھری ہوئی ٹوکریوں اور بالٹیوں کے پاس بیٹھی پھولوں کے چھوٹے چھوٹے گلدستے بنا رہی تھی۔

جیسے میں اس کی طرف بڑھا میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی مگر میں نے بہت جلد اپنے جذبات کو سنبھال لیا۔ اب میں ساتیں کے سامنے کھڑا پھولوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی نے بری زبان میں کچھ کہا۔ ساتیں کے چہرے پر گلابی روشنی سی پھیلی ہوئی تھی۔ شاید یہ پھولوں کی شبنمی پنکھڑیوں سے طلوع ہونے والی روشنی کا عکس تھا۔ ساتیں نے کچھ ہندوستانی یعنی اردو اور کچھ اپنی زبان میں مجھ سے پوچھا کہ میں کون سے پھول پسند کروں گا۔ میں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ لکڑی کی بالٹی میں رکھے ہوئے کنول کے گلابی پھولوں کی

روسی ساتیں پر اس قسم کا گمان دل میں لائے۔ یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے بیگو ڈا جانا پس کر دیا۔ لیکن دل میں پھول بیچنے والی لڑکی ساتیں کا خیال برابر لگا رہا۔ تین دن بڑی تکلیف میں گزارے چوتھے دن قدم اپنے آپ بیگو ڈا کی طرف اٹھنے لگے۔

پہلے قطعے کی سیڑھیاں طے کر کے اوپر آیا تو نگاہیں ساتیں کو تلاش کرنے لگیں۔ سب پھول بیچنے والیاں موجود تھیں مگر وہ جس کو میری نظریں تلاش کر رہی تھیں کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں خاموشی سے سر جھکائے دوسرے قطعے کی سیڑھیاں چڑھ کر بیگو ڈا کے پہلے دالان میں آ کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔

آج میں نے کوئی پھول نہیں خریدے تھے جس سے پھول خریدنے تھے جس کے لئے پھول خریدنے تھے جب وہ ہی نہیں تھی تو پھر پھول کس کے لئے خریدتا؟ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا کہ ساتیں یہیں کہیں ادھر ادھر ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد آ جائے گی۔ جب مزید انتظار کی طاقت نہ رہی تو اٹھ کر سیڑھیاں اترنے لگا دور سے دیکھا۔ ساتیں دکھائی نہ دی۔ میں نے کسی کو نظر اٹھا کر نہ دیکھا سر جھکائے سیڑھیاں اتر کر سولی بیگو ڈا چوک میں آ گیا۔

کس سے پوچھتا کہ پھول بیچنے والی آج کیوں نہیں آئی؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ وہ خیریت سے تو ہے؟ سارا دن اداس اداس سا پھرتا رہا۔ کہیں دل نہیں لگتا تھا۔ رنگوں سے باہر تھوڑے فاصلے پر جھیلوں کا سلسلہ تھا جس کی جھیلیں ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی تھیں۔ ان جھیلوں کے کنارے کنارے سفید زرد اور ہلکے قرمزی رنگ کے کنول کے بے شمار پھول کھلے ہوئے تھے۔ میں وہاں جا کر جھیل کے کنارے گھاس پر بیٹھ گیا۔

اس روز ساتیں کا دیدار نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا جیسے میری محبت جو امرتسر میں مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ رنگوں میں ساتیں کی شکل میں مجھے دوبارہ مل گئی تھی مگر وہ ایک باز پھر مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ چھوٹی عمر کی محبتوں کے اثر بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ ہر جذبہ اپنی پوری شدت کے ساتھ ابھرتا ہے اور وارث شاہ کیا درست کہہ گئے ہیں۔

چھوٹی عمر دیاں یاریاں بہت مشکل

طرف اشارہ کیا۔ ساتیں نے بالٹی میں سے کنول کے تین چار پھول نکال کر ان کے گرد دھاگہ لپیٹا اور میری طرف بڑھائے۔

میں نے پوچھا۔ ”کتنے پیسے؟“

اس نے کچھ پیسے بتائے۔ میں نے اسے دے دیے۔ ساتیں نے مسکرائے ہوئے ذرا سا سر جھکا کر میرا شکریہ ادا کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں کنول کا گلدستہ لئے بیگو ڈا کے پہلے دالان میں آ کر ناریل کے درختوں والی منڈیر کی طرف گیا۔ ساتیں کی آواز کا ترنم ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے منڈیر کی ایک طرف کر کے پھول رکھ دیئے اور کچھ دیر دالان میں پھرتا رہا۔ پھر واپس جاتے ہوئے ساتیں کے قریب سے ہو کر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ساتیں کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور پھر اپنے کام میں لگ گئی۔ ذرا سی بجلی چمکی اور پھر بادل چھا گئے۔

میں نے روز بیگو ڈا جانا شروع کر دیا اور روز ساتیں سے کنول کے پھول خریدے اور اس کی آواز سنتا۔ اس کے روشن اور پھولوں کی طرح شکفتہ چہرے کا دیدار کرتا اور اوپر کر بیگو ڈا کے کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے قطعے کے دالان میں ادھر ادھر پھرتا رہتا۔ معا میں جا کر پھولوں کا گلدستہ واپس لے جانا مناسب نہیں تھا چنانچہ میں کبھی کسی منڈیر پر آ کر کبھی کسی درخت کے پاس پھول رکھ کر واپس چل پڑتا۔

واپسی پر سیڑھیاں اترتے ہوئے ساتیں کے قریب سے گزرتا تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی۔ کبھی وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتی اور کبھی اپنے کام میں لگی رہتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ جب میں ساتیں سے پھول خرید رہا ہوتا ہوں تو دوسری پھول بیچنے والیاں مجھے گھور کر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ شاید انہیں شک پڑ گیا تھا کہ میں ہر روز ساتیں ہی سے پھول خریدتا ہوں تو ضرور میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔

اس کے بعد میں ایک دن چھوڑ کر جانے لگا اور دوسری عورتوں سے بھی پھول خرید لیتا تھا۔ لیکن دوسری پھول بیچنے والیوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ وہ سمجھ گئی ہیں کہ میں صرف ساتیں کو دیکھنے وہاں آتا ہوں۔ میری وجہ سے کوئی اس معصوم پھول بیچنے والی

پتر مہراں دے نبھیاں چار دے نی
 جب سورج غروب ہونے لگا تو میں اخبار ”شیر رنگون“ اور ”مجاہد برما“ کے دفتر
 میں آ گیا۔ بھائی جان اپنی میز پر بیٹھے تیز تیز قلم چلاتے ہوئے شاید ادارہ یا اداراتی نوٹ
 لکھ رہے تھے۔ ظہور شاہ جی اپنی میز کے پہلو میں آرام کرسی پر بیٹھے اخبار کی کاپیاں دیکھ
 رہے تھے۔ ساتھ ساتھ حقہ بھی پی رہے تھے۔ دفتر کا شاف اپنے اپنے کام میں مصروف
 تھا۔ میں شاہ جی کے پاس بیٹھ گیا۔ جب وہ کاپیاں دیکھ چکے تو حقے کے دو ایک کش لگا کر
 مجھ سے علامہ اقبال کا کلام سنانے کی فرمائش کی۔ میری آواز اچھی تھی۔ موسیقی سے لگاؤ بھر
 تھا۔ میں علامہ اقبال کا کلام ترنم سے پڑھا کرتا تھا۔ شاہ جی مجھ سے علامہ اقبال کی ایک
 غزل

زمانہ آیا ہے بے حجابی کا
 عام دیدار یار ہو گا
 سکوت تھا پردہ دار جس کا
 وہ راز اب آشکار ہو گا

بڑے شوق سے سنا کرتے تھے۔ چنانچہ میں نے انہیں علامہ صاحب کی سارا
 غزل جو مجھے زبانی یاد تھی ترنم سے سنائی۔ وہ بڑے انہماک سے حقہ بھی پیتے رہے اور اقبال
 کا کلام بھی سنتے رہے۔



شاہ جی کے حقے کے لئے سوکھا تمباکو خاص طور پر گجرات سے آیا کرتا تھا۔ اس
 نبا کو کی مخصوص خوشبو دفتر میں پھیلی رہتی تھی۔ شاہ جی ایک بار جنگ کے حالات پر رنگون
 ریڈیو کے اردو پروگرام میں تقریر کرنے گئے۔ انہیں ریڈیو پر چھ تقریروں کا ایک سلسلہ پورا
 کرنا تھا۔ اس روز ان کی پہلی تقریر تھی۔ میں بھی ڈیوٹی روم میں موجود تھا۔ شاہ جی کی تقریر کا
 درانیہ پانچ منٹ تھا۔ انہوں نے السلام علیکم سے تقریر شروع کی اور اس جملے پر تقریر ختم کی
 کہ ”اس موضوع پر انشاء اللہ اگلی بار تفصیل سے بات کی جائے گی۔“ ان دنوں پروگرام کی
 یکاڑنگ کا رواج نہیں تھا۔ تقریر جوں کی توں براڈ کاسٹ ہوتی تھی۔ سٹیشن ڈائریکٹر مسٹر
 یکاڈنے شاہ جی سے کہا کہ ریڈیو رنگون کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے اس لئے آپ تقریر
 شروع کرنے سے پہلے السلام علیکم اور آخر میں انشاء اللہ نہ بولا کریں۔ شاہ جی نے کہا۔
 ”آپ اپنی پالیسی اور پروگرام اپنے پاس ہی رکھیں میں السلام علیکم اور انشاء اللہ
 ضرور کہوں گا۔“

اور شاہ جی نے اس کے بعد ریڈیو رنگون کا کبھی رخ نہ کیا۔ اخبار ”شیر رنگون“ اور
 ”مجاہد برما“ کے خوش نویس حضرات کا تعلق بھی زیادہ تر پنجاب کے ضلع گجرات سے تھا۔
 اسرائیل احمد اسٹنٹ ایڈیٹر تھے جن کا تعلق صوبہ بہار سے تھا اور جو کلکتہ کے اخبار ”عصر
 جدید“ میں بھی کام کر چکے تھے۔

عبدل نامی منشی ضلع بدایوں کے رہنے والے تھے۔ یہ سب لوگ ایک عرصے سے
 رنگون میں آباد تھے۔ ایک روز انہوں نے بھائی جان سے کہا۔

جنگ کا اعلان کیا تھا اور جاپانی فوجیں سیلاب کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے سنگاپور، فلپائن اور لایا پر چھا گئی تھیں۔ اب ان کے سامنے برما کا ملک تھا۔ جاپانیوں نے 24 دسمبر 1941ء کو رگون پر بمباری گرائے جس پر لکھا تھا کہ ہم آپ کو کرس کا ایک خاص تحفہ دینے والے ہیں اور دوسرے دن جاپانی بمبار اور لڑاکا طیارے رگون کے آسمان پر نمودار ہوئے اور انہوں نے ریڈیو سٹیشن بندرگا میں فوجی تنصیبات کے علاوہ شہر پر بھی اندھا دھند بمباری اور بارنگ شروع کر دی تھی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بمباری سے رگون شہر کی بیشتر عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور جگہ جگہ آگ کے شعلے بڑک اٹھے۔ بندرگاہ پر ایک تیل بردار جہاز کھڑا تھا۔ جاپانی طیاروں نے اسے نشانہ بنایا۔ جہاز میں آگ لگ گئی اور سارے شہر پر کالی گھٹا کی طرح دھواں چھا گیا۔

جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں دوسری یا شاید تیسری بمباری کے بعد شہر سے ہندوستانی آبادی کا انخلا شروع ہو گیا تھا۔ برما رگون میں مسلمانوں کا بڑا وسیع کاروبار تھا۔ ان میں گجرات کا ٹھیادار کے سورتی مہین بھی تھے اور پنجاب کے تاجر پیشہ اور ٹھیکیدار بھی تھے۔ بری خود تو کامل لوگ تھے اور زیادہ محنت سے جی چراتے تھے۔ بڑے آرام طلب تھے لیکن باہر سے آئے ہوئے جن لوگوں نے خاص طور پر پنجابوں نے اپنی شانہ روز محنت سے رگون میں اپنے کاروبار کو وسیع کیا تھا اور وہاں جائیدادیں بنائی تھی۔ بری لوگ ان کے دشمن بن گئے تھے کہ ان لوگوں نے باہر سے آ کر ہمارے کاروبار پر قبضہ کر لیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ تھی کہ بری خود مست الوجود تھے اور ان کے مقابلے میں پنجاب کے مسلمان جھاکش اور محنتی تھے۔

رگون سے ان لوگوں کے انخلا کی ایک وجہ تو بری لوگوں کی ان کے ساتھ دشمنی تھی اور برہمنوں نے سورتی مہین اور پنجابی مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ رگون میں انگریزوں کا دفاع اور فوجی طاقت جاپانی یلغار کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جاپانی لڑاکا طیاروں اور بمبار طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لئے رگون کے ہوائی اڈے سے انگریزوں کی رائل ایئر فورس کا ایک بھی جہاز نہیں چڑھا

”جناب مجھے ایک ماہ کی رخصت عنایت کیجئے وطن کی یاد بہت ستانے لگی ہے کچھ روز وہاں رہ لوں گا تو طبیعت سنبھل جائے گی۔“

عبدل صاحب چٹھی لے کر ایک روز بحری جہاز میں سوار ہو کر اپنے وطن روانہ گئے۔ جس روز وہ گئے اسی روز شام کو شاہ جی نے بھائی جان سے کہا۔ ”معلوم ہوتا ہے عبدل میاں کو وطن کی مٹی نے بلایا ہے۔“

اور ان کا کہنا درست ثابت ہوا۔ عبدل کے جانے کے دو ہفتے بعد وطن سے ا کی بڑی بیٹی کا خط آیا کہ ابا میاں کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی آتے جاتے کے ہاتھ ان سامان بھجوا دیجئے گا۔ مارچ کے مہینے سے لے کر اکتوبر نومبر تک رگون میں بڑی بارش ہوتی تھیں۔ لمبی لمبی جھڑیاں لگتیں اور سورج کئی کئی دن نظر نہیں آتا تھا۔

بارشوں میں کیلے ناریل، آم کے درخت ہرے بھرے ہو جاتے اور باغوں پارکوں کا سبزہ نکھر جاتا تھا۔ بارش میں بری لڑکے بازاروں اور گلیوں میں بانس کے ہوئے فٹ بال کھیلتے نظر آتے تھے۔ سڑکوں کے کنارے اور باغوں میں کوئی جگہ ایسی نہ جسے سبزے نے نہ ڈھک دیا ہو۔ فٹ پاتھوں پر سایہ کئے ہوئے درخت ہر وقت کیلے آ رہے تھے اور ان میں رکے ہوئے بارش کے پانی کی بوندیں ٹپکتی رہتی تھیں۔ شہر کے ہر فٹ پاتھ پر گھنے درخت سایہ کیے ہوئے تھے۔ باغوں میں نرم نرم گھاس کے خوشے مرطوب میں لہرایا کرتے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی دریا کی دونوں جانب دھان کے سرسبز کھیتوں با سپاری، ساگوان اور ناریل اور تاز کے درختوں کے گنجان سلسلے شروع ہو جاتے تھے۔ سبز جھیلوں کے آئینے میں کنول کے پھول اپنا حسن و جمال دکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اونچے نیچے ٹیلوں پر کیلے کے درختوں کے درمیان ہو کر گزرنے والی پگڈنڈیوں کی زمین بارش میں شروع ہو جاتی تھی۔ تیز بارشوں میں جھیلوں کی سطح پر ہلکی ہلکی دھند چھا جاتی اور کنول پھول سر جھکا کر اپنی مٹلیں نازک پگڈنڈیاں سمیٹ لیتے۔

بارش..... بارش..... بہت جلد رگون پر جاپانی بموں کی بارش ہونے والی ہے جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں اتحادیوں کے خلاف 2 دسمبر 1941ء

میا ہے۔ یہاں ان کی جنگلی لکڑی کی چرائی کی بہت سی آرائشیں لگی ہوئی تھیں۔ عبدالعزیز صاحب بڑے امیر کبیر آدمی تھے اور پنجاب کے ہی رہنے والے تھے۔ جنگل میں انہوں نے اپنی رہائش کے لئے ایک ڈاک بنگلہ بنا رکھا تھا۔

عبدالعزیز صاحب نے ہماری بہت آؤ بھگت کی۔ بھائی جان چونکہ حکومت برما کے ملازم بھی تھے اور ایک اخبار کے ایڈیٹر بھی تھے اور ریڈیو رنگون سے جاپانیوں کے خلاف پراپیگنڈا بھی کرتے رہے تھے اس لئے انہوں نے اپنا حلیہ بدلا ہوا تھا اور سر پر پگڑی باندھی ہوئی تھی تاکہ جاپانی انہیں پہچان نہ سکیں۔ اور دیہاتی مزدور ٹائپ آدمی سمجھ کر چھوڑ دیں۔ کیونکہ سارے برما پر جاپانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور کوئی پتہ نہیں تھا کہ جنگل میں کہاں کہاں جاپانی فوج تعینات ہے۔ جنگلاتی لکڑی کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب کے پاس ہم لوگ دس بارہ روز رہے۔ یہاں باری علیگ صاحب ہم سے جدا ہو گئے۔ جب بھائی جان اور عبدالعزیز صاحب نے بتایا کہ آگے ایک دن اور ایک رات کا سمندر کا سفر ہے جو ایک کشتی کے ذریعے کرنا پڑے گا۔ باری علیگ صاحب چھوٹی کشتی میں ایک رات اور ایک دن کا سفر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی بیگم صاحبہ اور بچی کو لے کر ایک دوسرے قافلے میں شامل ہو گئے جو جنگل جنگلی خشکی کا ایک بہت لمبا راستہ طے کر کے کاسز بازار جا پہنچا تھا۔

کہنے کو تو ہم لوگ بھی بنگال میں کاسز بازار کی طرف جا رہے تھے لیکن یہ سفر خطرناک، گنجان اور ہاتھیوں، شیروں اور سانپوں اور مہلک حشرات الارض سے بھرے ہوئے جنگلوں کا سفر تھا۔ اور ہم لوگ پیدل جا رہے تھے۔ جنگلی لکڑی کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب کا ارادہ ہجرت کا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہیں رہوں گا۔ جاپانی آگے تو میں انہیں لکڑی سپلائی کروں گا۔ وہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔

انہوں نے ہمیں بھی اپنے ڈاک بنگلے والے مکان میں رک جانے کو کہا لیکن بھائی جان یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ جاپانی انہیں انگریزوں کا سرکاری افسر ہونے اور رنگون ریڈیو پر اپنے خلاف پراپیگنڈا کرنے کے جرم میں پکڑ کر شوٹ بھی کر سکتے تھے۔ چنانچہ ہم لوگ عبدالعزیز صاحب کے ڈاک بنگلے سے آگے روانہ ہو گئے۔ ایک دن جنگل

تھا۔ چنانچہ غیر بری شہری آبادی اپنی دکانیں، گھر اور جائیدادیں چھوڑ کر جنگل کی طرف پیدل چل پڑے تھے۔

یہ سن 47ء سے پہلے کی مسلمانوں کی بہت بڑی ہجرت تھی۔ یہ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے بال بچوں سمیت لٹ پٹ کر کسمپرسی کی حالت میں رنگون سے نکلے تھے۔ ان کے اپنے آپ ہی چھوٹے بڑے قافلے بن گئے تھے۔ ان کی منزل کا کر بازار اور چٹاگانگ تھی جہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں کی برٹش انڈیا فوج غر بھاگ گئی تھی۔ ان بے یار و مددگار لوگوں کو کون پوچھتا۔

لکھ پتی ایک ہی دن میں مفلس ہو گئے تھے۔ لاکھوں کے مال سے بھری ہوئی ان کی دکانوں اور گوداموں پر برمیوں نے یا قبضہ کر لیا تھا یا لوٹ کر لے گئے تھے۔ انہیں بنکوں سے اپنی رقوم نکلوانے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ جو گھر میں یا پاس (پلے) تھا اسی آ لے کر نکل پڑے تھے۔ ہم لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ بھائی جان تھے ہمیشہ تھیں۔ باری علیگ تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی تھی۔ باری صاحب کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ کی گود میں ڈیڑھ سال کی بچی تھی جس کا نام سعیدہ تھا۔ شاہ جی تھے۔ اخبار کے سٹاف کے کچھ لوگ تھے۔ اللہ تو کل یہ قافلے چل پڑے تھے۔ کوئی راہنما نہیں تھا۔ صرف اتنا پتا تھا کہ اس طرف جنگل شروع ہوتا ہے اور اسی جانب بنگال اور کاسز بازار ہے۔ اپنے آپ قافلے کا ایک راستہ بن گیا تھا۔ ہمارے آگے بھی کئی قافلے پیدل چل رہے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ سب سے آگے جو قافلے تھے انہیں جنگل میں جنگلی پھلوں کے جو درخت اور پانی کے چشمے مل جاتے وہ ان پھلوں اور چشمے کے پانیوں سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی بھوک اور پیاس مٹاتے رہتے۔ جب پچھلے قافلے وہاں پہنچے تو درختوں پر ایک بھی پھل نہیں تھا اور چشمے سوکھ گئے تھے یا پانی ان کی تہ میں بیٹھ گیا تھا۔ لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے۔

بچوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ ہم لوگ گرتے پڑتے برما کے گنجان اور خطرناک جنگلوں میں پندرہ دن تک پیدل سفر کرنے کے بعد جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں بھائی جان کے ایک دوست کا جنگلی درختوں کا ایک ذخیرہ تھا۔ ان کا نام عبدالعزیز مجھے یاد رہا

میں پیدل سفر کرنے کے بعد سمندر آ گیا۔ یہ خلیج بنگال کے کالے پانی کا سمندر تھا۔ رات ہم نے وہیں آرام کیا۔ صبح ایک ذرا بڑی مگر خطرناک کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں روانہ گئے۔

چاروں طرف سیاہ کالا سمندر سمندر کی بڑی بڑی موجیں جو اوپر نیچے ہورہی تھیں۔ سمندر پرسکون تھا مگر اس کی وسعت اور اوپر نیچے ہوتی موجوں کو دیکھ کر خوف طار ہوتا تھا۔ کشتی بھی سمندری موجوں کے ساتھ ہچکولے کھا رہی تھی۔ سارا دن اور ساری رات سمندر میں ہمارا سفر جاری رہا۔ دوسرے دن سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد کنارہ آ آیا تو جان میں جان آ گئی۔ یہاں سے اکیاب تک چار دن کا پیدل سفر تھا۔

جنگل کے ٹھیکیدار عبدالعزیز صاحب نے بہت سا خشک راشن ہمارے ساتھ کر لیا تھا جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ جنگل میں ایسے گاؤں بھی آئے جہاں بری لوگوں۔ قافلے والوں کو کیلے اور بھنے ہوئے چنے کھانے کو دیئے۔ قافلوں کا خود بخود ایک روٹ گیا تھا۔ اس روٹ پر ایسا بھی ہوا کہ درختوں میں سے اچانک ڈاکوؤں نے نکل کر قافلے حملہ کر دیا اور لوگوں کے پاس جو تھوڑی بہت نقدی رہ گئی تھی وہ لوٹ کر لے گئے۔

بعض جگہوں پر یہ بھی سنا کہ ڈاکو ایک دو عورتیں بھی اٹھا کر لے گئے تھے۔ ابھی ہوتا تھا کہ قافلہ ایک گاؤں میں سے گزرا تو جنگلی لوگ اور ان کی عورتیں ہاتھوں کیلے کے سچھے اور بھنے ہوئے چنوں کے تھیلے پکڑے کھڑے ہیں۔ ستم رسیدہ قافلے والوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اس طرح ہمیں بھی جنگل میں ایک جگہ ایک نیک دل جنگلی مل گیا۔ ہمیں اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ ہمیں کھانے کو ابلے ہوئے نمکین چاول دیئے اور چائے کر لے آیا۔ چائے میں دودھ ملا ہوا تھا۔ بھائی جان بڑے حیران ہوئے کہ وہاں کوئی بک اور گائے بھینس بھی نظر نہیں آ رہی تھی پھر یہ شخص چائے کے لئے دودھ کہاں سے لایا ہے تم نے چائے میں دودھ ڈالا ہے۔ یہ تم کہاں سے لائے ہو؟ کیونکہ یہ ناریل دودھ بھی نہیں تھا۔ جنگلی آدمی کے پاس اس کی بیوی بیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مسکرا کر ہونے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میری بیوی کا دودھ تھا۔ افسوس کہ اس وقت

ہم چائے پی چکے تھے۔
برما کے گنجان جنگل سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل تک پھیلے ہوئے تھے۔ یہ پہاڑی جنگل بھی تھے اور میل ہا میل تک میدانی جنگل بھی تھے۔ ان جنگلوں میں دریا بہتے تھے۔ ندیاں اور جھیلیں تھیں۔ جان لیوا دلدلی میدان بھی تھے۔ دشوار گزار جنگلی اور پہاڑی راستے تھے۔ ایسے تالاب بھی تھے جن کی سطح کنول کے خوبصورت پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ لیکن ان تالابوں میں آدمی کے جسم سے چمٹ کر خون پی جانے والی لاکھوں جو تکس بھی تھیں۔ ان تالابوں میں اگر کوئی انسان یا جانور گر پڑتا تھا تو لاکھوں جو تکس اس کے جسم سے چمٹ کر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا خون پی جاتی تھیں۔ بارشیں اتنی ہوتی تھیں کہ راستے جل قفل ہو جاتے تھے۔ رات کے وقت جھینگروں کے ساتھ سانپوں کی پھنکاریں بھی سنائی دیتی تھیں۔

ایسے دریا اور کشادہ ندی نالے تھے کہ جن کے اوپر کوئی پل نہیں تھا۔ درختوں کے تنوں کو کھوکھلا کر کے بنائی گئی کشتیوں میں بڑے بڑے دریا اور ندی نالے عبور کرنے پڑتے تھے۔ درختوں کی ٹہنیوں سے سبز رنگ کے باریک سانپ لپٹے ہوئے تھے۔ یہ اتنے گھنے ڈراؤنے اور دشوار گزار جنگل تھے کہ ان کو دیکھ کر ہی بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ یقین نہیں آتا تھا کہ ہم کبھی ان جنگلوں کو پار کر کے بنگال پہنچ سکیں گے۔

جنگلوں کے بارے میں میرا تصور بڑا خوبصورت تھا۔ میں اس سے پہلے یہی جانتا تھا کہ جنگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں کنول کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی جھیلیں ہوتی ہیں۔ جنگلی پھلوں سے لدے ہوئے درخت ہوتے ہیں۔ شفاف بیٹھے پانیوں کے چشمے بہتے ہیں۔ گنگنائے جھوٹے جھرنے ہوتے ہیں۔ درختوں پر چڑھی ہوئی پھولوں بھری بلیں ہوتی ہیں۔

برما کے جنگلوں نے میرے اس تصور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ یہ ایسے خوفناک اور قاتل جنگل تھے کہ جہاں میلوں تک پینے کا پانی نہیں ملتا تھا اور آدمی پیاسا مر جاتا تھا۔ کہیں کہیں جنگلی سبز کیلے کے درختوں کے جھنڈ آ جاتے تھے۔ اس کے بعد آدمی صرف درختوں

کے تھے اور جھاڑیوں کی جڑیں کھا کر ہی زندہ رہ سکتا تھا۔ جہاں برساتی چھٹڑ ہوتے تھے وہاں کنگھوڑے، پچھو اور سانپ بھی کثرت سے ہوتے تھے۔

ان برساتی پانی کے تالابوں میں لاکھوں جوگلیں انسان کا خون پینے کے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھیں۔ رات کو مکھیوں جتنے بڑے پھھر حملہ آور ہو جاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھا تھا کہ ان جنگلوں میں آدم خور پودے بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودے ہوتے ہیں۔ آدی قریب سے گزرے تو یہ کانٹے دار خونئی ٹہنیاں اسے دیوچ لیتی ہیں اور اپنے ہزاروں کانٹے اس کے جسم میں چبھ کر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا خون پی کر اور گوشت کھا کر اسے ہڈیوں کا بچر بنا دیتی ہیں۔

اس کے بعد میرا سری لنکا اور وسطی ہند کے گھنے جنگلوں میں گزرنے کا اتفاق بھی ہوا لیکن ان علاقوں کے جنگل برما کے جنگلوں کے مقابلے میں اتنے خونخوار نہیں تھے۔ برما کے جنگلوں میں پیدل سفر کرتے ہوئے کبھی کبھی ہاتھیوں کے غول ضرور جنگل سے نکل کر دوسری طرف نکل جاتا تھا۔ ایک بار اس راستے میں دو دیو پو پوکل قسم کے ہاتھی آ کر بیٹھ گئے۔ جس پر سے مہاجرین کا قافلہ گزر رہا تھا۔ قافلے والے ان ہاتھیوں سے بچ کر جنگل کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگے۔

رات کو کبھی کبھی شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنائی دے جاتی تھیں۔ لیکن چونکہ جنگل میں سے انسانوں کے ہجوم درہجوم گزر رہے تھے اس لئے جنگلی جانور اس طرف نہیں آتے تھے۔ سینکڑوں لوگ بھوک پیاس اور سانپوں کے ڈسنے سے مر گئے۔ پیدل سفر کرنے ہوئے انسانوں کی بے گور و کفن لاشیں بڑی ہوتی تھیں۔

یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا اور اکیلے ہی قافلے کے ساتھ چل پڑے تھے۔ کسی خاندان کا کوئی آدی بیماری سے مر جاتا تو اسے وہیں زمین کھود کر دفن کر دیا جاتا تھا۔

کئی دفعہ اوپر سے جاپانی طیارے گزرے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے قافلے والوں پر نہ تو بمباری کی نہ فائرنگ کی۔ شاید اس لئے کہ جاپانیوں کو معلوم تھا کہ یہ لوگ زندہ

حالت میں بنگال نہیں پہنچ سکیں گے۔ لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے تھے۔ انسان انسان سے بیزار ہو گیا تھا۔ اپنی اپنی جان بچانے کے لئے انسان خود غرض بن گیا تھا۔ غرغرضی اور نفسا نفسی کے ایسے ایسے عبرت ناک منظر دیکھنے میں آئے کہ یقین نہیں آتا تھا کہ انسان اس حد تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانی ہمدردی کے ایسے مظاہرے بھی دیکھے کہ ایک انسان نے اپنی بوتل میں بچا ہوا پانی ایک پیاسے بچے کو پلایا اور خود خالی بوتل پھینک کر آگے چل پڑا۔

ہم بھی گرتے پڑتے کسی نہ کسی طرح اکیاب پہنچ گئے۔ اکیاب بڑا مختصر مگر صاف ستھرا شہر تھا۔ یہاں کے بعض مخیر اور انسان دوست لوگوں نے مہاجرین کے لئے کھانے پینے کا انتظام کر رکھا تھا۔ اکیاب میں بھائی جان کے ایک دوست رہتے تھے۔ ان کی شہر میں چڑے کے جوتوں کی بہت بڑی دکان تھی۔ یہ صاحب پنجاب کے رہنے والے تھے۔ میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ انہوں نے میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ ہم ان کے مکان پر چھ سات روز رہے۔ ہماری بگڑی ہوئی صحت کسی حد تک بحال ہو گئی۔ ہم نے نئے کپڑے اور نئے جوتے خرید کر پہنے۔ اکیاب سے آگے ایک بہت بڑا دریا تھا۔



میں نے ساتیں کا خیال آتے ہی فیصلہ دل میں کر لیا تھا کہ میں یہاں ان لوگوں سے الگ ہو جاؤں گا اور سب سے پہلے اپنی محبوبہ ساتیں سے ملنے ان کے گاؤں جاؤں گا اور اس سے مل کر اگر واپس جانے کو دل چاہا تو بوتھی ڈانگ آ کر کوئی دوسرا سیئر پکڑ کر چٹا گانگ چلا جاؤں گا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو ہی گیا تھا کہ بوتھی ڈانگ سے ہر ہفتے ایک سیئر چٹا گانگ جاتا ہے۔ قسمت میں محبت کے ہاتھوں جو سختیاں اور مصیبتیں اٹھانی لکھی تھیں انہیں کون ٹال سکتا تھا۔ اب میں سوچنے لگا کہ ان لوگوں سے کس طرح الگ ہونا چاہئے۔ ظاہر تھا کہ اگر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں ساتیں سے ملنے جاؤں گا اور ان کے ساتھ چٹا گانگ نہیں جانا چاہتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بھائی جان مجھے اس کی اجازت دیتے۔ بس ایک ہی طریقہ تھا کہ میں چپکے سے وہاں سے کھسک جاؤں۔

بھریا میلہ چھوڑ کر کھسک جانے کی مجھے شروع ہی سے عادت تھی اور محبت کے مقابلے میں تو میں نے ہمیشہ جذبات کا ساتھ دیا تھا۔ عقل سے کبھی کام نہیں لیا تھا۔ بلکہ میرا تو یہ عقیدہ تھا کہ محبت ہوتی ہی اس وقت ہے جب عقل آدمی کا ساتھ چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ابھی سیئر کے پہنچنے میں تین چار دن باقی ہیں۔ اگر اس وقت میں بھاگ گیا تو یہ لوگ کسی نہ کسی طرح میرے پیچھے نکل پڑیں گے اور مجھے تلاش کریں گے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ جس روز سیئر آنے والا ہوگا اس روز چپکے سے جنگل کی طرف کھسک جاؤں گا۔

میں برما کے جنگلوں سے خوب واقف ہو چکا تھا اور جس طرف بری عورت نے ساتیں کا گاؤں بتایا تھا اسی طرف سے رنگون کے مہاجرین کے قافلے آ رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ علاقہ انسانوں سے خالی نہیں ہوگا اور یہاں جنگلی جانوروں کا بھی ڈر نہیں ہو گا۔

چوتھے روز شام کے وقت چٹا گانگ جانے والا سیئر آ گیا۔ اسے دوسرے دن صبح کے وقت واپس چٹا گانگ جانا تھا۔ ساری رات سیئر پر چاول کی بوریاں اور لکڑیوں کے بڑے بڑے شہیر لادے جاتے رہے۔ کافی بڑا سیئر تھا۔ مجھے تو وہ جہاز لگ رہا تھا۔ بھائی

یہ دریا بالکل سمندر کی طرح تھا۔ اس کا دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا تھا۔ دریا ہم۔ ایک پرانے سیئر میں عبور کیا اور بوتھی ڈانگ پہنچے۔ بوتھی ڈانگ برما کے مغربی ساحل پر ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جو چاول اور ساگوان کی لکڑی کی بہت بڑی منڈی تھی۔ اچانک مجھے یاد گیا کہ رنگون پر پہلی بمباری کے بعد میں رنگون کے سولی ہیکو ڈا کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پھو پیچنے والی لڑکی ساتیں کو دیکھنے اور اس کی خیر خیریت معلوم کرنے ہی کو ڈا گیا تھا تو وہ ڈا وہاں نہیں ملی تھی۔ مگر ایک بوڑھی بری عورت نے جو شکستہ اردو بول رہی تھی۔ مجھے بتایا تھا کہ ساتیں موسی کے گاؤں چلی گئی ہے جو بوتھی ڈانگ سے تین کوس مشرق میں واقع ہے۔ خیال نے جیسے میرے قدم پکڑ لئے۔ اب میرے سر پر محبت کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں سے میں آگے چٹا گانگ نہیں جاؤں گا۔

بوتھی ڈانگ سے ہر ہفتے ایک سیئر لکڑیاں اور چاول لے کر چٹا گانگ جاتا تھا بھائی جان وہاں بندرگاہ پر ہی ٹھہر گئے تھے اور سیئر کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ سیئر تین یا چار دن میں چٹا گانگ پہنچتا تھا۔ اگرچہ بندرگاہ کے آدمیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جاپانی اور آسام تک پہنچ گئے ہیں اور کوئی پتہ نہیں چٹا گانگ سے سیئر چاول وغیرہ لینے آئے یا نہ آئے۔ اور اگر آئے تو واپس جانے کے بجائے یہیں رہ جائے کیونکہ جاپانی آبدوزیں اور ان۔ جہاز کن چھوٹے جہاز تلخ جنگل میں دیکھے گئے تھے۔ اس کے باوجود بھائی جان ہم کو لے وہاں بیٹھ گئے تھے کہ اگر سیئر آ گیا تو اس کے کپتان کو پیسوں کا لالچ دے کر واپس جانے آمادہ کر لیں گے۔

بہت تھی۔ اور میں ناریل کا پانی پی کر زردہ رہ سکتا تھا۔ چلتے چلتے میں بانس کے درختوں میں کافی آگے نکل آیا۔ یہاں دیار اور ساگوان کے درختوں کا جنگل سا شروع ہو گیا۔

ساگوان کے درختوں کا یہ جنگل کوئی اتنا گھنا اور دشوار گزار نہیں تھا کہ جتنے ٹوڑناک اور گنجان جنگلوں میں سے ہم گزر کر آئے تھے۔ زمین اونچی نیچی تھی اور درختوں کے جھنڈوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ جہاں جنگلی جھاڑ جھکاراگا ہوا تھا۔ جب وقت کافی گزر گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ بھائی جان مجھے تلاش کرتے مایوس ہو چکے ہوں گے اور سیئر میں وار ہو کر چٹا گانگ روانہ ہو گئے ہوں گے یا اگلے سیئر تک میرے انتظار میں وہیں بیٹھ گئے ہوں گے تو میں ایک جگہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔

پانی اس جنگل میں بھی دور دور تک نظر نہیں آیا تھا۔ راستے میں بھی کوئی چشمہ یا ندی نالہ نہیں ملا تھا۔ مجھے پاس لگ رہی تھی۔ ایک طرف مجھے ناریل کے دو تین درختوں کی ہتھیریاں اوپر کواٹھی ہوئی دکھائی دیں۔ میں ان درختوں کے پاس چلا گیا۔ درختوں کے نیچے نین چار ناریل گرے پڑے تھے۔ ان میں ایک ناریل تازہ گرا ہوا لگتا تھا۔ میں نے اسے ہتھ پر مار کر توڑا اور اس کا بیٹھا پانی پی گیا۔

ناریل ابھی ہرا تھا۔ اس کے اندر ابھی گری نہیں بنی تھی۔ میں نے کچھ چنے کھائے اور تھوڑی دیر آرام کر کے آگے روانہ ہو گیا۔ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ میرا رخ مشرق کی طرف ہی ہے۔ بوڑھی برمی عورت نے کہا تھا کہ راستے میں دریا بھی آتا ہے اور دریا پار پہلا گاؤں ساتیس کی ماسی کا گاؤں ہے اور ساتیس وہیں گئی ہوئی ہے۔ کیا منہ زور جذبہ محبت تھا؟ کیسی حماقت میں نے کی تھی؟ اب اس حماقت کا خیال آتا ہے تو دل میں بڑی حسرت پلا ہوتی ہے کہ کاش مجھے محبت کا وہی اہتمام جذبہ پھر عطا ہو جائے اور میں بار بار ایسی حماقت کر سکوں۔ کبھی محبت کے منہ زور جذبات نے میری عقل کو ہنر مار مار کر بھگا دیا تھا۔ اس کے باوجود میں سب کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ کبھی عقل بھاگ جاتی اور محبت کے جذبوں کے ساتھ میں جو وقت گزارتا ہوں وہ میری روح کی جنت کے حسین ترین لمحے ہوتے ہیں۔

جان اسی وقت ٹکٹ خریدنا چاہتے تھے لیکن سیئر کے بنگالی کیمپن نے کہا۔

”ابھی کچھ معلوم نہیں سیئر صرف سامان لے جائے گا یا مسافروں کو بھی لے

جائے گا؟“

دوسرے دن سیئر کے پکتان نے بھائی جان سے مل کر کہا کہ وہ کچھ مسافر واپس لے جا رہے ہیں۔ آپ کی فیملی کو بھی لے جائیں گے۔ ٹکٹ آپ کو سیئر پر بیٹھنے کے لئے ایٹو کیے جائیں گے۔ اگلے دن میں نے بڑی ہمشیرہ سے کچھ پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لئے کہ ساتیس سے مل کر اور اس کی خیریت معلوم کر کے جب واپس بوٹھی ڈانگ آؤں گا تو دوسرے شہر کے ٹکٹ کے پیسے میرے پاس ہونے چاہئیں۔ میں کچھ اور پروگرام بنا رہا تھا اور میری تقدیر کچھ اور ہی پروگرام بنا چکی تھی۔

بھائی جان وغیرہ سیئر پر سوار ہونے کے لئے تیار کیا کر رہے تھے کہ میں موقع پا کر وہاں سے کھسک آیا۔ بوٹھی ڈانگ میں ہم تین چار دن رہے تھے۔ اس دوران میں نے یہ بھی معلوم کر لیا تھا کہ مشرق کی جانب ایک گاؤں ضرور ہے مگر اس کا فاصلہ وہاں سے تین میل سے زیادہ ہے اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے جس پر کوئی پل وغیرہ نہیں ہے۔ مگر محبت پل کے ذریعے دریا پار نہیں کیا کرتی۔ محبت تو کچے گھڑے کو لے کر دریا میں چھلانگ لگا دیتی ہے۔ میں جب تک بوٹھی ڈانگ کے بازار میں رہا وہاں آہستہ آہستہ چلتا رہا لیکن جیسے ہی بازار ایک ویران راستے کو مڑا میں نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب میں نے دیکھا کہ میں دھان کے کھیتوں میں آ گیا ہوں اور ارد گرد کوئی انسان نہیں ہے تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ میں اتنی دور نکل جانا چاہتا تھا کہ اگر بھائی جان یا کوئی اور شخص مجھے تلاش کرتا اس طرف نکل آئے تو میں انہیں دکھائی نہ دوں۔ دھان کے کھیت ختم ہونے تو بانس کے درختوں کے جھنڈ شروع ہو گئے۔ اب میں دوڑنے کی بجائے جتنی تیز چل سکتا تھا چل رہا تھا۔ چلنے سے پہلے میں نے اپنی ٹھنڈی پتلون کی دونوں جیبیں بھنے ہوئے پتوں سے بھری تھیں تاکہ راستے میں اگر کھانے کو کچھ نہ ملے تو تھوڑے تھوڑے چنے کھا کر ہی گزارہ ہو جائے۔ پانی کی مجھے فکر نہیں تھی کیونکہ اس علاقے میں ناریل کے درختوں کا

جیسے جیسے دن ڈھل رہا تھا اور شام آ رہی تھی مجھے یہی خیال پریشان کر رہا تھا
ساتھ ساتھ گاؤں تو دریا پار ہے اور ابھی دریا کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ رات
اور کیسے گزاروں گا؟ جب ہم لوگ قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو جنگل میں را
آگ جلا لیتے تھے۔ ویسے بھی بہت لوگ ہوتے تھے۔ رات الاؤ کے پاس کبھی سو
جاگ کر گزار جاتی تھی۔ میرے پاس ماچس بھی نہیں تھی کہ رات کو کسی جگہ آگ کا الاؤ
کروں۔

آگ کی وجہ سے جنگلی جانور اور سانپ وغیرہ قریب نہیں آتے تھے۔ درخت
چڑھ کر سونا خطرناک تھا۔ تجربے نے ہمیں بتایا تھا کہ درختوں پر آدم خور سرخ چوہے
سانپوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ ابھی دن کی روشنی باقی تھی۔ چلتے چلتے ایک جگہ مجھے رل تر
زل کی ایسی آواز آئی جیسے کسی جگہ پانی گر رہا ہو۔ میں اس آواز کی طرف بڑھتا ہوا
کچھ فاصلے پر مجھے خاکستری رنگ کی چٹان نظر آئی جس کے پیچھے سے پانی کے گر
آواز آ رہی تھی۔ چٹان کے عقب میں جا کر دیکھا کہ ایک پہاڑی ڈھلان کے چھرو
سے پانی کی چھوٹی سی دھار نیچے پانی کے چھوٹے سے تالاب میں گر رہی تھی۔

پانی دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا۔ میں نے نیچے تالاب
کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ وہاں ایک طرف مجھے کپڑوں کی پرانی دھجیاں سی
آئیں۔ قریب گیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کسی نے پرانے کپڑے پھینکے ہیں۔ یہ ایک
اور ایک جاگہ تھا۔ پیچھے ٹین کا ایک خالی ٹرک بھی پڑا تھا۔ ذرا آگے گیا تو ایک
دیکھی جس کے ارد گرد جھاڑیاں دبی ہوئی تھیں اور جگہ جگہ پرانے کاغذ گندے کپڑے
گھڑے اور ایک دو خالی سوت کیس پڑے تھے۔

میں سمجھ گیا کہ یہاں سے مہاجروں کا کوئی قافلہ گزرا ہے۔ اس کا مظل
میں صبح راستے پر جا رہا تھا۔ میں مہاجروں کی چھینکی ہوئی چیزوں کو الٹ پلٹ کر د
ایک جگہ مجھے گھاس پر ماچس کی ڈبیا پڑی نظر آئی۔ میں نے اسے جلدی سے اٹھا
کر دیکھا تو اس میں صرف دو دیا سلانیاں رہ گئی تھیں۔ میں نے اسے نصیحت جان

میں رکھ لیا۔ یہ رات کو آگ کا الاؤ جلانے کے کام آ سکتی تھیں۔

ایک ٹوٹے ہوئے ٹرک کے پاس رسی پڑی تھی۔ شاید اسی رسی سے ٹرک کو
باندھ دیا گیا تھا۔ یہ گز سوا گز لمبی رسی تھی۔ میں نے رسی بھی اپنی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ میرا
خیال تھا شاید کسی جگہ کوئی چھری یا چاقو گرا پڑا مل جائے مگر یہ نہ ملا۔ میں وہیں پگڈنڈی کے
ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے آگے جانا چاہئے یا اسی جگہ رات گزارنے کے
لئے کوئی ٹھکانہ بنانا چاہئے۔ کیونکہ سورج غروب ہونے ہی والا تھا۔ قافلے والوں کی گری
پڑی چیزیں دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا کہ آدمی نہ کسی مگران کی نشانیاں تو یہاں موجود ہیں۔
میں نے اسی جگہ رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔

سب سے پہلے میں نے چل پھر کر ناریل کا ایک درخت تلاش کر لیا جس کے
نیچے بہت سے ناریل گرے پڑے تھے۔ ان میں تین تازہ ناریل اٹھا کر لے آیا۔ ایک
ناریل توڑا اس کا پانی پیا۔ دیکھا کہ اس کی گری تیار تھی۔ تھوڑی سی گری اور تھوڑے سے
بھنے ہوئے پنے کھائے۔ سورج غروب ہو گیا اور جنگل میں اندھیرا چھانے لگا۔ میں اٹھ کر
چٹے پر آ گیا۔ وہاں دوبارہ تازہ پانی پیا اور واپس آ کر ایک درخت کے نیچے بہت سی سوکھی
لکڑیاں گھاس وغیرہ جمع کر کے اسے آگ لگا دی۔ الاؤ روشن ہو گیا۔

میں درخت کے دو ایک سوکھے تھے گھسیٹ کر لے آیا اور انہیں الاؤ میں ڈال
دیا۔ یہ تڑپتے تڑپتے تھے کہ ساری رات جل سکتے تھے۔ وہاں دھواں ہو گیا۔ اوپر درخت
پر بیٹھے ہوئے پرندے پھڑ پھڑا کر اڑ گئے۔ رات ہو گئی۔ الاؤ کی روشنی میں مجھے آس پاس
کے درخت صاف نظر آ رہے تھے۔ آگ کی وجہ سے کسی درندے کے اس طرف آنے کا
سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ الاؤ کے دھوئیں نے چھروں کو بھی بھگا دیا تھا۔ مگر مجھے نیند نہیں
آ رہی تھی۔ میں وہیں گھاس پر الاؤ سے ذرا دور ہو کر لیٹ گیا۔ نیند کو سوں دور تھی۔ خیال
آتا کہ میرے اچانک گم ہو جانے سے بھائی جان اور ہمشیرہ کتنی پریشان ہو رہی ہوں گی۔
وہ امر تر گھر پہنچ کر والد صاحب اور آپوچی کو کیا بتائیں گی کہ بھائی کو کہاں چھوڑ آئی ہیں۔
یہ سب کچھ مجھے اس وقت سوچنا چاہئے تھا جب میں انہیں چھوڑ کر بھاگا تھا۔ اب سوچنے اور

پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔

کسی وقت خیال آتا کہ اگر کسی طرف سے شیر یا چیتا نکل آیا تو کیا کروں کہاں جاؤں گا؟ آگ کے الاؤ میں تو چھلانگ نہیں لگا سکتا۔ میں نے اوپر درخت کا لیا اس درخت پر دھوئیں کی وجہ سے سانپ اور چوہنیاں یقیناً غائب ہو گئی ہوں گی۔ درخت پر چڑھ سکتا تھا۔ پیدل چل کر سخت تھک گیا تھا۔ نیند کی غنودگی طاری ہوتی تو مجھ سے آنکھیں کھول دیتا کہ کوئی شیر چیتا نہ آ گیا ہو۔

صرف الاؤ میں لکڑیوں کے چمکنے کی کسی وقت آواز آ جاتی تھی۔ اس کے جنگل پر گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ بندر بھی آ سکتے تھے۔ جنگلی بندر غول کی شکل میں سفر کر ہیں۔ کسی انسان کو دیکھ لیں تو سارے کے سارے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ قافلے ساتھ پیدل چلتے وقت ایک جگہ بندر ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ اگر ایک آدمی کے بندوق نہ ہوتی اور وہ اوپر تلے دو تین ہوائی فائر نہ کرتا تو بندر بچے کو کوچ کوچ کر ہڑ چکا ہوتا۔ فائرنگ کے دھماکوں سے بندر نے ڈر کر بچہ وہیں پھینک دیا اور خود بھاگ گیا ساری رات اسی طرح سوتے جاگتے گزر گئی۔ صبح اٹھ کر چشمے پر جا کر پتھروں کی درز میں سے گرنا پانی پیا۔ منہ ہاتھ دھویا اور بھنے ہوئے چنے کھائے مشرق کی جانب جدھر سے سورج طلوع ہوا تھا چل پڑا۔ اب مجھے دریا کا انتظار تھا۔ تک چلتا رہا۔ کبھی تھک کر بیٹھ جاتا۔ تھوڑی دیر آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔

دوپہر کے بعد جب سورج مغرب کی طرف جھک گیا تھا مجھے درختوں درمیان سے دریا دکھائی دیا۔ بے اختیار دوڑتا ہوا دریا کے کنارے آ گیا۔ کافی بڑا دریا دوسرے کنارے کے درخت چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے تھے۔ وہاں کوئی بل نہیں تھا۔ کوئی کشتی بھی نہیں تھی۔ مجھے تیرنا آتا تھا مگر امترس کی نہروں میں تیرتا رہا تھا۔ دریا تیرا نہیں تیرا تھا۔ دریا کا اتنا چوڑا پاٹ دیکھ کر ویسے ہی دل پر خوف سا طاری ہو رہا تھا۔ میں دریا کے کنارے کنارے ایک طرف چل پڑا۔ اس خیال سے کہ شاید کوئی گھاٹ ہو جہاں سے دیہاتی لوگ دریا پار کرتے ہوں اور وہاں کوئی کشتی بھی ہو

ہانی دور تک چلا گیا مگر کسی گھاٹ اور کشتی کا نشان تک نہیں تھا۔ ایک جگہ دریا میں سے ایک ری نکل کر جنگل میں چلی گئی تھی۔ میں ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا کہ شاید اس طرف ماہی کیروں کے جموں ہڑے وغیرہ ہوں۔

ندی آگے جا کر پھر دریا کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس مقام پر جہاں ندی دریا کے ساتھ ملتی تھی درختوں کے بڑے جھنڈے تھے اور زمین اونچی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ہاں زمین اونچی ہے اس کی دوسری طرف کوئی آبادی ہو اور وہاں گھاٹ بھی ہو۔ میں کھائی چڑھ کر اوپر درختوں کے پاس آیا اور دوسری طرف دیکھا تو مجھے ڈھلوان چھت والی ببارک دکھائی دی۔

بارک کے باہر کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پہلے تو میں وہیں بیٹھ کر غور سے بارک جائزہ لینے لگا۔ کسی طرف سے کسی انسان کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی بڑی خاموشی تھی۔ اید بارک خالی پڑی تھی۔ کسی انسان کی موجودگی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔

دل میں خیال آیا کہ نیچے اتر کر دیکھنا چاہئے۔ بارک کے اندر کیا ہے؟ ممکن ہے ماکی دوسری طرف کوئی آبادی ہو اور دریا پار کرنے کا کوئی سبب بن جائے۔ میں تھیب ما اتر گیا۔ بارک کا برآمدہ خالی پڑا تھا۔ بارک کی کھڑکیاں اور دروازے کھلے تھے۔ مجھے ایک خطرے کا احساس ہوا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ انسان پر جب کوئی بڑی مصیبت آنے لگتی ہے تو اس کی چشمی حس اسے ہلکا سا اشارہ کر دیتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی احساسات پر چربی زیادہ چڑھی ہوئی ہو اور اسے قدرت کے اشارے کا احساس نہ ہو۔

میرے احساسات پر ابھی چربی نہیں چڑھی تھی۔ میں لڑکا سا تھا اور میرے احساسات بڑے نازک اور اتنے تیز تھے کہ دریا دور بھی ہو تو میں اس کے پانی کی مرطوب نبو محسوس کر لیتا تھا۔ میں نے آج بھی اپنے احساسات کو چربی چڑھنے سے بچایا ہوا ہے۔ اس کے لئے مجھے صرف ایک ہی پرہیز کرنا پڑتا ہے کہ میں دن میں صرف ایک بار ہلکی غذا کھاتا ہوں۔ گوشت نہیں کھاتا اور اتنی غذا بھی جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لئے کھاتا ہوں۔ مجھے کھانا پسند نہیں اگر میرا بس خیلے تو میں سوائے چائے اور پانی کے اور کچھ نہ

ہوں۔ مگر مجبور ہوں جب تک زندہ ہوں کھانا کھانا ہی پڑے گا۔

چنانچہ مجھے اشارہ مل گیا تھا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسنے والے ہو۔ یہاں بھاگ جاؤ لیکن سرکشی شاید انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ میں نے خطرے کے سگڑ زیادہ پروا نہ کی اور یہ دیکھنے کے لئے کہ بارک کے اندر یا اس کی دوسری طرف کیا ہے بارک کے اندر چلا گیا۔ بارک کے اندر میں یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ د لکڑی کے شیلٹ دیوار کے ساتھ لگے تھے۔ ان شیلٹوں کے خانے ٹن فوڈ، سگریٹ، چائے، چینی اور بیئر کی بوتلوں سے بھرے ہوئے تھے۔ لمبی سی میز پر بھی بیٹھے دودھ، ماہرین، اور فروٹ کے ہوا بند ڈبے پڑے تھے۔ ایک دم خیال آیا کہ یہاں جاپان کی کوئی پانا تعینات ہے اور یہ اس کی نانی یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا سنور ہے۔ پھر خیال آیا کہ سکتا ہے یہ برٹش اٹریا کی ہندوستان کی فوج کا کوئی سنور ہو۔ جاپانیوں کے قبضے کے ہندوستانی فوج یہاں سے بھاگ گئی ہو اور سنور خالی پڑا رہ گیا ہو۔ میں نے آگے بڑھ کر میز پر سے ٹن فروٹ کا ایک ڈبہ اٹھا کر دیکھا۔ یہ دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گیا کہ اگر انگریزی کے بجائے جاپانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔



میں نے باقی چیزوں پر نگاہ ڈالی۔ سب پر جاپانی زبان میں لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں غلطی سے جاپانی فوج کے کمپ میں آ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہاں اس وقت کوئی جاپانی فوجی نہیں تھا ورنہ میں مارا گیا تھا۔ میں نے صرف دودھ کا ایک ڈبہ اٹھایا اور بارک سے نکل کر دوڑ پڑا۔ جیسے ہی میں چڑھائی چڑھ کر درختوں میں آیا ماننے سے تین جاپانی فوجی چلے آ رہے تھے۔ شین گئیں ان کے کندھوں پر لٹک رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو فوراً شین گئیں میری طرف کر لیں اور میری جانب دوڑے۔ میں دوڑ نہیں سکتا تھا۔ دوڑنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ میرا اور جاپانی فوجیوں کا دس بارہ قدموں کا فاصلہ تھا۔ اگر میں دوڑ بھی پڑتا تو انہوں نے پیچھے سے فائرنگ شروع کر دیتی تھی۔ وہ دور دور سے جاپانی زبان میں آپس میں کچھ بول رہے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور ارک کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ میری شکل بری لوگوں کی طرح نہیں تھی۔ میں شکل سورت سے صاف ہندوستانی لگتا تھا۔ اگرچہ میں کم عمر تھا یعنی اتنا بڑا نہیں تھا کہ انہیں مجھ پر اٹریا ہونے کا شبہ ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے بارک میں بند کر دیں گے۔ لیکن وہ مجھے پکڑ کر بارک کی دوسری طرف لے گئے۔ اس طرف زمین نشیبی تھی۔ دریا کے کنارے درختوں میں فوجی کمپ لگا ہوا تھا اور جاپانی سپاہی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے۔ وہاں ان کا ایک فوجی افسر کرسی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ جاپانی فوجیوں نے مجھے اس کے آگے زمین پر بٹھا دیا اور اس کو جاپانی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا جاپانی افسر نوجوان سپاہی تھا۔ وہ مجھے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس نے شکستہ اردو زبان میں مجھ سے پوچھا۔

”تم کو کس نے ادھر کو بھیجا ہے۔“

مجھے اس جاپانی فوجی افسر کے صحیح جملے یاد نہیں۔ اردو وہ اسی قسم کی بولتا تھا۔ مطلب یہ کہ اسے شبہ تھا کہ جنگل میں کہیں برٹش آرمی کے انڈین سپاہی چھپے ہوئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں جاسوسی کرنے اور یہ معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے کہ میں جاپانی کیمپ میں جا کر جاپانی فوج کی نفری اور فوجی ساز و سامان کے بارے میں سراخ رسائی کر سکوں۔

میں نے اردو زبان میں جواب دیا۔

”میرا ہندوستانی فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں رنگون سے بھاگا ہوا ہمارا ہوں۔ سویلیں ہوں۔ قافلے سے پھنڑ کر ادھر آ نکلا ہوں۔“

لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ جاپانی فوجی میری بات پر یقین کرتے۔ انہوں نے وہیں مجھے مارنا پینٹا شروع کر دیا۔ میں رونے لگا اور کیا کرتا۔ میں آٹھویں جماعت کا سٹوڈنٹ ہی تھا جب امرتسر سے بھائی جان کے ساتھ رنگون آ گیا تھا۔ رونے کے سوا میں کیا کر سکتا تھا۔ مگر جاپانیوں پر میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مجھے تھپڑ مار رہے تھے۔ کمر پر کئے مار رہے تھے۔ میں زمین پر گر پڑا۔ ایک جاپانی سپاہی مجھے ٹھنڈے مارنے لگا۔ جاپانی افسر نے اسے روک دیا۔ مجھے پانی پلایا گیا۔ میرا سارا بدن درد کرنے لگا تھا۔ میں نے پانی پی لیا۔ اس کے بعد جاپانی افسر نے بڑے پیار سے مجھ سے پوچھا۔

”اگر تم ہمیں بتا دو کہ یہاں ہندوستانی سپاہی کہاں چھپے ہوئے ہیں تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے بلکہ دریا پار کروا کر بنگال جانے والی سٹیئر میں بٹھادیں گے۔“

اس وقت تک جاپانی فوجیں جزائر اڈیمان پر بھی قابض ہو چکی تھیں اور آسام بنگال کی طرف بڑھ رہی تھیں بلکہ کلکتے کے شام بازار پر جاپانی طیارے دو تین بم بھی گرا کر چلے گئے تھے۔ میں نے جاپانی فوجی افسر کے جملے سلیس اردو میں لکھے ہیں جبکہ یہ باتیں اس نے شکستہ ٹوٹی پھوٹی اردو زبان میں مجھ سے پوچھی تھیں۔ میں نے اس سے کہا۔

”میں کسی ہندوستانی سپاہی وغیرہ کو نہیں جانتا۔ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں۔“

رنگون میں اپنے بھائی کے پاس آیا ہوا تھا۔ رنگون سے لوگ بھاگے تو میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ بھاگ کر قافلے میں شامل ہو گیا تھا۔ مگر ایک جگہ بد قسمتی سے قافلے سے پھنڑ گیا اور اس طرف نکل آیا۔“

جاپانی افسر نے سپاہیوں کو اپنی زبان میں کوئی آرڈر دیا۔ جاپانی سپاہیوں نے رسی سے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیئے اور مجھے کھینچتے ہوئے ایک خیمے کے اندر لے گئے جہاں کلڑی کے بہت سے بکسے یعنی کریٹ پڑے تھے۔ خیمے کے درمیان لوہے کا ایک کھمبا گڑھا ہوا تھا جس کے سہارے خیمہ کھڑا تھا۔ جاپانی سپاہیوں نے میرے ہاتھ کی رسی کھول دی اور ایک کریٹ میں سے لوہے کی زنجیر نکالی۔ زنجیر کا حلقہ میرے پاؤں میں باندھا۔ دوسرا حلقہ لوہے کے کھبے میں ڈال کر اسے تالا لگا دیا اور باہر نکل گئے۔ میں جاپانی فوج کا قیدی بن چکا تھا۔

میری لڑکپن کی زندگی کا یہ عجیب و غریب اور بڑا بھیمانک تجربہ تھا۔ میں کھبے کے ساتھ لگ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد مجھے کسی سٹیئر کے انجن اور اس کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ پھر سٹیئر کے انجن کی آواز بند ہو گئی۔ کچھ دیر بعد وہی دو جاپانی فوجی خیمے میں آئے۔ انہوں نے میری زنجیر کھول دی اور مجھے بازوؤں سے پکڑ کر خیمے کے باہر لے آئے۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سٹیئر کھڑا تھا جس پر جاپان کا فوجی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سٹیئر کے عرشے پر جاپانی فوجی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جاپانی سپاہی مجھے اس سٹیئر پر لے گئے اور ایک کیبن میں بند کر دیا گیا۔ کبھی مجھے خیال آتا کہ جاپانی سپاہی میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ میں نے رنگون میں بھائی جان کی زبانی سن رکھا تھا کہ جاپانی بڑے سنگدل ہوتے ہیں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرتے ہیں اور تلوار سے ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی سنا تھا کہ جاپانی اپنے جنگی قیدیوں کا تلوار سے سر کاٹنا بہت پسند کرتے ہیں۔ جب یہ خیال آتا کہ جاپانی کہیں لے جا کر تلوار سے میرا سر بھی کاٹ ڈالیں گے تو میرا دل ڈوبنے لگتا اور جسم خوف سے ٹھنڈا پڑ جاتا۔ مجھے اس سے پہلے اس قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہوا تھا۔

کی آواز سی سی پر نئی۔ سیئر بار بار دسل دے رہا تھا۔ پھر سیئر بہت آہستہ ہو گیا اور رک گیا۔ انجن بھی بند ہو گیا تھا۔ جاپانی سپاہیوں کی باہر سے آوازیں آنے لگی تھیں۔ کیمبن کا دروازہ کھلا۔ دو جاپانی سپاہی اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے ہتھکڑی لگائی اور کیمبن سے باہر لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ سیئر دریا کے دوسرے کنارے پر ایک جگہ لگا ہوا تھا۔ سامنے بہت سے فوجی کمپ نظر آ رہے تھے۔ ایک طرف فوجی ٹرک کھڑے تھے۔ جاپانی فوجی ادھر ادھر چل پھر رہے تھے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک فوجی ٹرک آ کر سیئر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جاپانی فوجیوں نے مجھے کیمبن سے اتار کر ٹرک میں بٹھا دیا۔ خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گئے اور فوجی ٹرک کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔

جاپانی فوجی ٹرک دریا پار کے ایک جنگل میں اونچی نیچی سڑک پر اچھلتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ایک جاپانی سپاہی میرے پاس بیٹھا تھا جس کی بیلٹ کے ساتھ میری ہتھکڑی کی زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ سامنے والی سیٹ پر دو جاپانی سپاہی بیٹھے تھے۔ وہ سگریٹ پی رہے تھے اور اونچی آواز میں ایک دوسرے سے جاپانی زبان میں باتیں کر رہے تھے۔

میں نے محسوس کیا تھا بلکہ دیکھا تھا کہ جاپانی بڑی اونچی آواز میں باتیں کرتے تھے۔ شاید جنوری کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس موسم میں امرتسر میں بڑی سردی ہوتی تھی۔ مجھے اپنا شہر امرتسر یاد آ رہا تھا۔ میں سردی میں پشیمنے کی فردا اوڑھ کر کپہنی باغ جایا کرتا تھا اور ٹھنڈی کھوٹی کے پاس جہاں گلابوں کے تختے تھے وہاں بیٹھ کر چمپ کر سگریٹ بھی پیتا تھا اور گلاب کے پھولوں کو بھی دیکھا کرتا تھا۔ اگر میری بچپن کی پہلی محبت نے رف کا پی کے منٹے پر مجھے کوئی خط لکھا ہوتا تھا تو وہ خط بار بار پڑھا کرتا تھا۔

اس وقت اپنی بچپن کی پہلی محبت کو اور کپہنی باغ کے گلاب کے پھولوں کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ جنہیں میں بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھا۔ کبھی آرٹسٹ بھائی یاد آتا۔ کبھی والدہ یعنی آپو بی کا خیال آتا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ میں رنگوں سے نکل کر جاپانیوں کی قید میں آ گیا ہوں تو وہ کس قدر پریشان ہوں گی۔ وہ تو سب

کبھی اس قسم کے حالات سے پالا ہی نہیں پڑا تھا۔ میں نے ابھی جنگلی قیدیوں کے کمپ سے فرار کی کوئی داستان بھی نہیں پڑھی تھی۔ ابھی تو جنگ ہو رہی تھی اور فرار کی داستانیں جنگ ختم ہونے کے کافی عرصے بعد رسالوں اخباروں میں چھپنی شروع ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود بہ تقاضائے بشری میں نے جاپانیوں کی قید سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی تھیں۔ زیادہ پیچیدہ ترکیبیں میرے ذہن میں نہیں آتی تھیں۔

میں یہی سوچتا تھا کہ کسی طرح کیمبن سے بھاگ کر دریا میں چھلانگ لگا دوں۔ اس وقت سیئر دریا میں چل پڑا تھا۔ میں کیمبن میں بند تھا۔ مجھے دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سیئر دریا کے پار جا رہا ہے یا دریا کے آگے کسی طرف جا رہا ہے۔ کیمبن میں کوئی روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ کیمبن کے اندر مجھے کسی جگہ باندھا نہیں گیا تھا۔ میں کھلا تھا۔ کیمبن بڑا چھوٹا سا تھا۔ میں نے بند دروازے کو باہر کی طرف دھکیلا۔ باہر سے دروازہ بند تھا۔ کیمبن کی دیوار کے ساتھ لکڑی کے بچ بنے ہوئے تھے۔ میں بچ پر بیٹھا تھا۔ جسم درد کر رہا تھا۔ میں بچ پر لیٹ گیا۔ مجھے جاپانیوں نے بڑے زور زور سے تھپڑ مارے تھے۔ میرے منہ سے خون تو نہیں نکلا تھا، ہونٹ بھی کھیں سے نہیں پٹا تھا لیکن لگتا تھا کہ میری ایک آنکھ تھوڑی سوچ گئی ہے۔

میرے پیٹ پر ٹھنڈے مارے گئے تھے جس کی وجہ سے پیٹ میں کسی کسی وقت درد کی لہر اٹھتی تھی۔ اس وقت میں بڑا پچھتا رہا تھا کہ کیوں بھائی جان سے الگ ہو کر ساتوں کی تلاش میں جنگل میں اکیلا نکل آیا۔ میری جیب میں جتنے پیسے تھے وہ جاپانیوں نے نکال لئے تھے۔ بھنے ہوئے چنے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ سیئر ٹھک ٹھک ٹھک کی آواز سے دریا میں چل رہا تھا۔ کسی کسی وقت وہ سیٹی بجا دیتا تھا۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے جاپانی مجھے قید کر کے جاپان لے جائیں اور وہاں کسی بہت بڑے جیل خانے میں ڈال دیں اور باقی ساری عمر کے لئے جیل میں قید ہو جاؤں۔

غرض کہ میرے ناچختہ ذہن میں طرح طرح کے پریشان کن خیالات آ رہے تھے۔ مجھے ایسے لگا جیسے سیئر ایک طرف کو گھوم گیا ہے۔ اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی تھی۔ انجن

رونے لگیں گے۔ بس یہی چھوٹے چھوٹے، پریشان کرنے والے، دکھ دینے والے خیالات تھے جو بار بار میرے ذہن میں آرہے تھے اور ٹرک جنگل میں دوڑتا جا رہا تھا۔ برسات کا موسم نہیں تھا اس لئے ابھی تک کوئی بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک دو دفعہ آسمان پر بادل ضرور آئے تھے مگر بغیر بارش برسائے گزر گئے تھے۔ کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد ٹرک جنگل میں ایک کھلی جگہ پر آ کر رک گیا۔ ٹرک کی چھت نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں دونوں جانب بانس کی جھونپڑی نما بارکیں بنی ہوئی تھیں۔ ایک اونچی جگہ پر لکڑی کا بہت بڑا کیمین بنا ہوا تھا جس کے باہر جاپان کا سرخ گولے والا جینڈا لہرا رہا تھا۔ وہاں بہت سی فوجی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ایک بارک میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ شاید وہاں فوج کے لئے کھانا تیار ہو رہا تھا۔ مجھے کافی بھوک لگ رہی تھی۔ دن کافی گزر چکا تھا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی اور صحت ہو رہا تھا۔ جاپانی مجھے ٹرک سے اتار کر اوپر جو بڑا کیمین تھا وہاں لے آئے۔

کیمین کے دروازے کے باہر ایک بوڑھا بری برآمدے میں بیٹھا آہستہ آہستہ ایک رسی کھینچ رہا تھا۔ یہ رسی اس دیسی پٹکے کی تھی جو اندر کیمین کے کمرے میں چھت کے ساتھ لگا تھا۔ ایک لسا بانس تھا جس کے نیچے ناریل یا شاید بانس کے پتوں کو جوڑ کر ایک لمبا پنکھا سا لگا دیا گیا تھا۔ بانس چھت کے ساتھ بندھا تھا۔ پٹکے کے بڑے بانس کے درمیان میں رسی بندھی تھی جس کا سر کیمین کے باہر برآمدے میں بیٹھے بوڑھے بری کے ہاتھ میں تھا جسے وہ آہستہ آہستہ کھینچتا تو اندر پنکھا جھلنے لگتا تھا۔ یہاں بجلی نہیں تھی۔

پٹکے کے نیچے ایک گول مٹول گنجا جاپانی فوجی وردی پہنے بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ جاپانی سپاہی نے جس کی بیلٹ کے ساتھ میری ہتھکڑی کی زنجیر بندھی تھی مجھے اس گنجنے جاپانی افسر کے سامنے پیش کر دیا اور سیلوٹ مار کر اسے اپنی زبان میں کچھ بتانے لگا۔

جاپانی فوجی افسر نے قلم ایک طرف رکھ دیا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مجھے گھورنے لگا۔ نیام میں پڑی ہوئی ایک تلوار اس نے سامنے میز پر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر

یہی مجھے گھورنے کے بعد جاپانی فوجی افسر کرسی پر سے اٹھا۔ اس نے تلوار بڑے آرام سے نیام میں سے نکالی۔ مجھے پسینہ آ گیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جاپانی اپنے قیدیوں کی گردن اڑا دیا کرتے ہیں۔ میرا حلق دہشت کے مارے خشک ہو گیا۔ ایک لمحے کے لئے سارے گھر والے، امرتسر والا گھر، محلہ اور کپہنی باغ میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گھومنے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔

جاپانی فوجی افسر کے چہرے پر ایک مردہ سنگ دلی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اس نے تلوار کی نوک میرے ماتھے سے لگائی۔ مجھے چکر آ گیا۔ میں نیچے گر پڑا۔ جاپانی فوجی افسر نے چلا کر جاپانی زبان میں جاپانی سپاہی سے کچھ کہا۔ جاپانی سپاہی کو میری ہتھکڑی کی وجہ سے جھٹکا لگا تھا اور وہ بھی میرے گرتے ہی اپنے آپ ایک طرف جھک گیا تھا۔ سپاہی نے مجھے ٹھنڈا مار کر اٹھایا۔ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ یہی لگتا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ میں بڑی مشکل سے کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ جاپانی فوجی افسر اس دوران کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی تھی۔ مجھے گویا پھر سے زندگی مل گئی تھی۔ مجھے اپنے اوپر ایک ایسے موت کے قیدی کا گمان ہو رہا تھا جس کی رحم کی اپیل عین وقت پر منظور ہو گئی ہو اور اسے پھانسی کے تختے سے اتار لیا گیا ہو۔

جاپانی فوجی افسر نے اشارے سے سپاہی کو کوئی حکم دیا۔ جاپانی سپاہی مجھے کھینچتا ہوا کیمین سے باہر لے گیا۔ اس نے مجھے ٹرک میں بٹھایا اور ٹرک ایک بار پھر جنگل میں آگے کی طرف چل پڑا۔ خوف کے مارے میرا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جاپانی فوجی افسر نے خود تو میری گردن نہیں اڑائی لیکن اس فوجی سپاہی کو آرڈر دیا ہے کہ وہ مجھے جنگل میں لے جا کر ہلاک کر دے۔ فوجی ٹرک درختوں کے درمیان جھاڑیوں اور گھاس پودوں کو کاٹ کر بنائی گئی غیر ہموار سڑک پر جا رہا تھا۔

یہ جنگل کا کوئی نیم پہاڑی سلسلہ تھا۔ ٹرک کبھی دائیں طرف مڑ جاتا۔ کبھی بائیں طرف مڑ جاتا۔ راستے میں ایک ندی بھی آئی۔ پھر ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں بہت سے لوگ کھانڈیوں سے درخت کاٹ رہے تھے۔ ان کے جسم لاغر تھے اور کپڑے گندے چھتروں کی

بھت سبھی نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر ہی بعد میرے بازو تھک گئے۔ پھر میں نے گورے قیدی کو دیکھا کہ وہ اس طرح کلبھاڑی چلا رہا تھا کہ ہر ضرب کے درمیان تھوڑا سا وقفہ ڈال رہا تھا۔ میں بھی ایسا کرنے لگا۔ اس سے مجھے تھوڑا سا آرام مل گیا۔

سورج غروب ہو رہا تھا اور جنگل میں دن کی روشنی ماند پڑنے لگی تھی۔ ایک طرف سے سیٹی بجانے کی آواز آئی۔ ہندوستانی اور گورے قیدیوں نے کلبھاڑے زمین پر بکھریے اور وہیں بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ میں نے بھی کلبھاڑی ایک طرف رکھ لی اور تیس سے چہرے کا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ ایک بار پھر زور زور سے سیٹی بجنے لگی۔ سیٹی کی دوسری آواز پر سارے قیدی اٹھ کھڑے ہوئے اور دو قطاریں بنانے لگے۔ میں بھی ایک قطار میں شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ اگلی قطار میں میری عمر کے تین لڑکے بھی تھے۔ ان سب کے چھتڑے لٹک رہے تھے۔ ان میں سے کسی کے بھی قیدیوں والے کپڑے نہیں تھے۔

جاپانی سپاہی قیدیوں کو ٹیک مارچ کراتے ایک لمبے بارک نما جھونپڑے میں لے گئے جہاں ایک لمبی میز پر ایک قطار میں ٹین کی تھالیاں پڑی تھیں۔



طرح ہو رہے تھے۔ ان آدمیوں کے درمیان جگہ جگہ جاپانی سپاہی ٹین گن لئے کھڑے ان کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ جو آدمی ذرا سستی دکھاتا جاپانی سپاہی اسے بے دردی سے ٹین گنوں کے دستے اور ٹھڈے مارنا شروع کر دیتے۔

ٹوک ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میری ہتھکڑی اتار دی گئی اور مجھے دھکا دے درخت کاٹنے والے آدمیوں کی طرف دھکیل دیا گیا جو جنگلی قیدی ہی ہو سکتے تھے۔ ان میں ہندوستانی بھی تھے اور کچھ گورے انگریز بھی تھے۔ سب کی بری حالت ہو رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کئی روز سے کھانے کو کچھ نہیں ملا۔ جو جاپانی سپاہی اپنی نگرانی میں قیدیوں کو مار مار کر ان سے کام لے رہے تھے ان میں سے ایک نے مجھے گردن سے دبوچ کر دوسرے سپاہی کی طرف دھکیل دیا۔ دوسرے جاپانی سپاہی نے میرے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا۔

ایک طرف تین چار کلبھاڑیاں پڑی تھیں۔ میں نے ایک کلبھاڑی اٹھائی اور ایک درخت پر کلبھاڑی چلانے لگا جس پر پہلے ہی سے ایک گورا قیدی کلبھاڑی چلا رہا تھا۔ درخت کٹ کر زمین پر گر پڑا تھا اور اس کے دو کٹڑے کئے جا رہے تھے۔ ہمارے پیچھے جاپانی سپاہی ٹین گن لئے کھڑے تھے۔ میں زور زور سے کلبھاڑی چلا رہا تھا۔

میں نے کنکھوں سے دیکھا کہ وہاں چاروں طرف جاپانی فوجی ٹین گنیں لے موجود تھیں۔ جنگل میں جہاں درختوں کی کٹائی ہو رہی تھی وہاں تین طرف مشین گنوں کے مورچے بنے ہوئے تھے جہاں پر ہر مورچے میں دو دو سپاہی بیٹھے تھے۔ مسلح جاپانی فوجی قیدیوں کے درمیان بھی ان کے کام کی نگرانی کر رہے تھے۔ ہمارے قریب کھڑا ایک سپاہی ذرا آگے کو گیا تو مجھے زور زور سے کلبھاڑی چلاتے دیکھ کر گورا سپاہی قیدی ہندوستانی زبان میں بڑھی دھیمی بلکہ مردہ آواز میں کہنے لگا۔

”آہستہ آہستہ کام کرو۔ تھک جاؤ گے پھر کیا کرو گے۔“

وہاں جنگل میں گڑی اور جس اتنا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد میں پسینے میں نہا گیا۔ میں نے گورے قیدی کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ ذرا نرم کر لیا۔ میں نے آگے

میں نے کہا۔

”جی ہاں۔ میں امرتسر کا رہنے والا ہوں۔“

میں نے اسے ساری کہانی مختصر کر کے سنا دی۔ وہ بولا۔

”میں آٹھ پنجاب انٹرنی کار جنٹ کا حوالدار خداداد خان ہوں۔ تمہیں اپنے

انی بہن سے الگ نہیں ہونا چاہئے تھا۔“

میں نے اس سے پوچھا۔

”جاپانی ہمارے سر تو نہیں کاٹیں گے؟“

حوالدار خداداد خان نے پنجابی میں آہستہ سے کہا۔

”اگر ہم نے بھاگنے کی کوشش کی تو جاپانی ہمیں دو زانو بٹھا کر ہمارا سر کاٹ دیں

لے۔ میرے سامنے چار گوروں کے سر کاٹے گئے ہیں۔ اب کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش نہیں

رتا۔ بھاگ کر ہم جائیں گے بھی کہاں؟ بنگال یہاں سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہاں

لے جنگلی بری لوگ بھی ہندوستانی کے دشمن ہیں۔ ہمیں پکڑ کر جاپانیوں کے حوالے کر دیں

لے۔“

میں نے پوچھا۔

”یہاں ہمیں کتنی دیر تک قید رکھا جائے گا؟“

”جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ سونے کی کوشش کرو۔“ حوالدار نے جھکی

لی آواز میں کہا۔

”صبح پھر درخت کاٹنے ہوں گے۔“

مجھے پھر کاٹ رہے تھے۔ میں حیران ہوں کہ تھوڑی دیر بعد حوالدار خراٹے لے

ہا تھا۔ باقی قیدی بھی تقریباً سو گئے تھے۔ اصل میں سارے دن کی مشقت سے اس قدر

لک ٹوٹ گئے تھے کہ گھاس پھوس کے بستر پر گرتے ہی سو گئے تھے۔ پھروں کے کاٹنے

لے شاید وہ عادی ہو گئے تھے۔ خدا جانے کب تک میں پھروں سے جنگ کرتا رہا اور کب

لے نیند آگئی اور میں سو گیا۔

ایک جاپانی سپاہی نے بڑا سا پیلا اٹھا رکھا تھا۔ دوسرا جاپانی سپاہی اس میں

کڑ چھے کی مدد سے ابلے ہوئے چاولوں کا ایک ایک کڑ چھا ڈالتا جاتا تھا۔ قیدیوں کی

چودہ پندرہ سے زیادہ نہیں تھی۔ انہیں میز کے دونوں جانب کھڑے کر دیا گیا۔ جب

ساری تھالیوں میں چاول ڈال چکے تو ایک سپاہی نے سیٹی بجائی۔ سیٹی کی آواز سننے

قیدی ابلے ہوئے چاولوں پر ٹوٹ پڑے۔ ایک جاپانی فوجی ٹین کے گھاس میں پانی ڈا

ہر قیدی کے پاس رکھے جاتا تھا۔ ابلے ہوئے مونے بڈا اٹھ چاول تھے جن میں

ٹمک ڈالا گیا تھا۔ تھوڑے سے چاول تھے۔ سارے قیدی جلدی سے کھا گئے۔ ہماری

نہیں مٹی تھی۔ سپاہی ہمیں ٹیک مارچ کراتے اینٹ گارے سے بنی ہوئی ایک لمبی

میں لے آئے جہاں زمین پر گھاس پھوس بچھا ہوا تھا۔ یہ قیدیوں کا بستر تھا۔ بارک

ڈھلواں چھتی اونچی تھی اور چاروں کونوں میں گیس روشن تھے جن کی روشنی کافی تھی۔

میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں سے گزار کر قیدیوں کو اندر لایا گیا تھا۔ دروازہ

دیا گیا۔ قیدی گھاس پھوس کے فرش پر بیٹھ گئے۔ ان پر اتنی نقاہت طاری تھی کہ کو

ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا تھا۔ بارک بند تھی جس کی وجہ سے اندر سخت گرم

تھا۔ پھروں نے بھی بھنھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے قریب ہی ایک ہندوستانی

سپاہی گھاس پر آنکھیں بند کئے چپ چاپ لیٹا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر میری

دیکھا اور اردو میں پوچھا۔

”تم پنجابی ہو؟“

سے بہتر سمجھتے تھے۔

میرا نوجوان خون تھا۔ بدن میں طاقت تھی۔ میں باسی اور ناکافی غذا کھا کر بھی شقت کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہم میں سے تین قیدیوں کو زیر تعمیر سڑک کے ایک ایسے مقام پر روڑی ڈالنے کے لئے لگا دیا گیا جہاں نیچے چھوٹی سی گھاٹی تھی اور چھوٹا سا تالاب بھی تھا۔ وہاں روڑی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہمیں وہاں سے روڑی ٹوکریوں میں بھر کر کر سڑک پر ڈالنی پڑتی تھی۔ میرے ساتھ جو قیدی کام پر لگا تھا وہ حوالدار خدا داد تھا۔ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ جس وقت ہم ٹوکریوں میں روڑی ڈال رہے ہوتے تھے تو اوپر سڑک کے کنارے ایک جاپانی سپاہی سٹین گن کا رخ ہماری طرف کے ہماری نگرانی کر رہا ہوتا تھا۔

ہمیں یہاں کام کرتے دو دن گزرے تھے۔ تیسرے دن جب میں ٹوکری لے کر روڑی لینے کھائی میں اترا تو میں نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے جھاڑیوں کے پاس دو بری عورتیں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ وہاں جنگل میں کہیں کہیں کوئی دیہاتی عورت یا مرد کام کرتے نظر آ جاتا کرتے تھے۔ جاپانی انہیں کچھ نہیں کہتے تھے۔ میں نے معمول کے مطابق ٹوکری میں پتھر کی روڑی ڈالی اور اسے سر پر اٹھا کر اوپر سڑک پر جا کر سڑک پر بکھیر دی۔ خالی ٹوکری لے کر دوبارہ نیچے کھائی میں اتر گیا۔ تالاب پر جو بری دیہاتی عورتیں کپڑے دھو رہی تھیں ان کی پیٹھ ہماری طرف تھی اور وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں تھیں۔ میں اپنے کام میں لگا رہا۔ میرا تیسرا چوتھا پھیرا تھا کہ دو عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی اور جھاڑیوں پر کپڑے جھاڑ کر ڈالنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے کا ایک رخ میری طرف مڑ گیا۔

اس کو دیکھ کر میں ٹھٹھک سا گیا۔ جیسے اس عورت کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ کب دیکھا تھا۔ کہاں دیکھا تھا یا نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اس عورت کی بھی مجھ پر نظر پڑ گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بھی ٹھٹھک سی گئی ہے۔ میں نیچے سے ٹوکری میں روڑی بھر رہا تھا اور بری عورت کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ یہ بری عورت یا لڑکی رنگون

اس جنگل میں، میں بھی دوسرے قیدیوں کے ساتھ صبح سے شام تک دس با دنوں تک درخت کا ثنا رہا۔ میرے کپڑے بھی چھتڑے بن گئے تھے۔ ہمیں دوسرے دن گرم پانی سے نہلایا جاتا تھا۔ نہلانے کا طریقہ یہ تھا کہ جنگل میں ایک جگہ کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے کپڑے نہیں اتارے جاتے تھے۔ پانی سے بھرے ہوئے ٹینک والا ایک ٹرک کر کھڑا ہو جاتا تھا اور پائپوں کی مدد سے ہم پر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نیم گرم پانی ڈالا جاتا تھا۔ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ اپنے کپڑوں کو ہاتھ سے مل کر نہائیں۔ اس طرح سے کپڑوں اور جسم دونوں کا میل کسی حد تک صاف ہو جاتا تھا۔ پانی میں کوئی جراثیم کش دوائی ملائی ہو تھی جس کی باقاعدہ بو آتی تھی۔

دس بارہ دنوں کے بعد ہم سے چھ سات قیدیوں کو نکال کر وہاں سے تھوڑی دیر ایک ایسی جگہ پر لایا گیا جہاں ایک سڑک بن رہی تھی اور وہاں پہلے سے کچھ قیدی کدالوں سے زمین کھود رہے تھے اور کچھ قیدی ٹوکریوں میں ملبہ ڈھور رہے تھے۔ سڑک پر جگہ جگہ کے ڈھیر پڑے تھے۔ ہمیں بھی ٹوکریاں دے دی گئیں۔ ہم زیر تعمیر سڑک پر سے ملبہ اٹھا کر دوسری طرف ایک گھاٹی میں پھینک آتے تھے۔ یہ کام درخت کاٹنے کے مقابلے میں شقت کا تھا۔ قیدی آرام آرام سے کھونچوں اور کھجوں سے ٹوکری میں ملبہ ڈالتے، ٹوکری سر پر اٹھا کر دوسری طرف گھاٹی کے کنارے تک جاتے اور دوسرے طرف ملبہ پھینک دیتے۔ میں بھی ایسا ہی کرتا تھا۔ ہر دوسرے تیسری قیدی کو چھوڑ کر جاپانی سپاہی نگرانی کھڑے تھے۔ ذرا سستی دکھاتا اسے ٹھڈے مارنے شروع کر دیتے تھے۔ دوپہر کے وقت ہمیں درختوں کے نیچے ایک طرف بٹھا کر کھانے کو نمکین چاول اور پانی وغیرہ دے دیا جاتا اس کے بعد پھر ہماری مشقت شروع ہو جاتی۔ روز و شب کا سلسلہ بڑا اذیت ناک تھا۔ میں سے کئی قیدی بیمار تھے جو قیدی زیادہ بیمار ہو جاتے انہیں جاپانی سب کے سامنے ایک طرف دو زانو بٹھا کر تلواریں کے ایک ہی وار سے ان کی گردن اڑا دیتے۔ اس عبرت ناک انجام کو دیکھ کر بیمار قیدی بھی مستعدی سے کام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ مشقت کم کرتے زمین پر گرتے اور مر جاتے۔ اس طرح اپنے آپ مرنے کو وہ گردن کٹوا کر مر

جانے تھے کہ گرتے ہی سو جاتے تھے۔ مگر مجھے نیند نہیں آرہی تھی۔ میرا ذہن بار بار ساتیں کی طرف چلا جاتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کل اسی وقت آنے کا اشارہ کیوں کیا تھا؟ اشارہ بڑا واضح تھا۔ میں بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ آخر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دوسرے دن مجھے یہ فکر لگ گئی کہ کہیں جاپانی میری ڈیوٹی کسی دوسری جگہ پر نہ لگا دیں لیکن ایسا نہ ہوا۔ میری ڈیوٹی اسی گھاٹی میں لگائی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں ابھی کافی روڑی ڈھونڈنے والی پڑی ہوئی تھی۔ میں دل میں خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جس وقت میری لڑکی آئے اس وقت جاپانی سپاہی کا منہ دوسری طرف ہو۔ میں اپنے کام میں لگ گیا۔ میں روڑی اٹھا اٹھا کر اوپر سڑک پر ڈالتا رہا۔ اس دوران جاپانی سپاہی ہمارے سر پر مگر سڑک کے اوپر ہی کھڑا ہماری نگرانی کرتا رہا۔ ہمیں صبح کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ ڈیڑھ دو گھنٹے گزر گئے۔ بری لڑکی ساتیں ابھی نہیں آئی تھی۔ ایک بار میں خالی نوکری اور پیپلے اٹھائے گھاٹی میں ترا تو اچانک میں نے ساتیں کو دیکھا۔ وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپنی ہوئی تھی اور مجھے اشارے سے بلا رہی تھی۔ وہ اکیلی آئی تھی، میں نے اوپر دیکھا۔ جاپانی سپاہی کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں نوکری میں روڑی ڈالنے لگا۔ ساتیں کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ بڑی بے ہمتی سے جیسے میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بھی اوپر جاپانی سپاہی کو دیکھ لیتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جاپانی سپاہی سڑک سے ہٹ گیا۔ اب وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی جاپانی سڑک پر سے نائب ہوا ساتیں دوڑ کر میرے پاس آگئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر ایک طرف کو دوڑ پڑی۔

ساتیں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اپنے ساتھ مجھے بھی دوڑا رہی تھی۔ میں فرار ہونے کی حماقت کر بیٹھا تھا۔ اب واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس انتظار میں تھا کہ کب جاپانی سپاہی کی شین گمن کے فائر کی بو چھاڑے جسوں کو چھلنی کرتی ہے کیونکہ جاپانی سپاہی ایک منٹ کے لئے بھی ہمیں اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ میرا دل فرار ہو جانا بھی چاہتا تھا۔ یہ بھی خیال تھا کہ یہ معصوم سی دیہاتی لڑکی مجھے کہاں چھپا سکے گی؟ میرے فرار کا علم ہوتے ہی جاپانی ساتیں کے گاؤں پہنچ جائیں گے اور

کے سول بیگو ڈا کی سڑھیوں پر بیٹھ کر پھول بیچنے والی لڑکی ساتیں ہی تھی۔ میری نظر بالکل دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ وہ لڑکی ساتیں بھی مجھے غلطی باندھ کر دیکھے جا رہی تھی۔ نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے نوکری میں روڑی ڈالتے ہوئے اوپر سڑک کے کنارے نگاہ ڈالی۔ جاپانی سپاہی وہاں موجود تھا مگر اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ میں نے ساتھ ہاتھ اٹھا کر سلام کیا۔ ساتیں ذرا سا مسکرائی۔ اس نے بھی تھوڑا سا ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ جواب دیا۔

میں قدرت کی اس ستم ظریفی پر حیران تھا کہ اس نے ہم دونوں کو ملایا۔ ایسے حالات میں کہ ہم ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ساتیں نے ایک اور اشارہ جو تین بار کیا۔ میں اس کے اشارے کو سمجھ گیا۔ وہ مجھے دور سے اشارہ کر سمجھا رہی تھی کہ میں کل اسی وقت پھر آؤں گی۔ اس کے فوراً بعد وہ دوسری عورت کے رہاں سے چلی گئی۔ جانے سے پہلے اس نے جھاڑی پر پھیلانے ہوئے دو تین گیلے کپڑے اٹھائے تھے۔ میں سمجھ نہ سکا کہ اس نے خاص طور پر کل اس وقت آنے کا اشارہ کیا ہے۔ وہ مجھ سے کوئی بات تو کر نہیں سکتی تھی۔ نہ ہی میں اس سے کوئی بات کر سکتا تھا۔ سڑک کے کنارے جاپانی سپاہی موجود تھا۔ اتفاق سے اس کا منہ دوسری طرف تھا۔ میں چھپنی سے دوسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ کبھی دل میں خیال آتا کہ ساتیں کوئی ایسی عورت کر بیٹھے کہ جس کی جہ سے میرے ساتھ وہ بھی کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اتنا میں سمجھتا تھا کہ اس نے کل اسی وقت آنے کا اشارہ یونہی نہیں کیا۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ جاپانیوں کی قید میں ہوں اور وہ مجھ سے مشقت لے رہے ہیں۔ عین ممکن تھا کہ ساتیں اپنے ذہن میں کوئی پروگرام بنا لیا ہو۔ میں ایک عجیب کش کش میں مبتلا ہو گیا تھا۔

دن گزر گیا۔ رات کو میں تھک ٹوٹ کر گھاس کے بستر پر لیٹا تو آٹھ بجے حوالدار خداداد خان میرے قریب نہیں تھا اور نہ میں اس سے ضرور کوئی مشورہ کرتا کیونکہ کو میری طرف اشارہ کرتے اس نے بھی دیکھا تھا۔ حوالدار خداداد مجھ سے کافی دورے قدموں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ سب قیدی دن بھر کی جھانسی کے بعد اس قدر

کے مقامات تو بدلتے رہتے ہیں لیکن میری محبت کے مقامات کبھی نہیں بدلے۔ وہ جیسے میرے بچپن، میری جوانی میں تھے ویسے ہی میرے بڑھاپے میں رہیں گے۔

ساتھ مجھے ٹیلے کے پیچھے لے گئی۔ وہاں ایک جگہ لکڑیوں کا بہت بڑا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے ایک جگہ سے لکڑیاں پیچھے ہٹائیں تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا جس پر ناریل کی چھال پڑی ہوئی تھی۔ ساتھی نے ناریل کی چھال ایک طرف کی اور تختہ اوپر اٹھا دیا۔ تختہ کے نیچے زینہ اترتا تھا۔ ساتھی نے پیچھے اتر گئی۔ اس نے شکستہ ہندوستانی زبان میں مجھے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے بڑی مشکل سے سمجھ میں آنے والی اردو میں ایک جملہ سنا تھا۔ میں بھی نیچے اتر گیا۔ آگے ایک سرنگ لگتی تھی۔ اس کی چھت اونچی تھی اور چوڑی تھی۔ وہاں اندھیرا تھا۔ ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ دس بارہ قدم چلنے کے بعد دھندلی سی روشنی نظر آنے لگی۔ یہ روشنی سرنگ کی دیوار میں بنے ہوئے ایک دروازے سے آرہی تھی۔ یہ ایک دالان نما کشادہ کوشٹری تھی جہاں زمین پر ناریل کی چھال بکھی ہوئی تھی۔ دھندلی سی روشنی اوپر دیوار میں بنے ہوئے ایک گول روشن دان میں سے آرہی تھی جس کی شانیں کوشٹری میں آرہی تھیں۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کے گول ڈرم پڑے تھے۔ ساتھی نے مجھے بتایا کہ ان ڈرموں میں چاول اور ناریل کے کھوپے رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے مجھے ناریل کی چھال پر بیٹھا دیا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس لکڑی نے بڑی دلیری اور جرأت کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے کچھ اشاروں اور کچھ اپنی ٹوٹی پھوٹی ہندوستانی زبان میں سمجھایا کہ اس جگہ میں اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھوں۔ وہاں جاپانی نہیں آسکتے۔ میں ساتھی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن ایسے ٹوٹ پھوٹے شکستہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جو اس کی سمجھ میں آتے۔ پھر میں نے اس کا شکر یہ ادا کیا۔ وہ شکر یہی کے الفاظ نہ سمجھ سکی۔ اس نے اٹھتے ہوئے جو کچھ کہا اس کا مفہوم میں یہی سمجھا کہ میں وہاں بے فکر ہو کر بیٹھوں۔ وہ تھوڑی دیر میں واپس آرہی ہے۔ وہ چلی گئی۔

ساتھی کے جانے کے بعد مجھے طرح طرح کے خدشات نے گھیر لیا۔ اس وقت تک جاپانیوں کو میرے فرار کا یقینا علم ہو گیا ہوگا۔ وہ میری تلاش میں نکل چکے ہوں گے۔

نہ صرف مجھے پکڑ کر تلوار سے میری گردن اڑادیں گے بلکہ گاؤں کی عورتوں مردوں سے ہم عبرت ناک انتقام لیں گے۔ کسی وقت خیال آتا کہ ساتھی کا ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگ جاؤں کسی وقت خیال آتا کہ ہو سکتا ہے یہ بری لڑکی ساتھی واقعی مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دے۔ ہم نشیب میں پتھروں جھاڑیوں پر سے کودتے تیزی سے دوڑتے چلے جا رہے تھے خدا جانے اس کا گاؤں وہاں سے کتنی دور تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں لے جا رہی ہے یا کسی دوسری جگہ لے جا رہی ہے۔ اس معصوم سی بری لڑکی نے مجھے اپنے خیال میں موت کے منہ سے ضرور نکال لیا تھا لیکن موت اب ہم دونوں کو چھوڑ کر رہی تھی۔ میں ایک خطرے سے نکل کر اس سے زیادہ بھیا تک خطرے کی طرف رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے ہم ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پاس آ گئے۔ ہم دونوں کے ساتھ پھول گئے تھے۔ پھول بیچنے والی معصوم سی بری لڑکی ساتھی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے بات کا احساس ہے کہ اس نے میری خاطر کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ یہ کون سا جذبہ تھا جس نے ساتھی کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے موت کے منہ سے نکلنے لے جائے؟ کیا یہ محبت تھی؟ لیکن ہم نے کبھی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی کیا یہ انسانی ہمدردی تھی؟ انسانی ہمدردی ہی ہو سکتی تھی۔ میں محبت کے معاملے میں کبھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوا۔ نہ اس زمانے میں شکار ہوا تھا۔ نہ آج کبھی اس خوش فہمی کا شکار ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھے بہت محبت ملی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صرف میری محبت کا مرکز کبھی نہیں رہی۔ میری محبت کے ہزاروں مرکز ہیں۔ ہزاروں مقامات ہیں۔ یہ مقامات جنگلوں میں بھی ہیں۔ بارشوں میں بھی ہیں۔ چائے کی خیال ان خوشبوؤں میں بھی ہیں۔ چیت و ساکھ کے مہینوں میں بھی ہیں اور خزاں کی ہواؤں اور خستوں سے جدا ہوتے زرد پتوں میں بھی ہیں اور بارش میں بھکتی دوڑتی ریل گاڑی بھی ہیں اور حسن ابدال کے سرخ گلابوں اور پوٹھوہار کی دھریوں کے کاسنی پھولوں اور فوج کے شیر دلیر جوانوں کے جذبہ حب الوطنی میں بھی ہیں جن کے میدان جنگ

قریب کا گاؤں پئی ہے جہاں ساتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ رہی تھی۔ جاپانی اربے وقف نہیں ہیں۔ لکڑیوں کے ڈھیر پر اگر انہیں ذرا سا بھی شک پڑ گیا کہ اس کے کوئی تہہ خانہ نہ ہو تو پھر میرا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ کسی وقت خیال آتا کہ میں نے اس تہہ بھولی بھالی لڑکی کے پیچھے لگ کر اپنی زندگی انتہائی خطرے میں ڈال لی ہے۔ مجھے احمقانہ حماقت نہیں کرنی چاہئے تھی۔ کسی وقت خیال آتا کہ میں نے ٹھیک ہی کیا ہے۔ جاپانوں قید میں رہ کر سسک سسک کر مرنے سے بہتر ہے کہ میں وہاں سے بھاگ آیا ہوں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو یہاں سے نکل بھی سکتا ہوں۔ میں ٹیلے کی سرنگ کی کوٹھڑی؛ اکیلا بیٹھا سوچتا رہا کہ اگر جاپانی مجھے نہ پکڑ سکے تو مجھے کس طرف جانا چاہئے۔ میں علاقے سے واقف نہیں تھا۔ اس سلسلے میں یہ بری لڑکی ساتیں ہی میری رہ نمائی کر سکتی تھی مگر ابھی تک خطرہ میرے سر سے ٹلا نہیں تھا۔ موت میرے سر پر برابر منڈلا رہی تھی۔ رات دان میں سے دن کی جو روشنی آ رہی تھی وہ آہستہ آہستہ مدہم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا مطالعہ تھا کہ دن کافی گزر گیا ہے۔ مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور پیاس بھی لگ رہی تھی ساتیں مجھے وہاں چھپا کر چلی گئی تھی اور ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ میں بیٹھے بیٹھے تو گیا۔ اٹھ کر کوٹھڑی میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلنے ٹہلنے جی گھبرا ایا تو بیٹھ گیا۔ کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا گزر گیا ہے۔ روشن دان کی روشنی بھی دھیمی پڑ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر شاہ اندھیرا چھانے لگا تھا۔



کچھ ہی دیر بعد روشن دان میں سے آتی ہوئی مدہم روشنی بھی غائب ہو گئی اور کوٹھڑی میں اندھیرا چھا گیا۔ اس روشن دان کا دم غنیمت تھا۔ اس میں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ یہی تازہ ہوا مجھے جینے کا حوصلہ عطا کر رہی تھی۔

باہر رات کا سماں تھا۔ بڑی خاموشی تھی۔ کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ساتیں کا گاؤں وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا۔ خدا جانے جاپانی جب میری تلاش میں ساتیں کے گاؤں میں آئے ہوں گے تو انہوں نے گاؤں والوں کے ساتھ کس قدر وحشیانہ سلوک نہیں کیا ہو گیا لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے دل میں افسوس ضرور ہو رہا تھا۔ خدا جانے رات کتنی گزر چکی تھی کہ مجھے کوٹھڑی کے باہر سرنگ کے اندھیرے میں روشنی کی جھلکیاں بھی دکھائی دیں۔ میں جلدی سے دروازے کے پاس آ گیا۔ دروازے کے کیواڑ نہیں تھے۔ میں نے سر تھوڑا سا باہر نکال کر دیکھا۔ سرنگ کے دہانے کی طرف سے ساتیں روشن موم بتی ہاتھ میں پکڑے چلی آ رہی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ اس نے موم بتی ایک پتھر کے اوپر لگا دی۔ تھیلا کھول کر اس میں سے رومال میں بندھی ہوئی سلور کی چھوٹی پتیلی نکالی اس میں ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کا اچار تھا۔ مچھلی کا اچار برما میں گھروں میں بڑے شوق سے کھایا جاتا تھا۔ عورتیں اس کا اچار گھروں میں اس طرح ڈالتی ہیں جس طرح ہمارے ہاں خواتین گھروں میں آم کا اچار ڈالتی ہیں یا کبھی ڈالا کرتی تھیں۔ شیشے کی نسواری بوتل میں وہ میرے لئے پانی لائی تھی۔ میں نے اچار کے ساتھ چاول کھائے پانی پیا تو جان

سے پہلے کا ہلکا ہلکا نور سا جھلکنے لگا۔ صبح ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد کوٹھڑی میں دن کی دھبی دھبی سی روشنی ہو گئی۔ دھوپ کوٹھی میں نہیں آتی تھی۔ چھت والا روشندان کسی خفیہ جگہ پر بنایا گیا تھا۔ دن کی روشنی ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ساتیں آگئی۔ وہ میرے لئے تھیلے میں چاول اور کالی سیاہ کیتلی اور پانی کی بوتل لائی تھی۔ میں نے اس سے باہر کا حال پوچھا اور یہ بھی پوچھا کہ مجھے وہاں کتنے دن اور چھپے رہنا ہوگا۔ ساتیں نے مجھے سمجھایا میں یہی سمجھا کہ مجھے دو ایک دن اور اس کوٹھڑی میں گزارنے ہوں گے۔ یہ اپنی طبیعت پر بڑا جبر کرنے والی بات تھی مگر مجھے ہر حالت میں ساتیں کی ہدایت کے مطابق چلنا تھا۔

اس تنگ و تاریک جس آلود کال کوٹھڑی میں میں نے مزید دو دن کس طرح گزارے یہ میں ہی جانتا ہوں۔ بہر حال ایک دن ساتیں میرے لئے کھانے کو سبزی اور ابلے ہوئے چاول لائی تو اس نے مجھے سمجھایا کہ میں آج رات یہاں سے نکلنے کے لئے تیار رہوں۔ وہ اس رات مجھے وہاں سے نکالنے والی تھی۔ وہ چلی گئی۔ جب رات ہو گئی اور کوٹھڑی کے روشندان میں دن کی روشنی بجھ گئی تھی تو ساتیں آگئی۔ اس نے آتے ہی موم بتی روشن کر دی۔ وہ اپنے ساتھ ایک بڑا تھیلا لائی تھی۔ اس نے تھیلے میں سے ایک میل خورے رنگ کی لنگی، ایک پوری آستھیوں والی قمیص نکال کر دی اور کہا کہ میں اسے پہن لوں۔ میں نے پتلون اتار کر لنگی پہنی۔ اس نے خود میری قمیص کو جس طرح برما میں لوگوں کا پہناوا ہوتا ہے میری قمیص لنگی کے اندر کر دی۔ میرے سر پر زرد رنگ کا رومال باندھا۔ پاؤں میں پہننے کے لئے ریڑ کی ایک چمچل دی۔ خدا جانے یہ اس کے گھر کے کس فرد کے کپڑے تھے۔ چمچل میرے پاؤں میں کھلی تھی مگر میں نے پہن لی۔ اس نے مجھے کچھ اپنی اور کچھ شکستہ ہندوستانی قمیص نکال کر دیں اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤں۔ میرے کپڑے اور برتن وغیرہ اس نے وہیں کوٹھڑی میں ہی رہنے دیئے اور موم بتی ہاتھ میں لے کر میرے آگے آگے چلنے لگی۔

سڑگ سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے موم بتی بجھا کر وہیں پھینک دی۔ ہاتھ میرے کندھے پر رکھ کر مجھے پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ پہلے خود سڑگ میں سے باہر نکلی۔ اس کے بعد مجھے باہر آنے کو کہا۔ تین چار دنوں کے بعد تازہ ہوا میں سانس لیا تو ایسا لگا جیسے میں

میں جان آگئی۔ کئی دنوں کے بعد اس قسم کا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ ساتیں خاموش نکا ہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے کچھ کہا جو میں سمجھ نہ سکا۔ اس کو ٹوٹی پھوٹی اردو بھی بہت کم آتی تھی۔ تھوڑا سا بول کر باقی اشاروں سے وہ اپنا مطلب مجھے سمجھا دیتی تھی۔ اس نے مجھے تھوڑا تھوڑا بول کر اور زیادہ اشاروں سے بتایا کہ جاپانی اس کے گاؤں بھی آئے تھے۔ میں انہیں نہ مل سکا تو انہوں نے آدمیوں کو مارا پٹا۔ جوان لڑکیوں کو گاؤں والوں نے پہلے ہی محفوظ جگہوں پر چھپا دیا تھا۔ گاؤں میں صرف بوڑھی عورتیں ہی تھیں۔ جاپانیوں نے انہیں زد و کوب کیا اور گاؤں میں جتنا چاول اور کھانے پینے کی دوسری چیزیں اور برکریاں تھیں اٹھا کر لے گئے۔

میں نے ساتیں سے پوچھا۔

”ساتیں! میں ادھر کب تک بڑا رہوں گا؟“

وہ ہندوستانی ضرور سمجھ لیتی تھی مگر زیادہ بول نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگی۔

”ابھی تھوڑا دیر اور رہے گا۔ ابھی تھوڑا دیر اور رہنا سکتا ہوگا۔“

اس کا یہ جملہ مجھے آج بھی پورے کا پورا یاد ہے۔ میں چپ ہو گیا۔ ساتیں نے برتن اٹھا کر کپڑے میں لپیٹے۔ پھر انہیں باندھ کر تھیلے میں ڈالا اور اشاروں سے کچھ بول کر بتایا کہ وہ کل کسی وقت آئے گی لہذا اب میں آرام سے سو جاؤں۔ کچھ دیر میں اکیلا بیٹھا خاکا جانے کیا کیا کچھ سوچتا رہا۔ پھر میں سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں پسینے میں شرابور تھا۔ کوٹھڑی میں گرمی اور جس تھا۔ چمچر الگ تنگ کر رہے تھے۔ اس گرمی جس اور چمچروں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ میں ایک حساب سے میدان جنگ میں تھا اور وہاں اگر آدمی ان چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے یا ان چیزوں کا خیال کرنے لگے تو لڑ نہیں سکتا۔ روشندان میں سے ستاروں کی بہت ہی دھبی دھبی روشنی کا نیلا نیلا غبار سا اندر آ رہا تھا۔

خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔

بیٹھے بیٹھے اونگھنے لگا۔ چمچر کا ٹٹے تو ایک دم سے آنکھ کھل جاتی۔ اسی طرح رات گزرتی چلی گئی۔ کسی وقت نظریں اٹھا کر روشندان کی طرف دیکھ لیتا۔ پھر روشندان میں

ساتھ مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ کروڑوں اربوں نظام ہائے شمسی کے روشن اور تاریک خلاؤں میں، کروڑوں، اربوں سالوں سے گردش کرتے ہوئے دور روشن ذرے تھوڑی دیر کے لئے ایک دوسرے کے سامنے آگئے تھے۔ تھوڑی دیر ایک دوسرے کے ساتھ رہے تھے اور ایک بار پھر کروڑوں، اربوں سالوں کے لئے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے تھے۔ یہ جدائی کی اداس گھڑی تھی۔ ایک دوسرے کو جتنی دیر تک جتنی دور تک دیکھ سکتے ہو دیکھ لو۔ اس کے بعد نہ جانے کون سے خلاؤں میں کس نظام شمسی کے کون سے کرہ ارض کی ارضی جنت میں ملاقات ہو۔ پھر نہ جانے ہم ایک دوسرے کو پہچان بھی سکیں یا نہ پہچان سکیں۔ کوئی اور چہرہ ہو کوئی اور زبان ہو۔ کوئی اور خیال ہو۔

میں	دی	جھوک	راہنخن	دی	جانا
نال	میرے	کوئی	چلے		
پیراں	پوندی	مٹاں	کر	دی	
جانا	پیا	ہن	کلے		
کبے	حصین	فقیر	نمانا		
سائیں	سنہڑے		سکلے		

کشتی دریا میں بہتی چلی جا رہی تھی۔ ساتوں کا چہرہ ستاروں کی دھند اور تاریکی میں تحلیل ہوتے ہوتے غائب ہو گیا تھا۔ نہ میں اسے نظر آ رہا تھا نہ وہ مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ دریا کی سطح شیشے کی طرح ساکن تھی۔ اس شیشے میں ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ ایک آسمان دریا کے اوپر تھا۔ ایک آسمان دریا کے اندر تھا۔ نہ کوئی دریا تھا نہ کوئی آسمان تھا۔ نہ کوئی کشتی تھی نہ میں تھا۔ محبت، محبت، صرف محبت کا ایک خیال تھا جو ان گنت مسرتوں، لاکھوں اداسیوں، جدائیوں، وصالوں کی ایک نورانی لہر کی طرح کرہ ارض کے گرد جاری و ساری تھی۔ میں آنکھیں بند کئے سر جھکائے کشتی میں نہ جانے کب سے بیٹھا تھا کہ کشتی کو ایک دھچکا سا لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ کشتی دریا کے دوسرے کنارے پر جا گئی تھی۔ میں ساتوں کا دیا ہوا تھیلا اٹھا کر کشتی سے اتر کر کنارے پر آ گیا۔ میرے سامنے کنارے کے

پھر سے زندہ ہو گیا ہوں۔ باہر رات کی ہلکی ہلکی تنک ہوا چل رہی تھی۔ ساتوں میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف آگے کو دوڑ پڑی۔ بری لوگوں کی طرح بندھی ہوئی لنگی میں مجھ سے دوڑا نہیں جا رہا تھا۔ میں گر پڑا۔ ساتوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہ آیا۔ میں نے لنگی گھٹنوں سے اوپر اٹھالی اور چپل جو کھلی تھی پاؤں سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ اب میں خوب تیز دوڑ سکتا تھا۔

ہم دوڑتے ہوئے کافی دور نکل آئے تھے۔ اونچی نیچی زمین تھی۔ ہم ایک تنگ، بے گھاٹی میں اتر گئے۔ یہاں ہم دوڑ نہیں رہے تھے۔ میرے پاؤں میں نوکیلی ٹھنسی گھاڑ چھ رہی تھی۔ میں نے کھلی چپل ہی پہن لی۔ ربڑ کی چپل کے اندر میرے پاؤں دو تین بار پھسلے پھر مجھے اس کے ساتھ چلنا آ گیا اور میں پاؤں دبا دبا کر رکھنے اور اٹھانے لگا۔ ساتوں مجھ سے دو ایک قدم آگے آگے چل رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ رک کر مجھے دیکھتی اور ہاتھ سے جلدی چلنے کا اشارہ کر کے پھر تیز تیز چلنے لگتی۔ ہم کئی گھاٹیوں، برساتی نالوں اور کھڈوں میں سے گزرنے کے بعد ایک جگہ باہر نکلے تو سامنے ستاروں کی دھندلی روشنی میں دریا دکھائی دیا۔ ایک چھوٹی سی سپان یعنی کشتی دریا کنارے کھڑی تھی۔ اس میں ایک آدو بیٹھا تھا۔ اس کے قریب جا کر ساتوں نے بری زبان میں اسے کچھ کہا۔ اس آدمی نے بری زبان میں ہی کوئی جواب دیا۔ اندھیرے میں سے ایک اور عورت نکل کر ساتوں کے پاس گئی۔ دونوں بری زبان میں آپس میں کچھ دیر باتیں کرتی رہیں۔ اس عورت کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ ساتوں نے وہ تھیلا مجھے دے کر کچھ کہا۔ میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس تھیلے میں میرے لئے کچھ چیزیں ہیں۔ اس نے کشتی کی طرف اشارہ کر کے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں کشتی میں بیٹھ گیا۔ تھیلا میں نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ بوڑھا بری ملاح کشتی کی رسی کھولنے لگا۔ میں نے ستاروں کی روشنی میں دیکھا کہ ساتوں تنگکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب نہ وہ مجھے کبھی دیکھ سکے گی نہ میں اسے کبھی دیکھ سکوں گا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ بری ملاح نے کشتی کھولی اور اس میں بیٹھ کر چھو چلائے ہوئے کشتی کو کنارے سے دور لے جانے لگا۔ کشتی پھول پھولنے والی معصوم بری لڑکی ساتوں سے دور ہو رہی تھی۔

اپنی طرف سے وہ مجھے بتا گیا تھا کہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے اور میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آگے مجھے کس طرف جانا ہے۔ اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے جاپانیوں کا خطرہ نہیں تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بوڑھا بری مجھے چھوڑ کر نہ جاتا، لیکن معاملہ اس کے الٹ بھی ہو سکتا تھا۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سامنے نشیب میں دوڑ تک پھیلے میدان کو تکتا رہا۔ پھر اٹھا اور اللہ کا نام لے کر چلنا شروع کر دیا۔

میرا کام اس وقت صرف چلنا تھا۔

چلتے چلتے کہاں کہاں سے گزرا؟ کیسے کیسے گھاس کے میدان آئے۔ پھر پہلے میدان آئے جہاں نوکیلی چٹانیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ کئی کئی سو گز لمبی پتھروں کی لمبی آئیں جو ترچھی ہو کر زمین پر لپٹی ہوئی تھیں اور جن کی تاریک تہوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ جنگل آئے جن کے درختوں کی چھتریاں آسمان تک چلی گئی تھیں۔ کہیں کوئی بوہڑیوں والا چھوٹا سا گاؤں آ جاتا۔ نیم عریاں جنگلی مرد اور عورتیں اور ان کے بچے باہر ل کر مجھے حیرت سے دیکھتے۔ ان سے مجھے تھوڑا بہت کھانے کو مل جاتا۔ میرا لباس گندا ہو رہا تھا۔ لہجہ جگہ سے پھٹ گیا تھا۔ مجھ میں اور جنگلی آدمیوں میں تھوڑا سا فرق ہی رہ گیا تھا۔ جس پر دھوپ کی گرمی سے میرا رنگ گہرا سا نولا ہو گیا تھا۔ پاؤں چلتے چلتے سوچ گئے تھے۔ راتے کا ایک پاؤں پھٹ گیا تھا۔ میں نے کرتے کی لیر پھاڑ کر اس کو پاؤں کے ساتھ لٹھ دیا تھا۔ نیکی میری خوش قسمتی کم نہیں تھی کہ میں زندہ بچ گیا تھا۔ کسی سانپ نے مجھے سانپ نہیں تھا۔ راستے میں کسی قاتل ڈاکو سے آمناسا منا نہیں ہوا تھا۔ قسمت میں ابھی زندہ رہا تھا اس لئے زندہ تھا۔ آخر رنگوں سے نکلنے ہوئے مہاجروں کا ایک چھوٹا سا قافلہ مل گیا۔ قافلے میں بوڑھے، عورتیں اور بچے تیل گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے۔ مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں تھی۔ ایک مسلمان سورتی عیمن نے مجھے گاڑی پر بٹھا دیا۔ دو راتوں اور دو دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ بنگال کے سرحدی شہر کاسر بازار پہنچ گیا۔ یہاں سے تمام مہاجرین ڈرگول اور لاریوں میں بٹھا کر چٹاگانگ پہنچایا گیا۔ چٹاگانگ میں تین چار انگریز افسر اہلکارین کی خود نگہداشت کر رہے تھے۔ یہاں بہت بڑا کیمپ لگا دیا گیا تھا۔ یہاں مہاجرین

ساتھ اونچے اونچے درختوں کی قطار رات کے اندھیرے میں سیاہ دیوار کی طرح کھڑی تھی بوڑھے ملاح نے کشتی کو کنارے پر کھینچ کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ میرا خیال کہ وہ وہیں سے واپس چلا جائے گا لیکن معلوم ہوا کہ ساتیں نے اسے بطور گائیڈ میرے ساتھ کر دیا تھا تاکہ وہ مجھے خطرناک علاقے سے نکال دے۔ مصیبت یہ تھی کہ بوڑھا ہارے سوائے بری زبان کے اور کوئی زبان نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤں۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ اس سارے علاقے کا بھیدی تھا رات کا وقت تھا۔ یہ جنگل اتنا دشوار گزار اور گھنا نہیں تھا۔ بوڑھا بری بڑی روانی سے چلا رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ ہم نے ایک کھلا میدان عبور کیا چار قدم آدم گھاس اگی ہوئی تھی۔

ایک برساتی نالے کو پار کیا۔ چھوٹے چھوٹے جنگلاتی ٹیلوں کے درمیان ہم دھوائی گھٹنے چلتے رہے۔ بوڑھا بڑا سخت جان ثابت ہوا۔ آخر وہ تھک کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ بوڑھے نے میرے تھیلے کی طرف اشارہ کر کے بری زبان میں کچھ کہا۔ میں نے تھیلیا کھولا تو اس کے اندر ایک بوتل بھی تھی۔ میں نے بوتل کا کارک کھول کر اسے سونگھا۔ بری بوڑھا بار بار کچھ بولنے لگا۔ شاید وہ اپنی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اس میں پانی ہے۔ میں نے ایک گھونٹ پیا۔ وہ پانی ہی تھا۔ دو چار گھونٹ بوڑھے نے بھی پیے۔ میں نے بوتل بند کر کے تھیلے میں رکھ دی۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارا سفر ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ہم ایک ٹیلے کے پاس آ گئے۔ میرا بوڑھا گائیڈ ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگا۔ میں بھی اس کے پیچھے تھا۔ ٹیلے کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد بوڑھے بری گائیڈ نے ٹیلے کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ٹیلے کی دوسری طرف رات کے اندھیرے میں ایک میدان سا دکھائی دیا جس میں کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی تھے۔ بوڑھا گائیڈ اپنی زبان میں کچھ کہہ بھی رہا تھا اور میدان کی طرف اشارے بھی کر رہا تھا۔ تین چار بار اشارے کرنے اور میری سمجھ میں نہ آنے والی زبان میں کچھ کہنے کے بعد وہ بڑے آرام سے مجھے چھوڑ کر ٹیلے کی ڈھلان پر نچے اترنے لگا۔ میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔

دونوں بھائیوں نے انارکلی میں ایک دکان الاٹ کروا کر تریبو ہاؤس اس کا نام رکھا تھا اور کشمیری شالوں کا بزنس شروع کر دیا تھا۔ اس وقت دونوں بھائی ہمارے محلے میں کاروبار کرتے تھے۔ قمر دین ہمارے والد صاحب کا بڑا دوست تھا۔ میں نے اس سے فراڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ جس روز مجھے امرتسر سے بمبئی بھاگ کر جانا تھا اس روز دن کے آٹھ بجے کے قریب میں قمر دین کے گھر گیا۔ اس وقت قمر دین مسواک کر رہا تھا۔ میں نے سلام کیا اور کہا۔

”اباجی کے پاس کچھ کاروباری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں کچھ رقم دے رہے تھے کہ سو روپیہ کم پڑ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ باؤ قمر دین صاحب سے جا کر سو روپیہ لے آؤ۔“

قمر دین بڑا سادہ دل انسان تھا۔ اس نے بھی کچھ سوچے سمجھے بغیر الماری میں سے سو روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دے دیا۔ میں نوٹ جیب میں ڈال کر قمر دین کے مکان سے باہر نکلا تو قمر دین کے دل میں خیال آ گیا کہ یہ لڑکا حمید کہیں اپنی طرف سے سو روپیہ لے کر تو نہیں جا رہا۔ چنانچہ وہ کچھ فاصلہ رکھ کر مسواک کرتا میرے پیچھے چل پڑا۔ میں نے بھی اسے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا پیچھا کر رہا ہے کہ دیکھتا ہوں سو روپیہ اپنے والد صاحب کو جا کر دیتا ہے یا نہیں۔ میں نے سو روپے کا نوٹ لے کر اپنے والد صاحب کے پاس تو جانا نہیں تھا۔ قمر دین کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ نسیم بانو کے عشق نے جہاں میری عقل پر پردہ ڈال دیا ہوا تھا۔ وہاں میرے اندر ایک طاقت بھی بھردی تھی۔

جس بازار سے میں آہستہ آہستہ اپنی طرف سے بڑی بے فکری کے ساتھ گزر رہا تھا وہ ہماری گلی کے عقب میں واقع تھا اور اسے چیل منڈی کہتے تھے کیونکہ یہاں چیز ہ کے درختوں کے شہتر فروخت ہوتے تھے اور پنجابی میں چیز ہ کو چیل کہتے ہیں۔



کے لئے کھانے پینے کو بہت کچھ تھا۔ چناگانگ سے ریل گاڑیوں کے ذریعے مہاجرین کلکتے کے سٹیشن ہوڑہ پہنچایا جا رہا تھا جہاں سے ریل گاڑیاں مہاجرین کو لے کر ہندوستان کے مختلف شہروں کو جاتی تھیں اور مہاجرین کو ان کی منزل تک پہنچاتی تھیں۔ نارتھ ویسٹ ریلوے نے کرایہ معاف کر دیا ہوا تھا۔ مہاجرین جس شہر تک چاہیں بغیر ٹکٹ سفر کر سکتے تھے۔

میں بھی ایک ٹرین میں بیٹھ کر اپنے شہر امرتسر پہنچ گیا۔ بھائی جان کیپٹن ملک ہمشیرہ صاحبہ کب امرتسر پہنچیں اور کس حال میں پہنچیں اور راستے میں انہیں کیسی کیسی تکلیف برداشت کرنی پڑیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ امرتسر کی آب و ہوا نے مجھے پھر سے زندہ دیا۔ صحت مند کر دیا۔ اس قابل کر دیا کہ میں ایک بار پھر گھر سے بھاگ کر اپنی آگر دیاں شروع کر سکتا تھا۔ اس بار مجھ پر مس نسیم بانو کے عشق کا بھوت سوار ہو گیا۔ مس بانو اس زمانے کی مشہور فلم ایکٹریس تھی اور فلم ”میں ہاری“ کی ہیروئن تھی۔ اسے ار میں دیکھا اور میں اپنا دل ہار بیٹھا۔ بچپن کے عشق شتر بے مہار کی طرح ہوتے ہیں۔ اونٹ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس طرف منہ اٹھا کر چل پڑے گا۔ کہاں بیٹھ جائے اور بیٹھا اٹھ کر کس طرف کو چل پڑے گا۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ پہلی نظر میں عشق ہو گیا۔ نہ نے یہ سوچا کہ عشق کیا ہے جو مجھ پر سوار ہو گیا ہے اور نہ عشق نے سوچا کہ میں بھوت کس کے سر پر سوار ہو رہا ہوں۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ بمبئی جا کر مس نسیم کے دربارِ محبت کی عرضداشت پیش کی جائے۔ نہ یہ سوچا کہ اتنے بڑے اجنبی شہر میں جا کر ٹھہروں گا؟ نہ یہ سوچا کہ بمبئی جانے کا کرایہ اور وہاں ٹھہرنے کا خرچ کہاں سے آئے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ سوچا گھر سے کچھ پیسے چوری کئے جائیں۔ چوری کر موقع نہ مل سکا۔ شیطان نے دل و دماغ پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اچانک خیال آیا کہ کیوں صاحب کے کسی دوست سے والد صاحب کا نام لے کر کچھ روپے حاصل کئے جائیں۔ یہ خیال بڑا اچھا لگا۔ ہمارے محلے میں دو بھائی کشمیری شالوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ان کے نام نسیم دین اور قمر دین تھے۔ ذات ان کی تریبو تھی۔ قیام پاکستان

کرتے تھے۔ سرخ و سپید بڑے باوقار چہرے والی خاتون تھیں۔ ان کے ساتھ ایک المیہ ہو گیا۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اختر تھا۔ اختر بڑا خوبصورت گورا چٹا کشمیری لڑکا تھا۔ اس کی عمر بھی کوئی آٹھ دس سال کی ہوگی کہ جی ٹی روڈ پر ایک لاری کے نیچے آ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر ایک سرخ لاٹ ہوا کرتی تھی جس کو بعض لوگ منحوس اور بعض بڑی بڑی نفیسی کی علامت کہا کرتے تھے۔ اختر کی موت کے صدے سے آپو جی ڈہنی تو ازن کھو گئے۔ میں نے اس جلالی چہرے والی باوقار کشمیری خاتون کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سفید برقعہ پہنے، برقعے کا نقاب اٹے، محلے کی گلیوں بازاروں میں پھرا کرتی تھیں اور ہر بے سے پوچھتی تھیں کہ۔

”وے تو میرا اختر تو تم نے نہیں دیکھا؟“

حاجی حسن صاحب گرمیوں میں اپنی لاری محلے میں لا کر کھڑی کر دیتے اور محلے کے لوگ اس میں سوار ہو جاتے۔ کوئی روغنی روٹیاں لگوا کر اور کوئی آلو گوشت کی دیگ پکوا کر رکھ کر کوئی لکڑے آموں کی ٹوکریاں موٹر میں رکھوا لیتا اور حاجی حسن خود لاری چلاتے۔ بڑی رخصتے ہم بجلی والی نہر کہا کرتے تھے پر لے جاتے اور وہاں سارا دن باغ کی سیر ہوتی۔

بڑے لوگ بڑی نہر میں نہاتے۔ ہم چھوٹی نہر یعنی سوئے میں ہل پر سے لائیں لگاتے تھے۔ میں بھی اپنے پہلوان والد صاحب کے ساتھ نہر پر باغ کی سیر کرنے تاکھا۔ ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے لاری میں بیٹھے تھے۔ والد صاحب سائیکل پر بیٹھے پیچھے آ رہے تھے۔ وہ اتنی زور سے سائیکل چلاتے کہ آگے بڑھ کر چلتی لاری سے پیچھے دروازے سے لگتی ہوئی رسی کو پکڑ لیتے اور پھر سرس کے کرتب دکھانے والوں کی طرح ایک ہاتھ چھوڑ دیتے اور سائیکل اپنے آپ لاری کی رفتار کے ساتھ پیچھے پیچھے آتی۔

والد صاحب کا بدن بڑا خوبصورت اور ہاڈی بلڈروں کی طرح تھا۔ بڑی نہر کے اترے آم کے درختوں کے نیچے دریاں بچھ جاتیں۔ آموں کی ٹوکریاں رسیوں سے بھرا کر نہر کے ٹھنڈے پانی میں لٹکا دی جاتیں۔ والد صاحب بڑی نہر کے جی ٹی روڈ

آگے جا کر بازار کی شاخیں ہو جاتی تھیں۔ ایک شاخ دائیں جانب ہمارے والد صاحب کے پاس جاتی تھی اور دوسری شاخ پیلیے ہسپتال کی طرف جاتی تھی۔ بازار دور ہے پر آ کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ قمر دین برابر میرا تعاقب کر رہا تھا۔ بس پتہ مجھے کیا ہوا کہ میں نے وہیں سے چھوٹ لگائی اور جتنی تیز دوڑ سکتا تھا دوڑتا ہوا پیلیے ہسپتال کے آگے سے ہوتا ہوا مہمان سنگھ کے دروازے سے باہر آ کر شریف پورے والی سڑک دوڑنے لگا۔ مجھے یاد ہے میری قمیص کی جیب میں بڑی خوبصورت پنسل تھی جو اچھل کر گر پڑی مگر میں اسے اٹھانے کے لئے بالکل نہ رکا۔

میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ قمر دین بھی میرے پیچھے دوڑ پڑا ہے یا نہیں۔ دوڑتے میں جی ٹی روڈ پر آ گیا اور شریف پورے کے سامنے سے ہوتا ہوا مسلم ہائی سکول سے بھی آگے نکل کر منڈہ بس سروس کے اڈے پر آ گیا۔ رک کر پیچھے دیکھا۔ قمر دین پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ منڈہ بس سروس کے اڈے سے لاہور کو لاریاں چلا کرتی تھیں۔

لاہور میں کراؤن بس سروس اور امرتسر میں منڈہ بس سروس اس زمانے کی مشہور بس سروس تھیں۔ امرتسر میں اس کے مقابلے میں امرتسر پنھان کوٹ بس سروس تھا۔ مسلمانوں کی بس سروس تھی۔ ان کی لاریاں امرتسر سے پنھان کوٹ، ڈلہوڑی اور سرسنگھ طرف چلا کرتی تھیں۔ اس بس سروس کو ایک سوسائٹی چلاتی تھی جس میں ہمارے محلے حاجی حسن کی دو لاریاں تھیں۔

حاجی صاحب کا مکان چیل منڈی میں تھا۔ حاجی صاحب کی بیوی کو ہم آپو

بیمیر میل میں سوار ہو کر سیدھا بمبئی کی طرف بھاگ جاتا لیکن قمر دین صاحب نے میرا چا کر کے مجھے بے راہ کر دیا۔ نندہ بس کے اڈے پر لاہور جانے والی لاری بالکل تیار تھی۔ ری مسافروں سے بھر چکی تھی اور آہستہ آہستہ کھسک رہی تھی اور ایک آدمی بس کے پیچھے لگا آواز لگا رہا تھا۔

”چلو کوئی سواری لاہور۔“

اس زمانے میں لاریوں کی سیٹیں آنے سے پہلے تھیں اور دروازے ریوں کے پیچھے ہوا کرتے تھے میں دوڑ کر لاری کے دروازے کو پکڑنے لگا تو آوازیں آنے والے آدمی نے کہا۔

”اوائے منڈیا! آگے چلا جا آگے۔“

لاری کا ایک چھوٹا سا دروازے آگے بھی تھا۔ اس طرف ایک لڑکے کے بیٹھنے کی خواہش تھی۔ میں جلدی سے لاری میں داخل ہو گیا۔ آوازیں لگانے والے آدمی نے زور سے لاری کی دیوار پر ہاتھ مار کر کہا۔

”چلو استاد جی۔“

اور لاری جی ٹی روڈ پر آ کر ریل کے بڑے پل پر چڑھنے لگی۔ کلیئر لاری کے درکھڑا ان مسافروں کے کلٹ کاٹ رہا تھا جو جلدی میں سوار کروائے گئے تھے اور جنہوں نے کلٹ نہیں خریدا تھا۔ کلیئر نے میرے قریب آ کر پوچھا۔

”کہاں جاؤ گے؟“

میں نے کہا۔

”لاہور۔“

پتہ نہیں اس نے چھ آنے کہا کہ آٹھ آنے۔ نکالو کہا۔ میں نے جیب سے سو روپے کا نوٹ نکال کر اس کے سامنے کر دیا تو وہ بولا۔

”لاہور چل کے پیسے دے دینا۔“

اس زمانے میں سو روپے کا نوٹ بہت بڑا نوٹ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مالیت

والے پل سے نہر میں چھلائیں لگاتے اور پھر بہاؤ کے مخالف تیرے ہوئے دور ری پل تک نکل جاتے اور اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے تیرتے ہوئے واپس آتے۔ بار میں نے بڑی نہر کے کنارے ایک سکھ کی لاش دیکھی۔ اس کی آدمی گردن کٹی ہوئی لاش کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ پولیس نے لاش کو نہر سے نکال کر آم کے ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر رکھا ہوا تھا اور ایک سپاہی لاش کی تصویریں اتار رہا تھا۔

میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ چھوٹی نہر کے چھوٹے پل اور پل کے مینا اوپر سے چھلائیں لگاتا تھا اور نہر میں تیرتا ہوا آگے چلا جاتا۔ جہاں نہر کی دونوں تاشا پاتوں کے چمکیلے پتوں والے درخت ہی درخت ہوتے تھے۔ میرے خدا کیا ہوا تھے۔ کیا رنگ تھا ان کا۔ دھوپ میں جب ہوا چلتی تو پتے جھل جھل مل کرتے تھے درختوں کی شاخوں پر چھوٹی اور بڑی لمبوتری سبز بزمنا شاپتیاں لگی ہوتی تھیں۔

ناشاپاتی کے یہ باغ نہر کے ساتھ ساتھ بہت دور تک چلے گئے تھے۔ لوگ ہیں کہ یہ نہر اور اس کے درخت آگے کہنی باغ کی طرف نکل جاتے ہیں مگر میں یہ سمجھا تھا کہ یہ نہر اور اس کے درخت بہشت بریں کے کسی باغ کی طرف جاتے ہیں جس با سوائے ان درختوں اور اس نہر کے اور کسی نے آج تک نہیں دیکھا۔

خدا جانے کیا یاد آ گیا کہ میں نندہ بس کے لاریوں کے اڈے سے امرتسر کی نہر اور ناشاپاتیوں اور آموں کے باغ کی طرف نکل آیا۔ جہاں برسات کی بھیگی ہوئی بار میں کوئلیں بولا کرتی تھیں اور اس زمانے کی راتیں اتنی خاموش ہوتی تھیں کہ ان کو کو آواز ہمارے مکان کی چھت تک سنائی دیا کرتی تھیں۔ خواب کی دنیا سے نکل کر وہ اور باغ امرتسر کی سرزمین پر آئے تھے اور مسلمانوں کے وہاں سے ہجرت کر کے آئے بعد واپس خواب کی دنیا میں چلے گئے تھے۔

میں نندہ بس سروس کے اڈے پر واپس آتا ہوں۔ میں گھر سے بھاگ کر سو روپے چوری کر کے بمبئی جا رہا تھا۔ سو روپے کا چرایا ہوا نوٹ میری جیب میں تھا۔ دین میرے پیچھے نہ لگتا تو میں وہاں سے سیدھا ریلوے سٹیشن جاتا اور ساڑھے نو بجے

پاس بڑے پیسے تھے۔ لوہاری دروازے آکر سوڈا واٹر کی مشوکی بوتل پی جو اس زمانے کی بڑی اعلیٰ بوتل ہوا کرتی تھی۔ کیوٹر کے سگریٹ کی ایک ڈبلی لی۔ ایک بتاریسی پان کھایا اور سگریٹ کے کش لگاتا بھائی دروازے آ گیا۔ وہیں میں ادھر ادھر دوپہر تک گھومتا پھرتا رہا۔ یہاں ایک ہندو کی فالودے کی دکان ہوا کرتی تھی۔ وہاں فالودہ پیا۔ خدا جانے دوپہر کا کھانا کہاں کھایا۔ کھایا بھی یا نہیں۔ مجھے اس عمر کی آوارہ گردیوں میں اس بات کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی کہ میں کھانا وغیرہ کہاں سے کھاؤں گا۔ مجھے اور سب کچھ یاد ہے لیکن یقین کریں یہ بالکل یاد نہیں ہے کہ میں نے دوپہر کا کھانا کہاں اور رات کا کھانا کہاں کھایا تھا۔ یہ ضرور یاد ہے کہ مجھے ایک بار پردیس میں دو دن کا فائدہ آ گیا تھا اور تانی یاد آگئی تھی۔

دوپہر کو بھائی کے ایک سینما ہاؤس میں کوئی فلم دیکھی۔ اس کے بعد ایک بار پھر بڑی آپا کے گھر آ گیا۔ میں نے انہیں یہ تو نہ بتایا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں اور میں یہ پیسے گھر سے چرا کر لایا ہوں مگر یہ ضرور بتا دیا کہ میں بمبئی جا رہا ہوں۔ بڑی آپا نے مجھ پر بڑا غصہ اتارا۔ یہی کہتی رہیں کہ کم از کم آپو جی (والدہ) کو تو بتا کر آتے۔ میں نے کہا۔

”آپ انہیں بتادیں۔ میں تو جا رہا ہوں۔“

مجھ یاد ہے بڑی آپا نے مجھے دو گھوڑا بوسکی کی ایک قمیص پہننے کو دی، جو میں نے وہیں پہن لی اور اتری ہوئی ٹویل کی قمیص وہیں چھوڑ دی۔ کیا دو گھوڑا بوسکی ہوا کرتی تھی۔ اب نہ وہ دو گھوڑے ہیں نہ بوسکیاں ہیں۔ بوسکیاں ختم ہو گئی ہیں اور پیچھے صرف گھوڑے ہی گھوڑے رہ گئے ہیں۔

وہاں سے میں سیدھا لاہور ریلوے سٹیشن پر آ گیا۔ پشاور سے بمبئی جانے والی فزیکل میل جہاں تک مجھے یاد ہے رات کے آٹھ یا نو بجے کے درمیان چلا کرتی تھی۔ بڑی بوڑھا قسم کی گاڑی تھی۔ اس میں تھرڈ کلاس نہیں ہوتی تھی۔ انٹر کلاس، فاسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس ہوتی تھی۔ ایک ایئر کنڈیشنڈ بوگی ہوتی تھی جس کے قریب بھی لوگ نہیں جاتے تھے۔ بوکس کے گہرے رنگ کے سبز شیٹوں میں سے انگریزوں اور ان کی میموں کے دھندلے دھندلے چہرے نظر آیا کرتے تھے۔

میرے خیال میں آج کے کم از کم چار ہزار روپے کے برابر تھی۔ یہ سو روپے بمبئی میں سے ختم نہیں ہو رہے تھے حالانکہ میں روز کے تین فلم شو دیکھتا تھا اور کیوٹر کے سگریٹ کھاتا تھا جو اس زمانے میں بڑے ہبٹے سمجھے جاتے تھے۔

لاری لاہور پہنچ کر لاہوری دروازے کے باہر ٹھہر گئی۔ جہاں آج کل سیالگر جانے والی ویکوں کا اڈا ہے۔ اس وقت نندہ بس سروس کا اڈہ اسی جگہ ہوا کرتا تھا۔ اڈے مجھ سے سو روپے کا نوٹ لے کر مجھے چھ یا سات آنے کا ٹکٹ دے دیا گیا اور باقی روپے کا سارے کا سارا پہنچ دیا گیا جو میں نے اپنے کوٹ کی اندر والی جیب میں ڈال لیا اس بھان یا پہنچ میں چاندی کے روپے روپے کے سکے بھی تھے اور اٹھنیاں چوٹیاں تھیں۔

بڑا اچھا زمانہ تھا۔ نہ کسی نے میری جیب کاٹی نہ دھوکا دے کر مجھ سے رو چھینے۔ میری عمر کوئی زیادہ نہیں تھی یہی تیرہ چودہ سال کی ہوگی۔ میں نے ٹھنڈے کپڑے، کوٹ پاجامہ اور چپل پہنی ہوئی تھی۔ میرے کوٹ کی اندر والی جیب روپوں سے اٹھنیاں چوٹیوں سے بھر گئی تھی اور ایک طرف کو جھک گئی تھی۔ میں اس طرح لوہاری دروازے داخل ہو کر شہر کے اندر سے ہوتا ہوا مستی گیٹ کی طرف نکل آیا۔

ان دنوں میری سب سے بڑی ہمشیرہ مستی گیٹ میں رہا کرتی تھیں۔ ان تین منزلہ مکان کے باہر والے رخ پر کلڈی کے بستے لگے ہوئے تھے اور مکان کا چھپرہ جھکا ہوا تھا۔ مکان کے نیچے تانبے کے برتن بنانے والوں کا طویلہ تھا جہاں سارا ٹھٹھیارے تانجا کوٹے یا اڈوں پر تانبے کے بڑے بڑے پتیلے لگائے لوہے کی ہتھوڑی، ان کو کوٹ کوٹ کر ان پر سفید نشان ڈالتے رہتے تھے اور ان کا بڑا شور ہوتا تھا۔ اندھیری سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل میں آیا تو بڑی آپا نے سب سے پہلا جو سوال وہ یہ تھا۔

”وے آپو جی کو بتا کر آیا ہے کہ گھر سے بھاگ کر آیا ہے؟“

مجھے یہ سوال بڑا برا لگا۔ میں تھوڑی دیر وہاں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔

میں نے لاہور سے بمبئی تک انٹرکلاس کا ٹکٹ لے لیا تھا۔ فرنیچر میل چمک کرتی بڑی شان اور وقار کے ساتھ پلیٹ فارم میں داخل ہوئی اور رک گئی۔ تھرڈ کلاس ہونے کی وجہ سے اس ٹرین میں بہت کم مسافر سفر کیا کرتے تھے۔ ایک بات اور بھی اس گاڑی میں دو تین روپے سے کم سفر کے ٹکٹ نہیں ملتا تھا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی ایک عجیب رعب اور وقار ہوا کرتا تھا فرنیچر میل کا۔ لوگ پلیٹ فارم پر زور کھڑے ہو کر ٹرین کو دیکھا کرتے تھے۔

لاہور سے امرتسر 35 میل کا فاصلہ تھا۔ فرنیچر میل وقت پر آتی تھی اور وہ چلا کرتی تھی۔ لاہور سے روانہ ہوئی تو ریلوے یارڈ سے نکلنے ہی اس نے سپیڈ بکھرا اور لاہور سے واہگہ، جلو، گوروسر، ستلانی، اٹاری، خاصہ، چنر ہر سب سٹیشن چھوڑتی اور سر جا کر رکی۔ امرتسر یہ ٹرین دس پندرہ منٹ ہی ٹھہرتی تھی۔ امرتسر کا سٹیشن آتے ہی کمپارٹمنٹ کے ہاتھ روم میں چھپ گیا۔

میں جب بھی گھر سے بھاگتا تھا تو والد صاحب اپنے شاگرد پہلوان جوان خاص جاسوس تھے چھوڑ دیا کرتے تھے جو لاریوں کے اڈے، جی ٹی روڈ اور ریلوے اور کمپنی باغ میں مجھے تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ان میں بودی نام کا جاسوس بڑا تاج کار تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ والد صاحب کے ایک دو جاسوس پلیٹ فارم پر ضرور موجود ہوں جو انٹرکلاس کے ڈبوں میں جھانک کر مجھے دیکھتے پھر رہے ہوں گے۔

ایک بار میں اپنے چھوٹے آرٹسٹ بھائی مقصود کے ساتھ امرت ناکیر میں طائی کا آخری شو دیکھنے چلا گیا۔ میں اور مقصود تھرڈ کلاس میں ایک بیچ پر بیٹھے تھے۔ شو شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک آدمی لوگوں کے جھک کر چہرے دیکھتا ہمارے سامنے آ گیا والد صاحب کا جاسوس بودی تھا۔ اس نے ہمیں پہچان لیا۔ کہنے لگا۔

”چلو بھئی سو دے میدے۔ باہر آ جاؤ۔“ اور وہ ہم دونوں کو کان سے پکڑ کر ہال سے باہر لے آیا۔ باہر والد صاحب کو جوانوں والا سینگالے کر ہمارے استقبال کو کھڑے تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے ہم پر سینٹے برسائے شروع کر دیئے۔ میں اسی وجہ سے

کمپارٹمنٹ کے ہاتھ روم میں چھپ گیا تھا۔

جب ٹرین چلی اور شریف پورے سے بھی آگے نکل گئی تو میں ہاتھ روم سے باہر آ گیا۔ مجھے اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ میں ٹرین میں رات کے وقت کمپنی باغ والے ریلوے پھانگ کو تیزی سے پیچھے جاتے نہیں دیکھ سکا اور رات کے وقت کمپنی باغ کے درختوں پھولوں اور سبزے کی ٹھنڈی خوشبو سے محروم رہا۔ رات کے وقت کمپنی باغ کے سبزے، پھولوں، درختوں اور امرودوں اور آموں کی ملی جلی ٹھنڈی خوشبو آیا کرتی تھی۔ دن کے وقت کمپنی باغ کا پھانگ گزرتا تو ٹرین میں کمپنی باغ کے مغلیہ طرز کے دروازے کی چھتی ہوئی ڈیوڑھی دور سے نظر آتی۔ اس ڈیوڑھی کی ایک جانب باغ کی چھوٹی سی نکڑی آگے ریالٹو سینما کی طرف نکل جاتی تھی اور دوسری سڑک لوکاٹ کے باغوں میں سے ہوتی ہوئی آگے لیڈیز پردہ کلب اور اس کے آگے چھوٹی نہر کو چلی جاتی تھی۔

سڑک کی دونوں جانب لوکاٹ کے باغ تھے جن میں دن کے وقت ہی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ فرنیچر میل نے پوری رفتار پکڑ لی تھی۔ یہ بڑی تیز رفتار ٹرین ہوا کرتی تھی۔ سٹیشن پر سٹیشن چھوڑتی جا رہی تھی۔ جالندھر جا کر رکی۔ چند منٹ ٹھہری اور آگے چل پڑی۔ لدھیانہ آ گیا۔ لدھیانے کے مردم خیز شہر نے کیسے کیسے علمائے دین، مسلمان سیاست دان، علم و ادب کے درخشاں ستارے پیدا کئے۔ اس شہر پر مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کی گہری چھاپ تھی۔ تجارت کے میدان میں بھی یہاں کے مسلمان تاجر کسی سے پیچھے نہیں تھے۔ تعمیر پاکستان میں لدھیانے کے مسلمانوں کے کارنامے پاکستان کی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جائیں گے۔ پاکستان کے لئے لدھیانے کے مسلمانوں نے بھی بے بہا اور بے مثال قربانیاں دی ہیں۔

دن کا اجالا پھیل رہا تھا جب ٹرین میرٹھ پہنچی۔

میرٹھ شہر اور میرٹھ چھاؤنی دونوں کے سٹیشن مجھے بڑے اچھے لگتے تھے۔ اس لائن پر بعد میں جب بھی میں نے سفر کیا میں ان سٹیشنوں کے پلیٹ فارم پر اتر کر ضرور سیر کرتا تھا۔ صاف ستھرے پلیٹ فارم ہوا کرتے تھے۔ اس سے پہلے انبالے کا سٹیشن آتا تھا اور

انبالہ شہر اور انبالہ کینٹ کے سٹیشن بھی مجھے اپنی طرف کھینچتے تھے۔ شاید اس لئے کہ یہاں میرا پیارا دوست اور خوبصورت شاعر ناصر کاظمی رہتا تھا جس نے مجھے دس بارہ سال بعد لاہور کے پاک ٹی ہاؤس میں آکر ملنا تھا۔

عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ انبالہ کینٹ کے سٹیشن کا پلیٹ فارم میرٹھ شہر کے سٹیشن کے پلیٹ فارم سے زیادہ صاف ستھرا اور چمکیلا ہوا کرتا تھا۔ میرٹھ کینرا اور انبالہ کینٹ دونوں ہی برٹش اٹھارین آرمی کی بڑی اہم چھاؤنیاں تھیں۔ اور یہاں فرنیچر میل ضرور کھڑی ہوتی تھی۔ سات سال بعد میں نے اسی انبالہ شہر کے پلیٹ فارم پر اگست 1947ء میں برقعہ پوش مسلمان خواتین کے ایک ہجوم کو دیکھا تھا جو پاکستان جانے کے لئے اپنے بال بچوں کو لئے سہمی ہوئی بیٹھی تھیں اور ان کے پیچھے پلیٹ فارم کے گیٹ پر کلواریں اور نیزے لئے ست سری اکال کے نعرے لگا رہے تھے۔



خدا جانے یہ خواتین پاکستان پہنچ بھی سکی تھیں یا نہیں۔ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ مگر جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت حالات بالکل نارمل تھے۔ فرنیچر میل میرٹھ سے نکل کر دلی کی طرف روانہ ہوئی تو اس کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک کتا زور زور سے بھونکتا کچھ دور تک ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا۔ پھر تھک کر پیچھے مڑ گیا۔ دلی شہر کے مکانات اور کارخانے وغیرہ ریلوے سٹیشن آنے سے بہت پہلے شروع ہو گئے تھے۔ پھر ٹرین دریائے جمنا کے بہت بڑے پل پر سے گزر گئی۔

دلی شہر میرا دیکھا ہوا شہر تھا۔ ایک بار پہلے رنگون جاتے ہوئے میں یہاں آیا تھا اور بھائی جان کے ساتھ مشہور شاعر ن م راشد صاحب کے ہاں تین چار دن رہا تھا۔ اس زمانے میں دلی شہر کی آبادی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ پلیٹ فارم پر بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔

ویسے بھی فرنیچر میل پر صرف لمبے سفر والے مسافر دکھائی دیتے تھے۔ اترنے والے مسافر زیادہ ہوتے تھے۔ میرے پاس کافی پیسے تھے۔ میں نے پلیٹ فارم پر اتر کر ایک فلمی رسالہ خریدا۔ پلیئر زینوی کٹ کے پچاس سگریٹوں والا ایک چوڑا بہت خوبصورت ڈبہ خریدا۔ اسے کھولا تو اندر ٹمبل کے سرخ بستر پر سفید سگریٹ ساتھ ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی ہسپتال کی نرسیں سو رہی ہوں۔ ابھی سگریٹوں کے پیچھے فلٹر لگنے شروع نہیں ہوئے تھے۔ ایک احمد آبادی پان کھایا اور سگریٹ سلا کر اپنے ڈبے میں آکر بیٹھ گیا۔

بارش کی طرف اور بارش میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ یاد نہیں دودن کا سفر تھا کہ تین دن کا سفر تھا۔ دن نکل آیا تھا کہ پتہ چلا بمبئی شہر آ رہا ہے۔

اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ ست پڑا کی پہاڑیوں کے جنگل ہیں اور یہاں گرمیوں میں بڑی بارشیں ہوتی ہیں۔ کلیان سٹیشن آیا تو ریلوے ٹریک کی چڑھائی شروع ہو گئی۔ یہاں ٹرین کے پیچھے بھی ایک انجن لگ گیا۔ ٹرین کی رفتار ہلکی ہو گئی تھی۔ کافی دیر تک ٹرین چڑھائی چڑھتی رہی۔ اس کے بعد کسی سٹیشن پر پہنچ کر ٹرین کا پچھلا انجن الگ کر دیا گیا اور اترائی شروع ہو گئی۔

ٹرین اس قدر تیز رفتاری سے جا رہی تھی کہ درخت سائیں سائیں کرتے ٹرین کے قریب سے گزر جاتے تھے۔ اترائی ختم ہوئی تو بارش دوبارہ شروع ہو گئی۔ لیکن یہ بارش اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اس کی بو چھاڑ ٹرین کے ڈبوں میں آتی۔ چنانچہ میری کھلی کھڑکی کسی نے بند نہ کی اور میں اور بارش کھڑکی میں سے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے اور باتیں کرتے رہے۔

آخر بمبئی شہر کے لوکل سٹیشن شروع ہو گئے اور پھر فرنیئر میل بسے سنٹرل کے بہت بڑے سٹیشن میں داخل ہو کر رک گئی۔ یہ سٹیشن ٹرمینل بھی تھا یعنی یہاں سے آگے کی طرف ریل گاڑی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت بارش ختم ہو گئی تھی۔ بڑا کشادہ اور لمبا پلیٹ فارم تھا۔ ہمارے ٹکٹ دو تین سٹیشن پہلے ہی ایک ٹی ٹی نے ڈبے میں داخل ہو کر چیک کر لئے تھے چنانچہ پلیٹ فارم پر کوئی چیکنگ گیٹ نہیں تھا۔ بس ایک طرف ٹرین کھڑی تھی اور دوسری طرف شہر کی سڑک تھی جہاں وکٹوریہ یعنی گھوڑا گاڑیاں اور ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ کسی نے ٹکٹ کا نہ پوچھا۔

پلیٹ فارم پر ہونٹوں کے ایجنٹ مسافروں کو اپنے اپنے ہونٹوں کا کارڈ دکھا کر انہیں لپٹے ہونٹوں میں لے جانے پر اصرار کر رہے تھے۔ میرے پاس کوئی سامان نہ تھا۔ بس تین کپڑوں میں تھا لیکن کوٹ کی جیب چاندی کے روپوں سے آدھی بھری ہوئی تھی۔ ایک سالو لاسا آدھی میرے پاس آ کر بولا۔

اب مجھے والد صاحب کے کسی جاسوس کا ڈر نہیں تھا اور بڑی بے فکری سے سڑک رہا تھا۔ فرنیئر میل دلی سے بمبئی تک بیسے بڑودہ ریلوے ٹریک پر سفر کرتی تھی۔ اسے بی بی اینڈ سی آئی کہا جاتا تھا۔ یہ وسطی ہند کا سفر تھا۔

اس ریلوے لائن پر یہ میرا پہلا سفر تھا۔ اس کے بعد اس ریلوے لائن پر اسٹیشن گئے کہ یہاں کے ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ آگے ہوئے درخت تک مجھے یاد ہو گئے تھے۔ اور یہاں کے جنگلوں کی بھی در بدری کرتا رہا تھا لیکن اس وقت میں پہلی بار اس ریلوے لائن پر سفر کر رہا تھا۔ دلی سے آگے مہرا شہر آیا۔

جھانسی، گوالیار، بھوپال کا تاریخی شہر آیا۔ یہ سارا علاقہ وسطی ہندوستان کا جنگلاتی اور نیم پہاڑی علاقہ تھا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ دونوں طرف جنگل ہی جنگل تھے۔ راستے میں بارش بھی شروع ہو گئی۔ اس بارش نے مجھ پر جادو سا کر دیا۔ یہ جنگلوں کی بارش تھی۔ قدرت نے بارش پیدا ہی جنگلوں کے لئے کی ہے اور جنگل بارشوں کیلئے بنائے ہیں۔ جنگل اور بارش دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ بارش کی بو چھاڑ پر ٹرین کی کھلی کھڑکیوں میں سے اندر ڈبے میں آنے لگیں۔ میں ایک کھڑکی کے پاس بیٹھا جنگل اور بارش اور بارش اور جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ کبھی لگتا کہ جنگل ہی جنگل ہے۔ کبھی لگتا کہ بارش ہی بارش ہے اور کبھی کچھ بھی نہیں ہے اور یہ دنیا کی پہلی بارشیں ہیں جو ایک لاکھ سال سے برس رہی ہیں اور لاکھوں سال تک برستی رہیں گی۔ کسی مسافر کی آواز آئی۔

”کھڑکیاں بند کر دو بھائی۔ بارش اندر آ رہی ہے۔“

مجھے یہ فقرہ بڑا اچھا لگا۔ بارش اندر آ رہی ہے۔ بارش! بارش! تو بادلوں کے دلہے سے آئی ہے۔ تو بادلوں کے دلہے کو واپس چلی جائے گی۔ مجھے بھی اپنے ساتھ لیتی جا تیرے جانے کے بعد سورج نکلے گا تو درختوں کے دھلے ہوئے پاک صاف پتے اور گلاب اور ہری ہری کوٹلیں دھوپ میں روشن ہو جائیں گی اور گل مہر اور گلاب کے پھولوں تیرے قطرے سنہری دھوپ میں موتی بن کر چمکیں گے۔ ”کھڑکی بند کر دو۔ بارش اندر آ رہی ہے۔“ کسی مسافر نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر وہ کھڑکی بھی بند کر دی جہاں سے

ہاڑکا مس نسیم بانو کو کس لئے ملنے جا رہا ہے۔ اس نے میری طرف مشکوک نظروں سے دیکھا اور تبھی کھڑی کر دی۔ بولا۔

”بابو! کہاں سے آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”پنجاب سے۔“

وہ بولا۔

”مس نسیم تمہیں جانتی ہے کیا؟“

میں نے کہا۔

”نہیں۔ میں اسے پہلی بار مل رہا ہوں۔“

کوچوان نے تبھی آگے بڑھا دی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں فلمی دنیا کا مارا ہوا ہوں اور نسیم بانو کے عشق میں گرفتار ہو کر اس کے در پر دھونی رمانے جا رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولا۔

”بابو! نسیم بانو سے مجھے پکار فلم کا ایک پاس لے دیتا۔“

ان دنوں بمبئی کے مشہور سینما میں سہراب مووی کی مشہور فلم ”پکار“ دکھائی جا رہی تھی جس میں نسیم بانو نے ہیروئن کا رول ادا کیا تھا۔ میں نے بڑی شان سے جواب دیا۔

”فکر نہ کرو۔ تمہیں چار آدمیوں کا پاس لے دوں گا۔“

یہ میں نے یونہی کہہ دیا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ مس نسیم بانو مجھے ملنے کی اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں۔ وکٹوریہ تبھی بمبئی کے بازاروں میں سے گزرتی ایک ایسی سڑک پر نکل آئی جس کی ایک طرف اونچی اونچی بلڈنگوں کی قطار دور تک چلی گئی تھی اور

”دہری طرف سمندر ہی سمندر تھا۔ کوچوان نے کہا۔

”بابو میرن ڈرائیو آ گیا ہے۔ اب سمجھو مس نسیم کا فلیٹ بھی آ گیا۔ میں نے اس کا فلیٹ دیکھا ہوا ہے۔“

سمندر کی طرف سے مرطوب ہوا چل رہی تھی جس میں مچھلیوں کی بو محسوس ہوتی

”بابو! میرے ساتھ آ جاؤ۔ جہاں جانا ہے پہنچا دوں گا۔“

میں نے سوچا کہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے۔ اس نے سرخ ترکی ٹوپی پہن رکھی اور جسم پر لمبی برساتی تھی۔ میں اس کے ساتھ ہو گیا اور کہا۔

”مجھے میرن ڈرائیو جانا ہے۔“

وہ بولا۔

”بابو جہاں چاہو گے پہنچا دوں گا۔ کرایہ بھی زیادہ نہیں ہوگا۔“

اور وہ مجھے ایک گھوڑے والی ٹیکسی کے پاس لے آیا۔ میں نے پوچھا۔

”تم ٹیکسی نہیں چلاتے؟“

کوچوان بولا۔

”بابو! وکٹوریہ ٹیکسی سے زیادہ تیز چلتی ہے۔ تم بیٹھ کر تو دیکھو۔“

میں نے سوچا کہ چلو بمبئی کی وکٹوریہ کی بھی سیر کر لیتے ہیں۔ میں تبھی میں بڑ

گیا۔ ٹرکی ٹوپی اور برساتی والا کوچوان تبھی کی اونچی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میری طرف منہ مڑ

کر بولا۔

”بابو! کس طرف چلنا ہے؟“

میں نے مس نسیم بانو کا ایڈریس لاہور کے فلمی رسالے ”چتر“ دیکھی میں پڑھا

لکھ لیا تھا۔ میں نے کہا۔

”میرن ڈرائیو چلو۔“

اس نے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔

”بابو! میرن ڈرائیو کتنے نمبر پر جائیگا؟“

مس نسیم بانو کے فلیٹ کا نمبر رسالے میں نہیں دیا گیا تھا۔ بس مس نسیم بانو میرا

ڈرائیو ہی لکھا تھا۔ میں نے کہا۔

”مس نسیم بانو کے ہاں چلو۔ اس کے فلیٹ کا نمبر معلوم ہے؟“

کوچوان نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ شاید سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹی

”کیوں بابو! کیا ہوا؟“

میں نے کہا۔

”مس نسیم سٹوڈیو گئی ہوئی ہیں۔ پھر مل لوں گا۔ واپس چلو۔“

کوچوان وکٹوریہ لوٹ کر واپس چل پڑا۔ واپس چلو تو میں نے اسے کہہ دیا تھا لیکن مجھے خود بخود معلوم نہیں تھا کہ میں واپس کہاں جاؤں گا۔ مس نسیم بانو میرے دماغ سے نکل گئی تھی اور اس وقت بمبئی شہر میں گھومنے پھرنے کا شوق دل میں سما گیا تھا۔ کوچوان نے آہستہ آہستہ تبھی چلاتے ہوئے مجھ سے کہا۔

”بابو! تمہیں محبوب سٹوڈیو لے چلوں؟ وہاں دوسری کئی ایکٹریس بھی ہوں گی۔“

کوچوان بھی سمجھ گیا تھا کہ میں فلمی دنیا کا مارا ہوں اور پنجاب سے بھاگ کر فلم ایکٹروں اور ایکٹریسوں کو دیکھنے بمبئی آیا ہوں۔ اس زمانے میں پنجاب اور صوبہ سرحد سے نوجوان لڑکے ہیر و بننے کے شوق میں گھروں سے بھاگ کر آ جایا کرتے تھے۔ میں نے کہا۔

”چلو محبوب سٹوڈیو ہی چلو۔“

کوچوان نے تبھی ایک دوسری سڑک پر ڈال دی۔ ہم ایک بازار میں سے گزر رہے تھے کہ میرا چائے پینے کو دل چاہا۔ میں نے کوچوان سے کہا۔

”بکھی ایک طرف روکو۔ میں چائے پیوں گا۔“

وہ بولا۔

”بابو! تم تبھی ہی میں بیٹھو۔ میں تمہارے لئے سامنے والے ایرانی ہوٹل سے چائے لے آتا ہوں۔“

میں نے کہا۔

”اپنے لئے بھی لے آنا۔“

میرے پاس بڑے پیسے تھے۔ کوچوان وکٹوریہ روک کر سامنے والے ایرانی ہوٹل میں گیا اور چائے کا ایک کپ اپنے لئے اور ایک میرے لئے لے آیا۔ وہ میرے سامنے

تھی۔ وکٹوریہ ایک اونچی بلڈنگ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ کوچوان بولا۔

”وہ سامنے والا کلیٹ مس نسیم کا ہے۔“

میں نے کہا۔

”تم یہیں ٹھہرنا۔ میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔“

میں وکٹوریہ سے اتر کر کلیٹ کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ نسیم بانو کا کلیٹ پتہ منزل پر تھا۔ برآمدہ تھا۔ جہاں دیوار پر نسیم بانو کی فریم میں جڑی ہوئی بڑی تصویر لگی تھی۔ سڑکیوں کے پاس ایک پٹھان چوکیدار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کس سے ملنے کے لئے آئے ہو۔ میں نے کہا۔

”میں نسیم بانو سے ملنا چاہتا ہوں۔“

چوکیدار نے پوچھا۔

”کہاں سے آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”پنجاب سے آیا ہوں۔“

وہ بولا۔

”بیگم صاحبہ تمہیں جانتی ہیں کیا؟“

میں نے کہا۔

”نہیں۔ میں انہیں پہلی بار مل رہا ہوں۔“

وہ سمجھ گیا کہ میں نسیم بانو کا عاشق نامراد ہوں اور اس کے در پر دیدار کی خیرات مانگنے آیا ہوں۔ اس نے بے رخی سے کہا۔

”وہ سٹوڈیو گئی ہوئی ہیں۔ جاؤ۔“

نسیم بانو سے میرا عشق اسی وقت ہرن ہو گیا اور میرے دل و دماغ سے نکل کر چوڑیاں بھرتا خدا جانے کدھر غائب ہو گیا۔ میں اٹے پاؤں چل کر تبھی میں آ کر بیٹھ گیا۔ کوچوان نے پوچھا۔

بڑے اجنبی شہر میں در بدر ہونے سے بچا لیا تھا اور مجھے محفوظ ہاتھوں کے حوالے کر دیا تھا۔ کوچوان کی شکل مجھے پوری طرح یاد ہے مگر اس شریف آدمی کا میں نام بھول گیا ہوں۔ اس کا قد لمبا تھا، جوان آدمی تھا، رنگ سانولا تھا اور چہرے پر ماتا کے داغ تھے۔ تھوڑی دیر بعد درکشاپ سے باہر نکلا تو اس کے ساتھ پچاس ایک سال کا کھنگریا لے بالوں اور تلواریں مار کر موٹھوں والا ایک خوش شکل آدمی بھی تھا۔ یہ آدمی اشرف تھا جو لاہور شہر کے محلہ لوہاری منڈی کا رہنے والا تھا اور فلم ایکٹریس ثریا کا قریبی رشتہ دار تھا۔ ورنہ ظہور اس درکشاپ میں اکڑ آتا جاتا رہتا تھا۔ اشرف صاحب نے مجھ سے پوچھا۔

”کہاں سے آئے ہو؟“

میں نے کہہ دیا۔

”لاہور سے آیا ہوں۔“

انہوں نے کہا۔

”سامان کہاں ہے؟“

میں نے کہا۔

”میرا کوئی سامان نہیں ہے۔“

اشرف صاحب نے کہا۔

”دکٹوریہ والے کو کرایہ دے دو۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟“

میں نے کہا۔

”جی ہاں۔ ہیں۔“

میں نے کوچوان کو پیسے دیئے جو دس پندرہ روپے بن چکے تھے۔ یہ آج کے زمانے کے سوڈیڑھ سو روپے کے برابر تھے۔ کوچوان سلام کر کے چلا گیا۔ اشرف صاحب نے مجھے گیراج میں ایک طرف لوہے کی کرسی پر بٹھا دیا اور پوچھا۔

”بھوک تو نہیں لگی۔“

میں نے کہا۔

والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہم چائے پینے لگے۔ یہ منظر آج بھی پوری جزئیات کے ساتھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں۔ ویسے ہی ہوا تھا۔ وہ چائے پلیر ڈال کر پی رہا تھا۔ میں نے بھی تھوڑی چائے پلیٹ یعنی پریج میں ڈال کر پی اور پلیر میں ہی پینے لگا۔ بہینی کے ایرانی ہوٹلوں میں چائے کے کپ کو چائے کا کپ کہتے کوچوان نے مجھ سے پہلے چائے کا کپ خالی کر دیا۔ میں نے جیب سے پلیئرز کی ڈبی نکال کر ایک سگریٹ کوچوان کو دیا اور ایک خود سلگا لیا۔ کوچوان قیمتی سگریٹ۔ خوش ہوا۔ کہنے لگا۔

”یہ بڑا اعلیٰ سگریٹ ہے۔ ہم تو چار مینار یا ہتھی کا سگریٹ پیتے ہیں۔“

بہینی میں ہتھی اور چار مینار کے سگریٹ بڑے عام تھے۔ چار مینار بڑا

ستا سگریٹ تھا۔ بہینی میں جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے تو میں چار مینار

ہی پیتا تھا۔ شاید ایک آنے یا چھ پیسے کی ڈبی آتی تھی۔

کوچوان سمجھ گیا کہ میری کوئی منزل نہیں ہے۔ میں بس فلمی دنیا کی سر

ہوں۔ وہ کہنے لگا۔

”بابو! محبوب سٹوڈیو جا کر کیا کرو گے۔ وہاں بھی پٹھان چوکیدار تمہیں

جانے دے گا۔ میں تمہیں ایک جگہ لے چلتا ہوں۔ وہاں فلمی ہیروئن ثریا کا ماموں

آتا رہتا ہے۔“

میں نے کہا۔

”ہاں ٹھیک ہے۔ مجھے وہیں لے چلو۔“

ظہور صاحب اس زمانے میں پرکاش فلم کمپنی کی مار دھاڑ کی فلموں۔

مشہور ویلن ہوا کرتے تھے۔ شاید ان کا پورا نام ایس ایم ظہور ہوا کرتا تھا۔ کوچوان

بارونق سڑک پر لے آیا جس کا نام مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لنگٹن روڈ تھا۔

کے اشرف صاحب کا آٹو درکشاپ تھا۔ کوچوان نے کبھی درکشاپ کے سامنے کھڑا

اور خود اندر چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسلمان کوچوان میرا ہمدرد تھا جس نے

جب میرے والد صاحب کو خط ملا اور انہیں معلوم ہوا کہ میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہہ کر اعلان کر دیا کہ میں کسی کو اسے لانے نہیں سمجھوں گا۔ ہمیں ایکٹرن بننے گیا ہے تو اب ایکٹرن بن کر ہی واپس آئے لیکن کچھ دنوں بعد والدہ کے اصرار پر انہوں نے بادل نخواستہ اپنے داماد لالہ عبدالرحمن کو اجازت دے دی کہ وہ آپو جی کو ساتھ لے کر بھیجی جائے اور مجھے واپس گھر لے آئے۔ لالہ عبدالرحمن کا ایک بھانجا بھیجی میں کراچی کا بزنس کرتا تھا۔ یہ سب کچھ بعد میں ہوا۔ اس دوران مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے گھر خط لکھ دیا گیا ہے۔ میرے پاس کافی پیسے تھے جو میں نے اشرف صاحب کو بتائے تو انہوں نے کہا۔

”میرے پاس جمع کرادو۔ جتنی ضرورت ہو لے لیا کرو۔“



”جی نہیں۔ میں نے ٹرین میں ناشتہ کر لیا تھا۔“

”ہوں۔“

اشرف صاحب نے فکر مند لہجے میں لمبی سی ہوں کہی اور بولے۔

”گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”جی ہاں۔“

وہ بولے۔

”بڑی غلطی کی تم نے۔ تمہارے گھر والے اس وقت کتنے پریشان ہوں گے

میں نے کوئی جواب نہ دیا لیکن اتنا انہیں بتا دیا کہ میں امرتسر سے آیا ہوں

ہمارا گھر امرتسر میں ہے۔ وہ بولے۔

”ٹھیک ہے۔ ظہور بھائی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ تم ان کے ساتھ

شوٹنگ دیکھنے چلے جانا۔ تمہارا شوق پورا ہو جائے گا۔“

اشرف صاحب بڑے درد مند اور نیک دل انسان تھے۔ بعد میں پتہ

انہوں نے میرے والے وکٹوریہ کے کوچوان کو کہہ رکھا تھا کہ اگر پنجاب سے کوئی

تمہیں ملے جو فلمی دنیا کے شوق میں گھر سے بھاگ کر آیا ہوا ہو تو اسے میری درکشاد

لے آیا کرو۔

اشرف صاحب اس لڑکے سے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیتے تھے

کے گھر والوں کو خط پوسٹ کر دیتے تھے کہ آپ کا بیٹا میرے پاس محفوظ ہے۔ ان

لے جائیں۔ اتنی دیر تک وہ اپنی جیب سے لڑکے کو کھلاتے پلاتے تھے۔ ظہور صاحب

ذریعے اسے فلمی دنیا کی سیر بھی کراتے اور فلم کی شوٹنگ وغیرہ بھی دکھا دیتے تھے۔

اشرف صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے بھی میرے گھر کا

معلوم کر لیا اور مجھے بتائے بغیر میرے گھر خط پوسٹ کر دیا کہ آپ کا بیٹا میرے پاس

کسی کو بھیج کر منگوا لیں۔

ہم دو جیپوں میں بیٹھے تھے۔ چار پانچ رائفلیں اور تین ہندو قیس ساتھ تھیں۔
بڑی بھی کافی تھا۔ کھانے کا خشک راشن اور چائے کی کیتلی اور کپ وغیرہ بھی رکھ لئے
تھے۔ بمبئی شہر کے مضافات کافی دور تک پہلے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک ہماری جیپیں ہلکی
رک پر دوڑتی رہیں۔ پھر پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا۔

یہ پہاڑی علاقہ ایسا نہیں تھا جیسا ہمارے کوہ مری ایٹ آباد کا علاقہ ہے۔ یہ سطح
ترقہ قسم کا علاقہ تھا۔ دور دور بڑے بڑے پہاڑ کھڑے تھے۔ موسم خوشگوار تھا۔ برسات کا
موسم گزر چکا تھا۔ یہ موسم شکار کے لئے بڑا موزوں ہوتا ہے۔ لوہاری منڈی لاہور والے
اشرف صاحب بڑے تجربہ کار شکار تھے۔ وہ اگلی جیپ پر اپنے دو رکشاپ کے پارسی فیجر
سڑ جہانگیر کے ساتھ بیٹھے تھے۔ جہانگیر ہماری بدن کا گورا چٹا خوش شکل پارسی نوجوان
تھا۔ جہانگیر گاڑی چلا رہا تھا۔

میں اور ڈرائیور بانا کچھلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ دوسری جیپ پر اشرف صاحب
کے تین ملازم سامان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ صرف ایک ملام کے پاس دو تالی ہندو تھی۔
باقی سارا اسلحہ ہماری والی جیپ میں تھا۔ کافی دیر تک سفر کرنے کے بعد ہماری جیپ پکلی
سڑک سے اتر کر ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ یہ جنگل اس قسم کا تھا کہ کہیں گھنے درخت تھے
انکلی اونچی اونچی گھاس والا میدان آ جاتا تھا۔

تمام راستے اشرف صاحب اور جہانگیر کو معلوم تھے۔ وہ پہلے بھی کئی بار وہاں
لاکھیلے آچکے تھے۔ میں جنگل کے درختوں اور بھورے رنگ کی پہاڑیوں اور ندی نالوں کو
بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ دوپہر کے وقت ہم ایک گاؤں میں داخل ہوئے جہاں بیس
گھوڑے تھیں۔

یہ جنگل کے دیہاتی لوگوں کے جھونپڑے تھے۔ کالے کالے دبلے پتلے آدمی
تھے۔ ان کی عورتیں تقریباً نیم عریاں تھیں۔ بچے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اس گاؤں میں ہم
سے کھانا کھایا، چائے پی اور آگے چل پڑے۔ اب ہم جنگل میں کافی آگے نکل آئے تھے۔
مجھے سرکنڈوں کی مرطوب خوشبو آتی تھی۔ وہ خوشبو اس وقت بھی مجھے محسوس ہوتی

میں روزانہ سے پانچ روپے لے کر بمبئی شہر کی سیر کو نکل جاتا۔ دن میں
قلمیں دیکھتا۔ ایرانی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاتا، چائے پیتا اور صبح کا اشرف صاحب
کیراج سے نکلا شام کو واپس آتا۔ جس روز ظہور صاحب نے آنا ہوتا تھا اس روز
دو رکشاپ میں ہی رہتا اور ان کے ساتھ ان کی بڑی ٹرانف موٹر سائیکل کے پیچھے
پرکاش سنوڈیو جا کر فلم کی شوٹنگ دیکھتا۔ اب یاد آ گیا ہے۔ ظہور صاحب کا فلمی نام ایم
تھا۔ پہلی بار میں ظہور صاحب کے ساتھ پرکاش سنوڈیو گیا تو وہاں ان کی ایک فلم کی
ہو رہی تھی۔

ظہور صاحب اس فلم میں ولن کا کردار ادا کر رہے تھے۔ وہ مجھے سنوڈیو ٹم
پر بٹھا کر سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس میرے پاس چھوڑ کر میک اپ روم میں چلے جا
سنوڈیو کے فلور پر کسی راجہ کے محل کا سیٹ لگا تھا۔ پرکاش سنوڈیو میں ہی میں نے اس
کی مشہور ہیروئن پر میلا اور مس مادھوری کو دیکھا۔ اشرف صاحب کو شیر کے شکار کا
تھا۔

ایک دن انہوں نے شیر کے شکار کا پروگرام بنایا اور اصرار کر کے میں بھی
ساتھ شامل ہو گیا۔ ہماری ٹولی میں ایک اشرف صاحب تھے۔ ان کا پارسی فیجر مسٹر
اور ڈرائیور بانا اور دو اور ملازم تھے۔ چنانچہ ایک دن ہم رائفلیں وغیرہ لے کر دو جیپ
سوار ہو کر بمبئی سے سو دو سو میل دور ست پڑا کے جنگلوں کی طرف چل دیے۔
بمبئی سے ہم دن کے وقت چلے تھے۔

میل دور جنگل کے اندر کل ایک شیر گاؤں کے باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا جس کا بچا ہوا گوشت اور ہڈیاں گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ایک کھیت کے اندر ابھی تک پڑی ہیں اور خیال ہے کہ شیر آج رات اسے کھانے ضرور آئے گا۔ آپ لوگ اس شیر کو مار کر گاؤں والوں کو اس عذاب سے نجات دلائیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں اشرف صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اشرف صاحب نے کہا۔

”تمے فکر نہ کرے لچھے۔ ہم آج رات شیر کو مار گرائے گا۔“

اور کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم لوگ بیچوں میں سوار ہو گئے۔ اس آدمی کو ساتھ لیا اور شیر کو شکار کرنے چل پڑے۔ اس وقت مجھے ڈر لگا۔ بمبئی سے جب میں اس شکاری پارٹی کے ہمراہ چلا تھا تو بڑا خوش تھا کہ جنگلوں میں پھروں گا۔

جھیلیں، چشمے، پہاڑ اور درختوں کے جھنڈ دیکھوں گا لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ پارٹی اس جگہ جا رہی ہے جہاں آج رات کو شیر آئے گا تو میں بالکل سچ کچ کہوں گا مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا تھا کہ اگر شیر نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم میں سے کوئی بھی اس پر گولی نہ چلا سکا یا شیر کو گولی نہ لگ سکی تو کیا ہوگا؟ وہ تو مجھے کھا جائے گا۔ تب میں پچھتانے لگا کہ شکاری پارٹی کے ساتھ یہاں کیوں آ گیا۔

جنگل کا وہ تنگ سا راستہ آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جہاں سے ہماری بیچیں ہچکولے کھاتی گزر رہی تھیں۔ اس جنگلی راستے کی دونوں جانب بانس کے اونچے اونچے گھنے جھنڈ تھے جن میں سے سائیں سائیں کی آواز آرہی تھی۔ ہم لوگ ایک ایسی جگہ آ گئے جہاں تین چار جھونپڑے تھے۔ دو نیم عریاں جنگلی ہاتھوں میں نیزے لئے ایک جھونپڑے کے باہر کھڑے تھے۔

جھونپڑے کے دروازے میں مٹی کے تیل والی لائٹیں روشن تھیں۔ ہمارے ساتھ جو آدمی آیا تھا وہ ان جنگلی آدمیوں سے ان کی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے اشرف صاحب کو بتایا کہ سامنے والے جھونپڑے میں ان لوگوں کے جانور بندھے ہوئے ہیں۔ شیر کل رات اسی باڑے سے ایک گائے اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہم نے وہاں جا کر

ہے۔ اگر کسی جگہ گل مہر کا کوئی سرخ پھول دیکھا تھا تو وہ پھول آج بھی میری آنکھوں سامنے ہے۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں ان چیزوں سے محبت کرتا ہوں اور پھولوں، قسم قسم کے درختوں اور خوبصورت چہروں کو ہی یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور نے اپنی آوارہ گردیوں کے زمانے میں جو درخت، پھول اور خوبصورت چہرے دیکھے مجھے صرف یاد نہیں ہو گئے بلکہ میری روح کا ایک حصہ بن چکے ہیں اور مرنے کے بعد روح کے ساتھ ہی آگے جائیں گے۔ باقی جو میرے اللہ کو منظور۔

جیسے جیسے چیزیں یاد آتی جاتی ہیں ویسے ہی لکھتا جا رہا ہوں۔ میں اپنی طرف اس میں کوئی افسانوی رنگ شامل نہیں کر رہا۔ جنگل میں کوئی نالہ یا پہاڑی چشمہ آہ وہاں ہم منہ ہاتھ دھوتے۔ کچھ دیر آرام کرتے اور پھر آگے چل پڑتے۔ شام کے ڈر ایک اور گاؤں میں آ گئے۔

یہ بالکل جنگلی لوگوں کا گاؤں تھا۔ جسے وہاں کی زبان میں آدمی بائی کہ ہے۔ کالے کالے، دبلے پتلے لال لال آنکھوں والے آدھے ننگے لوگ تھے۔ عجیب کی اردو زبان بولتے تھے۔ پورے جملے میں ایک آدھ لفظ ہی ہندوستانی کا ہوتا تھا۔ زبان اشرف صاحب اور جہانگیر خوب سمجھ لیتے تھے۔ بانس کے جھنڈوں میں اچھونپڑیاں تھیں۔

عورتیں لباس کے جھنجھٹ سے آزاد تھیں۔ وہاں ہم نے اپنا کھانا پکا کر رات ہو گئی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی وہاں آیا جو اچھی خاصی ہندوستانی زبان بول لہتا جو زبان یہ لوگ بولتے تھے وہ اردو نہیں تھی۔ ہندوستانی تھی۔ اس میں گجراتی اور زبانوں کے الفاظ بھی تھے۔ ڈرائیور بانا دہلا پتلا آدمی تھا۔ گردن لمبی تھی۔ اس کے گجراتی کا ایک جملہ آ گیا تھا۔ وہ ہر ایک جنگلی کے ساتھ وہی جملہ بول رہا تھا۔

”تمے سوں کرے چھے؟“

یعنی تم کیا کر رہے ہو؟ بانا کی موجودگی سے شکاریوں کی اس پارٹی میں کافی ہو گئی تھی۔ جو جنگلی آدمی آیا تھا اس نے اشرف صاحب اور جہانگیر کو بتایا کہ وہاں

باڑے کو دیکھا۔ اندر دو گائیں اور ایک گدھا بندھا ہوا تھا۔ وہ آدمی یعنی ہمارا گائیڈ کہنے لگا کہ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک کھیت کی فصل میں گائے کی بچی کچی لاش پڑی ہے جس کو کھانے آج رات شیر ضرور آئے گا۔

اشرف صاحب بولے۔

”چلو چل کر گائے کی لاش دیکھتے ہیں۔“

میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو عین اس جگہ جا رہے ہیں جہاں شیر آنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے وہاں پہنچتے ہی شیر آ جائے اور ہم پر حملہ کر دے اور اشرف صاحب اور جہانگیر اسلحہ سنبھالتے ہی رہ جائیں۔ اشرف صاحب نے ایک رائفل مجھے دے دی تھی۔ رائفل کی تالی پر لمبی نارنج بندھی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ ”آپ گولی مت چلانا۔ جب میں کہوں تو فائر کرنا۔“

مویشیوں کے باڑے سے نکل کر شکاری پارٹی وہ جگہ دیکھنے چل پڑی جہاں شیر کی آدمی کھائی ہوئی گائے کی لاش پڑی تھی۔ میں بہت ڈر رہا تھا اور اشرف صاحب اور جہانگیر کے درمیان میں چلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درختوں، جھاڑیوں میں سے اندھیرے میں سے گزرتے آخر ہم ایک کھیت میں آ گئے۔ وہاں کھیت کے درمیان ایک جگہ گائے کی آدھ کھائی لاش پڑی تھی۔ اشرف صاحب اور جہانگیر نے نارنج کی روشنی ڈالی۔ آدمی گائے شیر نے کھائی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب کہنے لگے۔

”جہانگیر اس طرف کوئی درخت دیکھو۔ جس پر چمان ڈالی جاسکے۔“

لیکن وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جہانگیر بولا۔

”دادا ادھر چاروں کے گٹھوں کے پاس ہی بیٹھنا پڑے گا۔“

اشرف صاحب بولے۔

”فکر نہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر ہی شیر مار لیں گے۔“

میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ چمان پھر بھی اونچی ہوتی ہے اور شیر سے بچنے کا امکان تھا لیکن زمین پر مورچہ بنا کر شیر کو شکار کرنے میں خطرہ ہی خطرہ تھا۔ شیر چھلانگ لگا

کر ہم میں سے کسی کو بھی دبوچ سکتا تھا لیکن میں اپنے خوف کو ظاہر کر کے اپنا مذاق نہیں بنانا چاہتا تھا۔ پس خاموش رہا اور دل میں یہی دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ شیر آج کی رات اس طرف نہ آئے۔

میں اور اشرف صاحب گھاس کے بڑے بڑے گٹھوں کے پیچھے رائفلیں لے کر بیٹھ گئے۔ ہماری رائفلوں کے آگے نارنج بندھی ہوئی تھی۔ اشرف صاحب نے مجھے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔

”جس وقت ہماری نارنج روشن ہو تم بھی نارنج روشن کر دینا اور جہاں ہماری نارنج کی روشنی پڑے تم بھی اسی جگہ نارنج کی روشنی ڈالنا۔ خبردار فائر مت کرنا۔ فائر صرف میں جہانگیر اور بانا کر لیں گے۔ تم صرف نارنج کی روشنی ڈالو گے۔ سمجھ گئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”جی ہاں۔ سمجھ گیا ہوں۔“

ہمارے پیچھے ایک ڈھلان تھی۔ ٹیلے کے اوپر ایک جانگلی کھڑا کر دیا گیا تھا جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا تاکہ اگر شیر پیچھے سے آ جائے تو وہ شور مچا کر ہمیں خبردار کر دے۔ یہ جانگلی لوگ واقعی بڑے بہادر تھے اور بعد میں پتہ چلا کہ صرف نیزے کے ساتھ شیر کا شکار کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمارے چاروں جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔

رات کا اندھیرا پھیکا پھیکا سا تھا اور کھیت کی فصل اور دور کے درخت سایوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ اب ہمیں چمروں نے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اپنی گردن پر بیٹھے ہوئے چمھر کو ہاتھ سے مارا تو اشرف صاحب نے سرگوشی میں مجھے ڈانٹا۔

”بے وقوف شور مت کرو۔“

اس کے بعد چمھر مجھے کاٹتے رہے اور میں اپنے اوپر جبر کر کے پتھر کے بت کی طرح بیٹھا رہا۔ آدھا گھنٹہ اسی طرح ہمیں بے حس و حرکت بیٹھے گزار گیا۔ پھر دور کھیتوں میں کھمبل جل کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دور سے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔

بے لگا۔ اشرف صاحب نے کہا۔

”اب شیر نہیں آئے گا۔“

اشرف صاحب نے مسٹر جھانگیر کو آواز دی۔

”تمہیں سوں کرے مجھے جھانگیر۔“ اور اٹھ کھڑے ہوئے۔

میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور ان کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری

ف سے جھانگیر اور بانا بھی اٹھ کر آگئے۔

جھانگیر نے کہا۔

”دادا! شیر بڑا مکار ہے۔ اس کو ہمارا پتہ چل گیا تھا۔“

اشرف صاحب نے کہا۔

”شیر کی قسمت اچھی تھی۔ بچ گیا۔“

بانانے کہا۔

”دادا! آج رات اسے مار لیں گے۔“

اشرف صاحب بولے۔

”اب وہ ادھر نہیں آئے گا۔“

ہم ایک جھونپڑے میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہاں بیٹھ کر چائے بنا کر پی گئی۔

بونہڑی کا فرش اور دیواریں کچی تھیں مگر بڑی صاف ستھری تھیں۔ دیوار پر شیشے میں جڑی

دلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی تھی۔ انہوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔

اُسے پینے کے بعد اشرف صاحب نے کہا۔

”ہم یہاں کم از کم تین گھنٹے سوئیں گے۔“

وہ سب جھونپڑے کے اندر ہی گھاس پھوس کے بستر پر دراز ہو گئے۔ میں بھی

ایک طرف لیٹ گیا۔ سب سو گئے۔ مجھے بھی نیند آ گئی لیکن مجھروں نے مجھے جگا دیا۔ میں

ٹھک کر باہر آ گیا۔ باہر سنہری دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں جھونپڑے کے پیچھے بانس اور ناریل

کے درختوں میں بچنے لگا۔ بڑی شفاف ہوا تھی۔

جنگل کی رات کی خاموشی میں دور سے سنائی دیتی شیر کی دھاڑ آج بھی میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔

میرا دل خوف کے مارے زور سے دھڑکنے لگا۔ اشرف صاحب نے ہلکی سی سیٹی

بجا کر جھانگیر اور بانا کو خبردار کیا جو ہماری دائیں جانب گھاس کے گٹھوں کے پیچھے بیٹھے

ہوئے تھے۔ اس طرف سے بھی کسی نے آہستہ سے سیٹی بجا کر جواب دیا کہ ہم نے شیر کی

دھاڑ سن لی۔ اس خیال سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی کہ شیر کسی وقت بھی پیچھے

سے آ کر ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایک نیزہ بردار جاگتی اس کا کیا مقابلہ کر سکے گا۔ اتنے میں

کھیت کی فصل میں دو آنکھیں اندھیرے میں چمکتی دکھائی دیں۔ اشرف صاحب نے نارچ

روشن کر کے ان آنکھوں پر مرکوز کر دی۔ میں نے بھی نارچ کا ٹن دبا کر اشرف صاحب کی

نارچ کی روشنی پر اپنی نارچ کی روشنی مرکوز کر دی۔ دوسری جانب سے جھانگیر اور بانا کی

نارچیں بھی روشن ہو کر کھیت میں چمکتی آنکھوں پر مرکوز ہو گئیں۔

اشرف صاحب تجربہ کار شکاری تھے۔ سرگوشی میں بولے۔

”یہ شیر کی آنکھیں نہیں ہیں۔“

میری جان میں جان آئی کہ شیر نہیں آیا ہے۔ اشرف صاحب نے مجھے سرگوشی

میں کہا۔

”نارچ بند کر دو۔“

میں نے نارچ کی روشنی بند کر دی۔ اشرف صاحب نے بھی اپنی نارچ کی روشنی

بجھادی۔ اس کے فوراً بعد جھانگیر اور بانا کی نارچیں بھی بجھ گئیں۔ چاروں طرف سناٹا اور

اندھیرا تھا اور کسی تالاب سے جھینگر کی آواز آرہی تھی۔ شیر کی دھاڑ اس کے بعد دوبارہ سنائی

نہیں دی تھی۔ اشرف صاحب نے مجھے آہستہ سے کہا۔

”کھیت میں یہ کوئی گیدڑ تھا جو گائے کی لاش کھانے آیا تھا۔“

ہم دیر تک بت بنے بیٹھے رہے۔ چمھرنگ کر رہے تھے۔ کوئی چمھر میری گردن یا

ساتھ رہ بیٹھتا تو میں اسے ہاتھ سے اس طرح اڑا دیتا کہ آواز بیدانہ ہو۔ آسمان صبح کا نور

سانپ کینچلی کے اندر سے نکل گیا ہے اور کینچلی باقی رہ گئی ہے۔ اشرف صاحب کے ایک نوکر نے کینچلی سمیٹ کر رومال میں باندھ لی۔ کہنے لگا۔

”اس کا سرمہ آنکھوں کے لئے بڑا مفید ہوتا ہے۔“

اس طرح ہم کچھ دن جنگلوں میں پھرتے رہے مگر کوئی شیر نہ ملا۔ ساتویں روز ہم بمبئی کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمارے رنگ سانولے ہو گئے تھے۔ خدا خدا کر کے بمبئی شہر میں داخل ہو گئے۔

ورکشاپ میں آ کر مجھے ایک ملازم نے بتایا۔

”تمہاری والدہ تمہیں لینے بمبئی آئی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا وہ سب لوگ شکار کھیلنے گئے ہوئے ہیں۔“

والدہ صاحبہ اپنے بھانجے اور میرے بڑے خالہ زاد بھائی کے ساتھ مجھے لینے بمبئی آئی تھیں۔ وہ ورکشاپ میں اپنا انڈریس دے گئی تھیں۔ میں آپوبھی کے آنے کا سن کر بے تاب ہو گیا اور اسی وقت ٹیکسی لے کر والدہ صاحبہ جہاں ٹھہری ہوئی تھیں وہاں پہنچ گیا۔ والدہ نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا۔

”چلیں واپس امرتسر چلتے ہیں۔ میں اب یہاں نہیں رہوں گا۔“

بھانجے صاحب نے کہا۔

”بھائی ہم بمبئی آئے ہیں تو ایک دو دن یہاں کی سیر ہی کر لیں۔“



ہوا میں طرح طرح کے پودوں، درختوں اور جنگلی پھولوں کی خوشبو تھی۔ میں ایک جگہ گل مہر کے زرد پھول دیکھے۔ اس سے پہلے میں نے گل مہر کے سرخ پھول دیکھے تھے۔ پھولوں پر شبنم کے موتی دھوپ میں چمک رہے تھے۔

گھاس بھی رات بھر کی اوس میں بھیگی ہوئی تھی۔ ایک جگہ تین چار کیلے درخت ساتھ ساتھ اگے ہوئے تھے۔ ان کے پتوں کے درمیان زرد گیلوں کے گچھے رہے تھے۔ میں دو تین کیلے توڑ کر کھانے لگا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیلے تھے اور ان ہاری ہری چھال والے کیلوں کی خوشبو نہیں تھی مگر ٹیٹھے بڑے تھے۔

کافی دیر بعد شکاری لوگ سو کر اٹھے۔ وہاں ہم سب نے ناشتہ کیا۔ سوکھی چھال لوگ ساتھ لائے تھے جسے وہاں بھونا گیا۔ ناشتے کے بعد یہ شکاری پارٹی واپس اسی جگہ جہاں ہماری جینٹیں کھڑی تھیں۔ ایک ہی رات میں جنگل کے چمھروں نے مجھے بددل کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ اب واپس بمبئی چل پڑیں گے لیکن وہ جھپوں میں بیٹے دوسرے جنگل کی طرف چل پڑے۔

دو پہر تک ہم لوگ جنگلوں میں پھرتے رہے۔ اشرف صاحب اور جہانگیر ایک جنگلی بکرے کا شکار مارا اور وہیں اسے ذبح کر کے آگ جلا کر بھونا گیا اور دو پہر کا کھایا۔ اس کے بعد پھر یہ پارٹی آگے روانہ ہو گئی۔ جینٹیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ اب رینجھ کا شکار کیا گیا جس کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔

کئی پرندے بھی شکار کئے۔ رات آ گئی۔ رات کو وہیں جنگل میں ایک جگہ لیٹ گئے۔ دو ملازم بندوقیس لے کر باری باری رات کو پہرہ دیتے رہے۔ صبح چھ ماہ مرغابیاں مار کر ان کا ناشتہ کیا گیا۔ شیر کہیں نہ ملا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن بھی جنگلوں میں گھومتے پھرتے اور چھوٹا شکار کرتے گزر گیا۔

کہیں کوئی چشمندہ آ جاتا تو سب وہاں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھوتے۔ تھوڑا آرام کر اور پھر شیر یا کسی چیتے کی تلاش میں آگے چل پڑتے۔ ایک جگہ درخت کی ٹہنی پر میں سانپ کی کینچلی دیکھی۔ وہ بالکل سانپ کی طرح ٹہنی سے چٹی ہوئی تھی۔ صاف لگا تھا

لاہور کے ایک فلم سٹوڈیو میں جب میں نے پہلی بار گلوکارہ زبیدہ خانم کو دیکھا تو حیران ہوا۔ زبیدہ خانم کی شکل اپنے والد صاحب کی ہو بہو کاٹی تھی۔

اصفہانی چائے کمپنی کا اسٹنٹ منیجر ہمارے والد صاحب کا دوست تھا۔ والد جب نے انہیں کہا کہ حمید میٹرک پاس کرنے کے بعد آوارہ پھر رہا ہے۔ اسے چائے بنی کے دفتر میں کہیں ملازم کرا دو۔ اس طرح کام پر لگ گیا تو سیدھا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسٹنٹ منیجر صاحب نے مجھے اصفہانی چائے کمپنی میں بطور سیلز مین ملازم رکھوا دیا۔ میری بیٹی یہ تھی کہ سائیکل کے پیچھے چائے کا چھوٹا کریٹ رکھ کر شہر کے ہوٹلوں میں جاؤں۔ ان چائے کے آرڈروں اور انہیں چائے سپلائی کروں۔

مجھے یہ نوکری بڑی اچھی لگی کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے سارے شہر کی سیر کرنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اصفہانی چائے کمپنی کے پاس تین چار برانڈ کی چائے تھی۔ ایک ریڈ ہٹ تھی۔ ایک گرین سپاٹ تھی اور ایک ماؤنٹین بوکے تھی۔

ماؤنٹین بوکے اصفہانی کی اعلیٰ کوالٹی کی چائے تھی۔ مجھے اس برانڈ کی خشک ہائے کی خوشبو اور اس کی دم کرنے کے بعد کی خوشبو آج تک یاد ہے۔ اصل میں یہی وہ خوشبوئیں ہیں جو میری روح کو توانائی اور میرے جسم کو زندہ رہنے کی طاقت بخشتی ہیں۔ اگر ملتی چائے، اعلیٰ سگریٹوں اور سرخ گلابوں، سفید موتیا اور گرمیوں میں منہ اندھیرے بانگوں سے گزرنے والی نہروں کی مرطوب خوشبوئیں نہ ہوتیں تو پتہ نہیں میرا کیا حال ہوتا۔ زندہ تو میں ضرور رہتا لیکن معلوم نہیں کس حال میں زندہ ہوتا۔

اتنا ضرور ہے کہ ان خوشبوؤں اور خوبصورت چہروں اور اس موسیقی اور شارٹ فلموں کے رومان انگیز نغمہ نگاروں اور اقبال کی شاعری کے بغیر میری زندگی جس دوام اور نازداریاے شور کی زندگی ہوتی۔

مجھے اصفہانی چائے کمپنی میں سیلز مین کی نوکری مل گئی تھی۔ اس نوکری سے میں بڑا دلگاہ کیا کیونکہ مجھے سائیکل پر سوار ہو کر مسلسل امرتسر کے بازاروں وغیرہ میں گھومنا پھرنا پڑتا تھا۔ لہذا یوں میری آوارہ گردی کا شوق پورا ہو جاتا تھا۔ مختلف برانڈ کی چائے کے ایک ایک

مگر میرے اصرار پر ہم دوسرے دن ہی بمبئی سے امرتسر واپس چل پڑے۔ والدہ اشرف صاحب کا شکر یہ ادا کرنے ان کی بیگم صاحبہ کے پاس بھی گئیں۔ اشرف صاحب نے بانا کو گاڑی دے کر ہمیں شیشین پر پہنچایا اور جب تک ٹرین نہ چلی بانا پلینڈ فارم پر کھڑا رہا۔

یوں بمبئی کی میری پہلی یا تڑا انتقام کو بچی۔ اس کے بعد کے اپنے بمبئی کے منہ کے حالات آگے چل کر بیان کروں گا جب مجھے دودن کا فائدہ آ گیا تھا اور تانی یاد آگئی تھی ابھی میں آپ کو اپنے ایک اور دلچسپ سفر کا حال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بمبئی سے میں والد کے ساتھ امرتسر پہنچا تو والد صاحب نے بڑا لحاظ کیا اور میری بالکل ٹھکانی نہ کی۔ لیکن انہوں نے مجھے ایک جگہ پھنسا دیا۔

ہال بازار ہمارے امرتسر والے مکان سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ بازار میں عبدالغفار پیٹنر کی دکان کے بالکل سامنے والی عمارت کی دوسری منزل اصفہانی چائے کمپنی کا دفتر تھا۔ پہلے یہ سن لیجئے کہ عبدالغفار پیٹنر بڑے خاموش طبع اور دل انسان تھے۔ بڑا سا بورڈ سامنے رکھے وہ رنگ روغن سے اس پر اردو یا انگریزی حرام کے خاکوں میں زرد اور سرخ رنگ بھرا کرتے تھے۔ اردو املا وہ بڑی خوبصورت لکھتے تھے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی فلم انڈسٹری میں جس خاتون گلوکارہ نے گھریلو جسم کی سریلی آواز میں بڑے کامیاب فلمی گیت گائے اس کا نام زبیدہ خانم عبدالغفار پیٹنر زبیدہ خانم کے والد صاحب تھے۔

پلائی کی جاتی تھی۔
کبھی کبھی چائے کمپنی کے ہال بازار والے آفس میں چھ سات بوڑھے لمبے لمبے
نے پہنے آتے تھے۔ یہ لوگ تاجکستانی اور یارقدی ہوتے تھے۔ گورے اور سرخ اور
ہی آنکھوں والے۔ ہنستے تھے تو آنکھیں رخساروں میں چھپ جاتی تھیں۔ یہ بوڑھے
نے مختلف برانڈ کو پلینڈ کرنے کے ماہر تھے۔ وہ ایک لمبی میز کے آگے سامنے کھڑے
باتے۔ میز پر چھوٹی چھوٹی چینی کی پیالیاں جن کو فیجان کہتے ہیں پڑی ہوتیں۔

ہر پیالی کے پاس ایک سفید کاغذ ہوتا۔ ایک پنسل بھی رکھی ہوتی۔ کاغذ پر نمبر شمار
نا ہوتا۔ دوسرے کاغذ میں مختلف برانڈ کی چائے کی چھوٹی چھوٹی ڈھیروں لگی ہوتیں۔ ہر
یک یا یارقدی بزرگ مختلف ڈھیروں میں سے تھوڑی تھوڑی سوکھی چائے پیالی میں ڈال
اوپر سے گرم پانی ڈالتا۔

پیالی پر پرج رکھ کر اسے دم آنے کے لئے ایک منٹ دیتا۔ پھر پرج اٹھا کر پیالی
ڈال کے ساتھ لگا کر چائے کا ایک چھوٹا سا گھونٹ منہ میں لیتا۔ منہ کے اندر ہی اندر
ع اور ادھر دو تین بار گھماتا۔ پھر نیچے ٹین کے ڈبے میں کلی کرتے ہوئے پھینک دیتا۔
سفید کاغذ پر فارسی زبان میں اپنے تاثرات درج کر دیتا کہ اس پلینڈ میں یہ خوبی ہے اور
ناہے۔ میں ان تاجیک اور یارقدی بزرگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے لگتا
یہ چائے کے قریبی رشتے دار ہیں اور اس سے ملنے بڑی دور سے آتے ہیں۔

مسلم امرتسر کے کمپنی باغ میں ٹھنڈی کھوئی والی سڑک کا نام ہال روڈ تھا۔ یہ کمپنی
ٹائرس سے گزرتی تھی اور اس پر ہفتے میں ایک بار ہی کوئی تانگہ یا سائیکل سوار دکھائی دیتا
۔ ٹھنڈی کھوئی سے آگے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کا چوک تھا جس میں سے ایک سڑک
لوہام کے قصبے کی طرف نکل جاتی تھی۔

اس سڑک کا نام بھی چھٹھ روڈ تھا۔ اس سڑک کی دونوں جانب جامن کے گھنے
ختم تھے۔ ذرا آگے جا کر یہ سڑک بائیں جانب مڑ جاتی تھی جہاں سے کمپنی باغ والی نہر
ایک سڑک کی جانب چل پڑتا تھا۔ آگے امرتسر میڈیکل سکول تھا۔ امرتسر میڈیکل

پاؤنڈ کے ڈبے میری سائیکل کے پیچھے لکڑی کے کریٹ میں بھرے ہوتے اور مل ٹر
ہونٹوں میں چائے پلائی بھی کرتا اور ان سے نئے آرڈر بھی لیتا۔

ایک خوشی یہ بھی تھی کہ اس طرح مجھے چائے کے ساتھ رہنے کا موقع مل جاتا
چائے کا گودام ہمارے محلے میں پہلے ہسپتال کے پیچھے تھا۔ دو سیلز مین اور بھی تھے
گورکھا لڑکا تھا اور ایک ہندو لڑکا تھا جو سینا پور کا رہنے والا تھا۔ مال لینے جب میں
کے گودام میں جاتا تو فضا سوکھی چائے کی مہک سے لبریز ہوتی تھی۔

میرا دل گودام سے باہر نکلنے کو نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا کہ سارا دن گودام
ہی چائے کے ڈبوں کے پاس بیٹھا رہوں۔ سبز چائے کی بوریاں بھی گودام میں تھیں۔
روز میں تھوڑی سی سبز چائے گھر لے گیا۔ آپو جی نے چائے کو پہلا ابالا دیا تو چائے کی
ایسے کھل گئیں جیسے ابھی ٹہنیوں سے توڑ کر پتلی میں ڈالی گئی ہوں۔ پانچ پانچ چوڑا
باریک ڈالیاں تھیں۔ اس چائے کی ابھی کٹائی نہیں ہوئی تھی۔ لالہ عبدالرحمن بھی وہاں
تھے۔ انہوں نے چائے کی کھلی ہوئی پچاس دیکھیں تو بولے۔

”یہ اصلی چائے ہے آپو جی۔“

پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

”یار میرے لئے بھی یہ چائے لا دے۔“

میں نے گودام سے دو پونڈ کے قریب سبز چائے چوری کی اور لالہ جی کو
دے دی۔ وہ بڑے خوش ہوئے اور چائے لے کر رکھ لی۔ اس کے علاوہ گودام میں
چائے کے بڑے ڈبے بھی ہوتے تھے۔ اس کو ڈسٹ چائے کہتے تھے۔ یہ چائے
زیادہ رنگی ہوئی ہوتی تھی۔

یہ چائے ہونٹوں میں پلائی کی جاتی تھی۔ یعنی چائے کی دکانوں کو پلائی کی
تھی جہاں کارنگ مزدور اور ڈرائیور آ کر چائے پیتے تھے۔ یہ چائے تیز اور سٹرائنگ
اور اس کا رنگ بڑی جلدی نکل آتا تھا۔ نوکر پیشہ اور مزدور لوگ جلدی میں ہوتے تھے
چائے کے دم آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ چائے لکڑی کے بڑے کھوکھوں میں

زردیک نہر پانی کا ایک نالہ ہوتا ہے جس میں نہا کر اسے گندا کیا جاتا ہے۔ اصفہانی چائے کھنی والوں نے مجھے ایک ہندو فیبر کے ساتھ پٹھان کوٹ بھیج دیا۔ وہاں کھنی کی جو برائج تھی وہ ٹھیک بزنس نہیں کر رہی تھی۔ مجھے خاک معلوم نہیں تھا کہ بزنس کیا ہوتا ہے۔

کھنی والے ایک مسلمان کو وہاں ضرور بھیجنا چاہتے تھے۔ اور ان کے نزدیک میں بڑا موزوں مسلمان تھا۔ میں اس لئے خوش تھا کہ مجھے پٹھان کوٹ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ پٹھان کوٹ کے آگے ڈلہوزی تھا۔ مگر میں وہاں نہیں جا سکا۔

پٹھان کوٹ کی سڑکیں کہیں سے اونچی تھیں اور کہیں سے گھاٹیاں نیچے کو اترتی تھیں۔ اس شہر میں پہاڑی شہروں کی جھلک تھی۔ سٹیشن چھوٹا سا تھا۔ نیچے گھاٹی میں ایک بستی تھی جس کے سفیدے کے درخت اوپر سڑک سے صاف نظر آتے تھے۔ پٹھان کوٹ میں دس پندرہ دنوں میں ہی میرا جی بھر گیا اور میں کسی کو بتائے بغیر امرتسر واپس آ گیا۔ امرتسر میں آتے ہی میں نے چائے کھنی کی ملازمت چھوڑ دی اور گھر سے بھاگ کر کلکتے چلا گیا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ کلکتے کی آوارہ گردی کے بعد امرتسر واپس آیا تو والد صاحب نے پہلے تو میری خوب مرمت کی پھر اپنے ایک دوست عبداللہ خان سے کہا کہ لڑکے کو کسی جگہ لگا دو۔ یہ آوارہ ہو رہا ہے۔

عبداللہ خان درمیانے قد کے مضبوط جسم والے بزرگ تھے اور امرتسر پٹھان کوٹ بس سروں کی سوسائٹی کے اعلیٰ عہدے دار بھی تھے۔ اور سوسائٹی میں ان کی چھ سات بستیں بھی تھیں۔ یہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور انگریزوں نے سرگودھا شہر سے چند میل دور دھپ سڑی کے مقام پر ایک ہوئی اڈے کی تعمیر شروع کر رکھی تھی۔

عبداللہ خان کشمیری تھے۔ انہیں ہوائی اڈے تک بجزی وغیرہ پہنچانے کا ٹھیکہ مل گیا تھا اور چھ سات لاریوں کی سٹیشیں باہر نکال کر انہوں نے لاریوں کو ٹرکوں میں تبدیل کر دیا تھا اور سردار خان نامی ایک سانولے رنگ کے اونچے لمبے دلچسپ شخص کو ڈرائیوروں کا نمبر بنا کر لاریوں کے ساتھ سرگودھا سے روانہ کرنے والے تھے۔

والد صاحب نے ان سے میری نوکری کی بات کی تو عبداللہ خان صاحب نے

سکول کے سامنے سڑک پر نہر والے سوئے کے اوپر چائے کا ایک بڑا کھوکھا ہوتا تھا۔ نہر کا پانی چائے کے کھوکھے یا دکان کے نیچے سے گزرتا تھا۔ یہ سوا پانچ گدلی اور ٹھنڈے پانی والی نہر مجھے بہت پسند تھی۔ میں چائے کے اس کھوکھے والا اصفہانی چائے سپلائی کرتا تھا۔ جس روز میں وہاں ڈسٹ چائے لے کر آتا تو نہر لوہے کی کرسی پر بیٹھ کر چائے ضرور پیتا تھا۔ ایسا ہی گد لے ٹھنڈے پانی والا سوا پانچ نہر لاہور میں گورنمنٹ ہاؤس والی سڑک کشمیر روڈ سے بانس کے درختوں والی سندروا کی طرف جائیں تو چوک میں ہوا کرتی تھی۔

1948-50ء میں یہ چھوٹی سی نہر اپنے جو بن پر تھی اور اس کے اوپر درخت جھکے ہوئے تھے۔ یہ نہر جب کشمیر روڈ سے ہوتی ہوئی چوک میں پہنچتی تھی والی سڑک کے نیچے سے ہو کر آگے بانسوں والی سندروا روڈ پر نکل آتی تھی۔ سندروا روڈ پر اس چھوٹی نہر پر آم کے درخت جھکے ہوئے ہوتے تھے۔ سڑک کی جانب بانس کے جھنڈے جھکے ہوئے ہوتے تھے۔

اس سڑک پر کبھی کبھار ہی کوئی تاکہ وغیرہ گزرتا تھا۔ سارا دن سڑک نا رہتی تھی۔ اس سڑک پر سے گزرتے ہوئے یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل میں سے آ رہے ہیں۔ آج اس سڑک کا جنگل غائب ہو گیا ہے اور سڑک پر گاڑیوں، سکوتروں، اتنی ٹریفک ہوتی ہے کہ آدمی پیدل نہیں گزر سکتا۔ اس کے کنارے والی نہر بھی غائب ہے یا کسی جگہ سے نظر بھی آتی ہے تو اس کے پانی میں پلاسٹک کے لفافے اور کوڑا آ رہا ہوتا ہے۔

مسلم امرتسر والی نہر بھی بالکل ایسی ہی اور چھوٹی سی تھی اور آج وہ بھی سکھوں کے ہجوم میں غائب ہو گئی ہوگی۔ نہروں کی قدر امرتسر کے مسلمانوں کو تھی ان کے کناروں پر بیٹھ کر اس کی بہاؤ دیکھا کرتے تھے۔

امرتسر کے ہندو بیوپاری تھے اور ہر وقت بیوپار کے حساب کتاب بنا رہتے تھے۔ امرتسر کے سکھ زیادہ تر مزدور پیشہ اور لکڑی کا کام کرنے والے تھے۔

نہیں۔ اپنے خیر خواہوں سے نہیں۔

یہ موسم، یہ بارشیں، یہ سردیوں کی دھند اور گرمیوں کی تپش اور چلچلاتی دوپہروں کی لو۔ یہ سب میرے دوست تھے اور میرے دوست ہیں۔ میرے خیر خواہ تھے اور آج بھی میرے خیر خواہ ہیں۔ یہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ انہوں نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا۔ انہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے۔ مجھ پر اتنا اتنا قرض چڑھا دیا ہے کہ میں ساری زندگی اس قرض کو نہیں اتار سکوں گا۔

سرگودھا شہر مجھے بڑا اچھا لگا۔ مختصر سا شہر تھا۔ آبادی مناسب تھی۔ آس پاس بڑے درخت تھے۔ سبزہ تھا۔ اس زمانے میں سرگودھے کا صابن اور سرگودھا کے مالٹے بڑے مشہور تھے۔ شہر کا ایک بڑا بازار تھا۔ یاد نہیں اس بازار کا نام کیا تھا۔ شاید ریل بازار تھا یا پکھری بازار تھا۔ کافی کشادہ بازار تھا۔ اس بازار میں ایک زمیندار ہوٹل ہوتا تھا۔ شاید اب بھی ہو۔

سرگودھا پہنچنے کے بعد ہم سب نے اس ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اصلی دیسی کھی میں بھنے ہوئے مرغ کا بے حد لذیذ سالن تھا۔ تندوز کی گرم گرم اعلیٰ آٹے کی روٹیاں تھیں۔ جن میں سے باداموں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد سردار خان اور دوسرے ڈرائیور حقہ لے کر بیٹھ گئے۔ چلم میں خاص دیسی سوکھا ہوا تمباکو گڑ ڈال کر بھرا ہوا تھا۔ اس کی دھوئیں کی خوشبو مجھے بے حد اچھی لگی۔ ایک دوکس میں نے بھی لگائے لیکن تمباکو بڑا سخت تھا۔ میں نے پائنگ شوکا سگریٹ نکال کر سلگا لیا۔ پائنگ شوڈل کلاس کا بڑا ٹریفک اور مدبر اور سفید پوش سگریٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کے تمباکو کی خوشبو اور ذائقہ ہی سب سے الگ تھا۔ دوسرے روز میں منہ اندھیرے اٹھ کر ریلوے پھانک کی دوسری طرف کھیتوں میں سیر کرنے نکل گیا۔ خوب سردی بڑھ رہی تھی۔ کہیں کہیں کھیتوں میں دھند بھی پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے سرگودھا کے یہ کھیت اور دھند بڑی اچھی لگی۔ میں کھیتوں میں سیر کرتا دور تک چلا گیا۔

آگے باغ اور اونچے اونچے پوکلیس اور ٹاہلیوں کے درخت شروع ہو گئے۔ یہ

مجھے سردار خان کے ساتھ اسٹنٹ منیجر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ایک روز ہم چھ سات لاریوں کو لے کر امرتسر سے سرگودھا روانہ ہو گئے۔ سرگودھا شہر میں ریلوے پھانک کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا میدان تھا۔ سرگودھا پہنچ کر ہم نے لاریاں اس میدان میں ایک طرف قطار میں کھڑی کر دیں۔ یہاں ریلوے پھانک کے پاس ایک کافی کھلا گودام ٹائپ کا کمر خالی پڑا تھا۔ یہاں پانچ ڈرائیوروں نے چار پائی ڈال کر اپنے بستر لگا دیئے۔ ار کمرے میں ایک طرف میں نے بھی اپنا بستر لگا دیا۔ یہ میرا صبح کی سیر اور قدرت کے نظاروں سے محبت کرنے کا عروج کا زمانہ تھا۔

میں بلا ناغہ صبح کی سیر کو جایا کرتا تھا۔ صبح کی سیر میں اپنی صحت ٹھیک رکھنے کے لئے نہیں کرتا تھا۔ میری صحت پہلے ہی ضرورت سے زیادہ ٹھیک تھی۔ صبح کی سیر میں مرزا پھلے پہر کے آسمان پر پھیکے پڑتے ستاروں، شبنم کے موتیوں جڑے پودوں اور پھولوں اور مشرقی افق سے رنگ و نور کی کرنیں لٹاتے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنے کے لئے کیا کرتا تھا۔

یہ سردیوں کا موسم تھا۔ سرگودھے میں بڑی سردی تھی۔ مگر میں صبح کو صرف ایک قمیص اور پاجامہ پہن کر سیر کرنے جاتا تھا۔ یہ میری شروع سے ہی عادت تھی۔ میں کبھی پراونی ٹوپی پہن کر، گلوبند لپیٹ کر اور سویٹر اور جرائیں پہن کر سیر کرنے نہیں گیا تھا۔ سویٹر اور اونی ٹوپی پہن کر سردی سے بچنے کے جرم کا ارتکاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں سراسر کو کھلے جسم اور کھلے دل کے ساتھ ملنا چاہتا تھا اور مجھے دسمبر میں بھی صبح کی سیر کرتے ہو۔ کبھی سردی نہیں لگی تھی۔

بدلتے موسم، گرمیوں کی لو، برسات کی بارش اور سردیوں کی دھند اور کھرا میر قبیلے کے لوگ تھے۔ میرے اپنے خاندان کے افراد تھے۔ میرے اپنے بہن بھائی تھے۔ مجھے ان سے بچنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک شخص سے محبت کروں اور اس سے پچتا بھی پھروں اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی بھی کوئی کروں۔ آدمی اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے دوستوں

پھلدار باغ تھے۔ شاید مالٹوں کے باغ تھے۔ درختوں کی ٹہنیوں کو ذرا سا ہاتھ لگا تا تو یہ شبنم کے قطرے ٹپکنے لگتے۔ میں نے چلو میں شبنم بھر کر اپنی آنکھوں سے لگائی اپنے چہرہ پر لگائی تو میری آنکھیں اور چہرہ پہلے تو برف کی طرح بگ ہو گیا۔ پھر گرم ہو گیا اور اس بار سے سینک اٹھنے لگا۔ آہ! یہ نیچر کی پارسائی تھی۔ پاکیزگی تھی۔ یہ میرے لئے قدرت کا بہا انعام تھا۔ میں ایسے خوش ہوا جیسے مجھے دونوں جہان کی دولت مل گئی ہو۔ یہ وہ خوشی تھی دنیا کی ساری دولت دے کر بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ جو مجھے نیچر کی طرف سے مفت رہی تھی۔ واپس آ کر میں بڑے کمرے کے باہر نلکے کے نیچے بیٹھ کر نہانے لگا۔ چھٹی اٹنی پنی بی ایل 2638 کے ڈرائیور نے اتنی سخت سردی میں مجھے باہر نلکے کے نیچے بیٹھ کر نہا ہونے دیکھا تو کہنے لگا۔

”خدا کا خوف کرو۔ اتنی سردی میں نہا رہے ہو۔ نمونیا ہو جائے گا۔“

میں سوچنے لگا سخت سردی میں ساری رات گلاب کا پھول شبنم میں شرابور ہے۔ اسے نمونیا کیوں نہیں ہوتا؟ کوئی چیز ہے جو اسے زندہ رکھتی ہے۔ بس مجھے اسی چیز تلاش تھی اور آج بھی اس چیز کی تلاش ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد میں نے زمیندارہ ہاٹ میں جا کر ناشتہ کیا اور سردار خان کے پاس چلا گیا۔ سردار خان زمیندارہ ہاٹ کے ابا کمرے میں رہتا تھا جو ہاٹ کے بالکل سامنے والی گلی کی عکڑ پر ایک چوہا رہا تھا۔ برا خان سواری رنگ کی مٹل کے لحاف میں دبا حلقہ پی رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک رجسٹر دے ہوئے کہا۔

”آج دوپہر کے بعد ہماری لاریاں ائرپورٹ پر بھری ڈھونی شروع کر دی گی۔ میرا خیال ہے شام تک ہر ایک گاڑی چار پانچ چکر ضرور لگائے گی۔ تم ایک تو مٹا اپنے سامنے لاریوں میں پٹرول ڈلو کر نوٹ کر لیا کرو کہ کتنا پٹرول ڈالا گیا ہے اور پھر پٹرول کو ہر لاری کے ڈرائیور سے حساب لینا کہ کتنے چکر لگائے ہیں اور کتنا پٹرول خرچ ہے۔“

اس وقت تو مجھے یہ کام ایک مصیبت معلوم ہوا لیکن بعد میں اس کا عادی ہو گیا۔ اور معلوم ہوا کہ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ میں رجسٹر لے کر پٹرول پمپ پر کرسی ڈال کر بیٹھ جاتا اور نوٹ کرتا جاتا کہ لاریوں میں کتنا پٹرول ڈالا گیا ہے۔ پھر شام کو ہر ایک ڈرائیور کے پاس جا کر چیک کرتا کہ اس نے کتنے پیمبرے لگائے ہیں اور کتنا پٹرول خرچ ہوا ہے۔ سارے ڈرائیور ایک جگہ نہیں رہتے تھے۔ چار ڈرائیور تو میدان والے کمرے میں رہتے تھے۔ باقی ڈرائیور زمیندارہ ہاٹ کی سامنے والی گلی کے ایک چوہا رہتے تھے۔ یہ چوہا کرائے پر لیا گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہر ڈرائیور اپنی طرز کی ایک الگ چیز تھی۔ لاری نمبر پی بی ایل 3512 نئی لاری تھی اور اس کا نوجوان ڈرائیور بھی بڑا شوقین مزاج تھا۔ پتلون کوٹ پہنتا تھا اور ریٹھی مفلر گلے میں لپیٹا ہوتا تھا۔ بالوں میں خوشبو داریل لگا کر ماتھے پر بالوں کا ایک چھلا ضرور بنا لیتا تھا۔ چھٹی اٹنی یعنی پی بی ایل 2638 پرانی اور تباہ حال لاری تھی۔

اس کا ڈرائیور بھی بوڑھا اور دبلا چلا تھا۔ اور کھڑکھڑ کرتا تھا۔ ایک روز شام کو ساری لاریاں ائرپورٹ پر بھری اور پتھروں کی روڑی پھینک کر آگئیں مگر چھٹی اٹنی کا نہ ڈرائیور آیا اور نہ اس کی لاری ہی آئی۔ سب کو فکر لگا کہ آدمی بوڑھا اور کمزور ہے۔ گاڑی بھی بوڑھی اور کمزور ہے۔ کہیں کوئی حرج مرجع نہ ہو گیا ہو۔ پہلے تو کچھ دیر انتظار کیا مگر جب رات ہو گئی تو سردار خان نے میری ڈیوٹی لگائی کہ پینتیس بارہ (3512 پی بی ایل) کو لے جاؤں اور دیکھوں کہ چھٹی اٹنی کو کہیں کوئی حادثہ تو نہیں پیش آیا۔

کیکر کی شاخیں اور چٹیاں شبنم میں تر بہ تر تھیں۔ میرا جی واپس سرگودھا جانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ یہی دل چاہتا تھا کہ اس ہیرے جو اہرات والی نہر کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف چلتا چلا جاؤں اور اس فردوس ارضی تک پہنچ جاؤں۔ جہاں جہاں قدرت کا دریا دل جوہری اس نہر میں ہیرے جو اہرات کے انمول خزانے لٹا رہا تھا۔ لیکن پینتیس بارہ کے ڈرائیور نے ہارن دے کر مجھے میرے خواب ارضی سے جگا دیا۔

شبنم میں بھیگی ہوئی، سرد خاموش رات نے آسمان پر ستاروں کے زرد جو اہر کا خزانہ کھول رکھا تھا۔ قدرت کے اس حسین منظر سے جدا ہونے کو میرا دل نہیں چاہتا تھا مگر مجھے جدا ہونا پڑا۔ خراب گاڑی پی بی ایل 2638 کو ہم اپنی گاڑی کے پیچھے باندھ کر اڈے پر لے آئے۔

کبھی کبھی مجھے دن کے وقت کسی نہ کسی گاڑی میں بیٹھ کر چیکنگ کے لئے زیر تعمیر اڑپورٹ پر جانا پڑتا تھا۔ اڑپورٹ پر بڑے زور شور سے کام ہو رہا تھا۔ کہیں رن دے پر بجری بچھائی جا رہی تھی۔ کہیں بڑے بڑے ٹرکوں کے ذریعے رن دے پر سالہ ڈال کر اسے کارپٹ کیا جا رہا تھا۔

مزدوروں میں کہیں کہیں محنت کش دیہاتی خواتین بھی کام کرتی نظر آ جاتیں۔ میں ان عورتوں کی جھانسی پر بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ کس طرح بجری کی بھری ہوئی ٹوکریاں اٹھا اٹھا کر رن دے پر ڈال رہی ہیں۔ میرے دل میں ان کے لئے بڑے احترام کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔

موسم سردیوں کا تھا۔ ایک دن میں اپنے ایک ڈرائیور کی ٹرک نما گاڑی پر سوار اڑپورٹ سے واپس آ رہا تھا کہ دور سے مجھے سڑک کے کنارے پھلاہی کے درختوں کے نیچے ایک اونٹ بیٹھا نظر آیا۔ اس کے اوپر سوکھی لکڑیوں کا سٹکولدا ہوا تھا۔ ہمارا ٹرک معمول کی رفتار سے سڑک پر جا رہا تھا کہ اس اونٹ پر ڈرائیور کی نظر پڑ گئی۔ اس نے گاڑی کی سپینڈ کم کی اور اسے کچا سڑک سے اتار کر کچے پر لے آیا اور گاڑی اونٹ سے ذرا قریب کھڑی کر دی۔ میں نے پوچھا۔

میں نے لاری پکڑی۔ ڈرائیور کو لیا اور رات کے اندھیرے میں دھب سڑی طرف چل پڑا۔ یہ سڑک اگرچہ کچی تھی مگر چھوٹی سی تھی اور دن کے وقت سنسان ہوتی تھی رات کو تو وہاں الو بھی بولتے ہوئے ڈرتا تھا۔ ڈرائیور گاڑی آہستہ چلا رہا تھا اور ہم رات میں ادھر ادھر دیکھتے جا رہے تھے۔ سڑک پر کوئی جی بھی نہیں تھی۔

رات بڑی تاریک اور سرد تھی۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی تھی۔ شاید کہرا بھی پڑا تھا۔ اس زمانے میں موسم بڑے شدید ہوا کرتے تھے۔ اور سرگودھا میں کچھ زیادہ ہی ٹھنڈ پڑتی تھی۔ ہم نے لاری کے شیشے جڑھا رکھے تھے مگر لاری کا پچھلا دروازہ غائب تھا۔ بالکل ٹرک کی طرح تھی اور پیچھے سے ہمیں سردی ہوا کے پھانڈے پڑ رہے تھے۔ دس گیارہ میل ہم سڑک پر نکل گئے۔ دائیں بائیں کیکر اور ٹاہلیوں کے درخت سائیں سائیں کر رہے تھے۔ آخر ایک جگہ ہمیں ایک گاڑی نظر آئی۔ گاڑی کچی سڑک سے اتر کر کچے میں چھوٹی نہر یعنی سوئے کے کنارے کھڑی تھی۔ گاڑی پر ہماری لاری کی روشنی پڑی تو ڈرائیور نے کہا۔

”چھبی اٹھتی کھڑی ہے۔“

ہم لاری ایک طرف روک کر گاڑی کے پاس گئے۔ یہ اپنی گاڑی تھی۔ کمزور اور بوڑھا ڈرائیور اگلی سیٹ پر کبل میں کھڑی بن کر سو رہا تھا۔ ہم نے اسے جگایا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کہنے لگا۔

”گاڑی کی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے۔“ ہم اپنی لاری میں احتیاط کے طور پر ایک رما لے گئے تھے۔ دونوں ڈرائیور رسا نکال کر گاڑی کے پیچھے باندھنے لگے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میرے خدا! اتنے چکلیے، موٹے موٹے، نیلے سرخی مائل اور سفید ستارے میں نے زندگی میں شاید کبھی نہیں دیکھے تھے۔

میں نے ڈرائیوروں کو وہیں چھوڑا اور نہر کے کنارے چلا گیا۔ فضا شفاف تھی۔ جیسے میرے اور ستاروں کے درمیان کوئی شے حائل نہ ہو۔ نہر کے پانی میں ستاروں کا عکس پڑ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے نہر میں ہیرے جو اہرات کا خزانہ لٹا دیا ہو۔

ہارنے لگی۔ پھر وہ چلتی چلتی ہماری چارپائی کے قریب آگئی۔ تھیلے کو نہ جانے کیا سوچھی۔
اس نے چادر اتار دی اور اپنے کلیئر کو آواز دی جو کوٹھڑی میں تھا۔
”پھو کے۔ باہر آؤ۔ جلدی۔“

میرے دیکھتے دیکھتے ڈرائیور چارپائی سے اترا۔ بکری چارپائی کی پائنتی کی طرف
آئی تھی۔ ڈرائیور نے ایک دم سے بکری کو گردن سے دوچا اور گھسیٹتا ہوا کوٹھڑی کی طرف
لے گیا۔ اس کا کلیئر بھی باہر آ گیا۔ تھیلے ڈرائیور نے کلیئر سے کہا۔
”اسے پیچھے سے اٹھاؤ۔“

اور وہ بکری کو ڈنڈا ڈولی کر کے کوٹھڑی کے اندر لے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ
ڈرائیور اس قسم کی حرکتیں کرتے ہی رہتے تھے۔ میں چارپائی پر ہی دھوپ میں بیٹھا رہا۔
کوٹھڑی میں سے بکری کے بلبلانے کی دلدوز آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔
جیسے کسی نے بکری کا منہ بند کر دیا ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور تھیلا صاحب
بڑے اطمینان سے کوٹھڑی سے نکلے اور میرے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے۔

میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس
سے کچھ پوچھنا بیکار تھا۔ اتنے میں ریلوے لائن کی طرف سے ایک بکر دان چھڑی ہاتھ میں
بکڑے بکری کی تلاش میں اس طرف آ گیا۔ اس نے ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو
پوچھا۔

”میری بکری تو ادھر نہیں آئی۔“

ڈرائیور تھیلے نے بڑا معصوم سا منہ بنا کر لٹی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔

”ہم نے تو ادھر کوئی بکری نہیں دیکھی۔“

بے چارا بکر دان مایوس سا چہرہ لے کر واپس چلا گیا۔ جیسے ہی وہ ریل کی پٹری
کادھری جانب لگا ہوں سے اوجھل ہوا ڈرائیور تھیلا ایک دم سے اٹھا اور بولا۔

”یا میرے مولا!“

یہ کہہ کر وہ کوٹھڑی میں گھس گیا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میں دھوپ

”گاڑی یہاں کس لئے کھڑی کی؟“

اس گاڑی کا ڈرائیور بڑا خاموش طبع تھا اور بڑی مسکین طبیعت والا تھا۔ اس نے
کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی سے اتر کر دائیں بائیں دیکھا۔ اونٹ کا مالک کہیں نظر نہیں آ رہا
تھا۔ ڈرائیور نے کلیئر سے کہا۔

”ادھر آ کر تنگو کو ڈرا ہاتھ ڈالو۔“

اور میرے دیکھتے دیکھتے انہوں نے اونٹ کے اوپر سے سوکھی لکڑیوں کا تنگو اٹھایا
اور گاڑی کے پیچھے رکھ دیا۔ اس کے بعد ڈرائیور اپنی سیٹ پر آ گیا اور گاڑی کو کچے سے نکال
کر پکی سڑک پر لایا اور گاڑی دوبارہ اپنی معمول کی رفتار سے چل پڑی۔ میں نے ڈرائیور
سے کہا۔

”تم نے غریب اونٹ والے کی لکڑیاں چرا لی ہیں یہ اچھا نہیں کیا۔“

ڈرائیور نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی چلا
رہا۔

اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہماری لاریوں کے اڈے پر ہوا۔ ریلوے پھاٹک
کے پاس جس چھوٹے سے میدان میں ہماری لاریاں کھڑی ہوتی تھیں وہاں ایک ایک کافی
بڑی کوٹھڑی میں چار پانچ ڈرائیور رات کو سوتے تھے۔ کھانا وغیرہ بھی وہ وہیں پکاتے تھے۔
اس روز ڈرائیور کی پھیرے لگانے کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ وہ کوٹھڑی میں ہی تھے۔
دونوں ڈرائیور ایک دن پہلے پھیرے لگا چکے تھے۔ دن کے دس ساڑھے دس کا وقت ہو گا۔
میں رجسٹر ہاتھ میں لئے ان کے ڈیرے پر پٹرول کا حساب لینے گیا تو ایک ڈرائیور باہر
دھوپ میں چارپائی پر چادر کی بکلی مارے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔

میں اس کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ اس ڈرائیور کا نام کچھ اور تھا۔ سب لوگ
اسے تھیلا کہہ کر بلاتے تھے۔ تھیلے نے مجھے اپنی گاڑی کے پٹرول کا حساب لکھوایا اور سامنے
ریلوے لائن کی طرف دیکھتے ہوئے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔

اتنے میں ریل کی پٹری پر سے ایک بکری نیچے اتر کر جھاڑیوں میں ادھر ادھر منہ

میں جلدی جلدی پھیرے نوٹ کر کے باہر نکل آتا تھا۔ ایک اونچا لمبا دبلا پتلا ڈرائیور اردو پڑھتا لکھتا جانتا تھا۔ اس کو جاسوسی ناول اور رسالے پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں کوٹھڑی میں پھیرے نوٹ کرنے گیا تو وہ دیکھتے کوٹھڑی کی آگیشھی چارپائی کے قریب رکھے لائٹن کی روشنی میں بڑے انہماک سے کوئی رسالہ پڑھ رہا تھا۔ میں اس کی چارپائی پر بیٹھ گیا اور جھڑپوں کے پھیروں کا حساب لکھا اور پوچھا۔

”یہ کون سا رسالہ پڑھ رہے ہو؟“

ڈرائیور بولا۔

”عالگیر رسالہ ہے۔ اس میں ایک انگریزی کہانی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک انجن ڈرائیور کی کہانی ہے جو صبح صبح ٹرین لے کر دوسرے شہر جاتا ہے اور جب ٹرین اس کے کوارٹروں کے سامنے سے گزرتی ہے تو تین بار وصل دیتا ہے جس کو سن کر اس کے بچے مکان سے نکل کر دوڑتے ہوئے ٹرین کی طرف جاتے ہیں اور دور کھڑے اپنے بابا کو ہاتھ ہلاتے ہیں۔“

میں نے ابھی کہانیاں افسانے لکھنے شروع نہیں کئے تھے۔ لیکن کہانیاں پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ خاص کر انگریزی کہانیوں کے ترجمے ضرور پڑھتا تھا۔ مجھے ڈرائیور کا بیان کیا ہوا منظر بڑا اچھا لگا۔ ریل گاڑیاں دیکھنے کا ویسے بھی مجھے بڑا شوق تھا۔ کھیتوں کے درمیان سے چمک چمک کرتی گزرتی ریل گاڑی مجھ پر ایک طلسم سا طاری کر دیتی تھی اور میں اسے دیکھا رہ جاتا تھا۔

ریل گاڑی میں مجھے ایک رومانس کی کیفیت ملتی تھی۔ یہ سارا رومان کوٹے سے چلنے والے دیوپیکر انجن کی سیٹی کی آواز اور اس کی ہیبت ناک گڑگڑاہٹ میں تھا۔ جب یہ انجن سینہ تانے دھواں اڑاتا وصل پر وصل دیتا شاہانہ دبدبے کے ساتھ زمین کے سینے کو دھلاتا سامنے سے آکر گزر جاتا تو دل پر قدرت کی ہیبت اور جلال سا طاری ہو جاتا۔ اب ٹریل کے بدھکل بھدے انجنوں میں وہ بات، وہ رومانس کہاں۔

اب ریلوے انجن ایسے گزر جاتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی مشین گزر گئی ہو۔ وہ

میں وہیں بیٹھا رہا۔ چند لمحوں کے بعد مجھے بکری کے میانے کی ایسی بھیانک آواز سنائی کہ میں اپنی جگہ پر کانپ گیا۔ جلدی سے اٹھ کر کوٹھڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کلینر پوچھا۔

”کون ہو؟“

میں نے کہا۔

”میں ہوں۔“

اس نے دروازہ کھول دیا۔ اندر جو میں نے منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ڈرائیور نے بکری کو کھرے کے فرش پر گرایا ہوا تھا اور اس کی گردن پر چھری پھیر رہا تھا۔ کلینر جلدی سے دروازہ بند کر کھڑی لگا دی۔ تھیلے ڈرائیور نے کلینر سے کہا۔

”پانی ڈالو اوائے۔ پانی ڈالو اس کی گردن پر۔“

کلینر لوٹا اٹھا کر ذبح شدہ بکری کی گردن پر پانی ڈالنے لگا۔ لال لال خور کھرے میں پھیلا ہوا تھا۔ کوٹھڑی میں جو دوسرا ڈرائیور تھا وہ اپنی چارپائی پر لٹاف اوڑھے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا۔

”تھیلے سب سے پہلے مسجد کے مولوی صاحب کو گوشت بھیج کر ختم پڑھو لیتا۔“

تھیلے نے جواب دیا۔

”مولوی صاحب کا حق سب سے پہلے ہے۔“

دوسری جنگ عظیم بس ختم ہی ہونے والی تھی چنانچہ ہم سرگودھا کے اس زونیم انرپورٹ کو ادھورا چھوڑ کر لاریاں لے کر امرتسر واپس آ گئے تھے کیونکہ ہمارے وہاں ہونے ہوئے ہی جنگ ختم ہو گئی تھی۔ انگریز کا زمانہ تھا۔ شراب کھلے عام تھی مگر حیرت کی بات ہے کہ ان ڈرائیوروں میں سے کوئی بھی شراب نہیں پیتا تھا۔ دو تین ڈرائیور جس ضرور پینے تھے۔ کبھی کبھی میں رات کو سخت سردی میں اڈے والی کوٹھڑی میں پھیروں کا حساب نوٹ کرنے جاتا تو کوٹھڑی کا دروازہ بند ہوتا اور کوٹھڑی کے اندر جس کی انتہائی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔

نے بھی اور فلم کے اشتہاروں پر بھی بنایا گیا تھا۔ اس سین میں فلم کے ہیرو کو ریلوے انجن کے آگے جھجے پر جھکے نیچے ریل کی ہٹری پڑے ہوئے ایک بچے کو اٹھاتے دکھایا گیا تھا۔ فلم میں جب یہ سین آتا تھا تو ہال میں سنانا ہاجاتا تھا اور جب ہیرو چلتے انجن کے جھجے پر سے جھک کر ریلوے ہٹری پر سے لڑکے کو اٹھا لیتا تھا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھتا تھا۔ یہ سین اس فلم کی ہائی لائٹ تھا۔ یہ فلم کئی بے چلی تھی۔ اس سین کی بعد میں بلکہ اب تک فلموں میں نقل اتاری جاتی ہے۔ اس زمانے کے سرگودھا شہر میں بھی ایک سینما ہاؤس تھا۔ یہ سینما ہاؤس بڑی شگفتہ حالت میں تھا۔

شاید یہ پہلے تھیٹر ہوا کرتا تھا۔ اس کی چھت بڑی اونچی تھی اور اس کے چھت میں بوڑوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ چلتی فلم کے دوران کیوتروں کی غمخوئی کی آوازیں نی رہتی تھیں اور تماشاخیوں پر اوپر سے کیوتروں کی بٹلیں بھی گرتی رہتی تھیں۔ ان دنوں اس سینما ہاؤس میں ”بھگت کبیر“ نام کی فلم لگی ہوئی تھی جس میں مظہر خان اور بھارت بھوشن نے ام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھارت بھوشن کی پہلی فلم تھی۔ وہ بھگت کبیر بنا ہوا تھا۔ اس فلم کے بعض سین آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔



رومانس ختم ہو گیا۔ اس زمانے میں ریل گاڑی کی ایک اپنی ثقافت تھی۔ ایک اپنا کلچر تھا۔ اس کلچر میں مختلف آوازیں، منظر اور خوشبوئیں شامل تھیں۔ گاڑی کی سیٹی کی آوازیں، ریل گاڑی کے دوڑتے ہوئے پہیوں کے ریل کی ہٹری سے نکلنے کی آوازیں۔ پلیٹ فارم پر پھیری لگانے والوں کی چائے گرم، چائے گرم کی آوازیں۔ مسافروں کا شور، ڈبوں کے اندر تازہ پھرے ہوئے رنگ روغن کی خوشبوئیں۔ دھواں اڑاتے دیکھتے پتھر کے کولکوں کی خوشبوئیں، پلیٹ فارم پر چائے، سگریٹ کے دھوئیں اور پان کی لطیف خوشبوئیں اور پھر ان سب خوشبوؤں اور آوازوں میں ہر سٹیشن کے شہر کی اپنی خوشبوئیں، اپنی آوازیں، ڈیزل انجنوں نے ریل گاڑیوں کے کلچر اور ثقافت کی ساری لطافتیں ختم کر دی ہیں۔ اب ریلوے سٹیشن پر جا کر دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شہر میں غدر مچ گیا ہے اور لوگ افراتفری کے عالم میں شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔

ہمارے سرگودھا والے لاریوں کے اڈے کی ریلوے لائن پر سے کوئی گاڑی گزرتی تو میں اسے بڑے شوق سے دیکھتا۔ اگر میں ڈرائیوروں کی کوٹھڑی میں بیٹھا ہوتا تو ریل گاڑی کے انجن کی آوازیں کرفوراً باہر آجاتا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ ریل گاڑی کے ڈبوں کے رنگ سرخ ہوا کرتے تھے۔ صرف فسٹ اور سیکنڈ کلاس کے ڈبوں کے رنگ ہبز ہوتے تھے۔ جو گاڑی پشاور سے نکلتے جاتی تھی اور جس کا نام ہوڑہ ایکسپریس تھا وہ ساری کی ساری ہبز رنگ کی ہوتی تھی۔ یہ گاڑی اتنی تیز چلتی تھی کہ جب یہ پوری رفتار سے جارہی ہوتی تھی تو کھڑکی سے منہ باہر نکال کر سامنے کی جانب دیکھا نہیں جاتا تھا۔

یہ بات بڑی مشہور تھی کہ ہوڑہ ایکسپریس دلی سے آگے جا کر طوفان میل بن جاتی ہے۔ شاید اسی گاڑی یا پھر فرنیئر میل کو طوفان میل بھی کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بلکہ ہمارے بچپن کے زمانے میں طوفان میل نام کی ایک فلم بھی آئی تھی۔ یہ فلم بہمنی کی رنجیت مووی ٹون کی بنی ہوئی تھی اور اس میں اس زمانے کی سٹشٹ فلموں کے مشہور اداکاروں مثلاً ای بلیسوریا، ایٹور لعل، ڈکشت، چارلی، غوری، کیسری، مادھوری اور خاتون نے کام کیا تھا۔ اس کا ایک سین بے حد مشہور ہوا تھا۔ یہ سین بہت بڑے بورڈ پر چلانی کے

ہم میں وہاں گئے تھے۔ بڑی سخت سردی پڑتی تھی۔ چیزوں میں ابھی ملاوٹ شروع نہیں ہوئی تھی۔ ہر شے میں سے اس کی اصلی خوشبو آتی تھی۔ ابھی ایسٹس کا بھی رواج نہیں چلا تھا۔ ملاوٹ سے تو جہاں تک میرا خیال ہے لوگ ناواقف تھے۔ سرگودھا کے کچھری بازار (تاناہبی نام تھا بازار کا) کے زمیندار ہوٹل میں دوپہر کے وقت دیکھی گئی کے تڑکا لگانے کی چیزیں اڑا کرتی تھیں۔ آج کل تو یہ خوشبو اجنبی لگتی ہے۔ اس زمانے میں یہ خوشبو کس عام نہیں۔ میں اور دو ایک خوش لباس ڈرائیور اپنے فیچر سردار خان کے ساتھ اس ہوٹل میں کھانا کھایا کرتے تھے۔ کھانے کے بعد جب پلشن چائے پیتی تھی تو اس کی خوشبو مجھے اڑا کر نکال اور سری لنکا کے چائے کے باغات میں لے جاتی تھی۔ ایک لاری کا مالک خود ڈرائیور بن کر ساتھ آیا تھا۔ وہ بڑے صاف ستھرے کپڑے پہنتا تھا اور کریون اے کے سگریٹ پیتا تھا۔ کریون اے کے سگریٹ اس زمانے میں سب سے مہنگے سگریٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسے کالی ملی والی ڈبی بھی کہتے تھے۔ ہر سگریٹ کا ڈانٹھ اور فلیور الگ ہوتا تھا۔ تمباکو خالص ہوتا تھا۔ اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ دوپہے والی سب سے سستی ناری ڈبی کے سگریٹوں میں بھی خالص تمباکو ہوتا تھا۔ اگرچہ وہ گھٹیا تمباکو ہوتا تھا یعنی تمباکو کی بڑیں اور مذہ کوٹ کر بھرے ہوتے تھے۔

سرگودھا سے امرتسر آتے اور امرتسر سے سرگودھا ریل گاڑی میں جاتے ہوئے بھٹ سے آگے سرخ رنگ کی پہاڑیاں مجھے بہت پسند تھیں اور پھر جب گاڑی دریائے پنجاب کے دونوں عالی شان پلوں پر سے گزرتی تو میں کبھی نیچے دریا کو دیکھتا اور کبھی اردگرد کے پہاڑی سلسلے کو دیکھتا۔ خشک پہاڑیاں تھیں مگر ان میں ایک عجیب شان جبروت و ہیبت لگتی۔ سبے آب و گیاه اتنی خوبصورت پہاڑیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں اور ان پہاڑیوں کے درمیان بلندی پر تعمیر کئے گئے دونوں ریلوے پل تو انجینئرنگ کا حیرت انگیز نمونہ ہیں۔ ان علاقے کے لوگ بھی خوش اخلاق، تہمند اور بہادر لوگ ہیں اور کمال کے ہنرمند ہیں۔ بھٹ کے لوگوں کی ہنرمندی اور صنایعی کی تو ایک دنیا گواہ ہے۔ یہاں کے تاجروں کا ادوار جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ بڑے مخیر اور خوشحال اور دین دار

اس زمانے میں ابھی میں نے بھگت کبیر کو نہیں پڑھا تھا۔ کئی سالوں کے جب میں نے کہانیاں افسانے اور ناول لکھ کر نام پیدا کر لیا تھا تو صوفی شاعروں کا مطالعہ کرتے ہوئے بھگت کبیر کو بھی پڑھا۔ یہ شخص خدا کی وحدانیت کو ماننے والا اور خدا سے کرنے والا شاعر تھا۔ بنارس کا رہنے والا تھا۔ کبیر کی پیدائش کے بارے میں ایک روا بڑی مشہور ہے کہ بنارس کا ایک مسلمان جولاہا نیر و نامی اپنی بیوی نیما کے ساتھ جارہا تو اس نے تالاب کے کنارے ایک بچہ پڑا دیکھا۔ مسلمان جولاہا یہ بچہ اٹھا کر گھر لے آیا اس کی پرورش کرنے لگا۔ اس نے بچے کا نام کبیر رکھا۔ بڑے ہو کر کبیر فقیر بن گئے میں بیٹھ کر کپڑا بننے اور پھر بازار لے جا کر بیچ آتے۔ دو چار آنے جو محنت کا معاوضہ میں سے بہت کم اپنے پاس رکھتے اور باقی فقیروں میں بانٹ دیتے۔ کبیر ایک خدا ماننے والے تھے اور بت پرستی کے سخت خلاف تھے۔ کبیر کا کلام ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دماغ پر اسلام کا گہرا اثر تھا۔ کبیر صاحب کا مزار مگھر ریلوے سٹیشن کے قریب آدھ ہے۔ راستہ صاف نہیں ہے۔ مزار ایک پختہ چار دیواری میں ہے۔ اس کے دو دروازے ہیں۔ احاطہ کے اندر چند مکان شاگرد پیشوں کے بنے ہوئے ہیں جو اب غیر آباد ہیں۔ پر اٹلی کے دو درختوں نے سایہ کر رکھا ہے۔ 28 ربیع الثانی کو عرس ہوتا ہے۔

یہ پاکستان کے قیام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ ابھی ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ سرگودھا میں ہندو اور سکھ بھی رہتے تھے مگر زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی۔ مسلم بہت کم تھے۔ ان دنوں سرگودھا بڑا پرسکون تھا۔ آبادی زیادہ نہیں تھی۔ ہم سرگودھا

لوگ ہیں اور چنیوٹ شہر کی عمارتیں تو عجوبہ روزگار ہیں۔

دوسری عالمگیر جنگ ختم ہو گئی اور سرگودھا کے ہوائی اڈے کا کام وہیں رک کر انگریزوں کو اب اس ہوائی اڈے کی ضرورت نہیں تھی چنانچہ ہم بھی اپنی تیرہ لاریاں امرتسر واپس آ گئے۔ میرے دن ایک بار پھر کپتانی باغ اور بڑی نہر کی آوارہ گردیوں گزرنے لگے۔ عشق کا بخار پھر تیز ہونے لگا۔ سینما کی تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دو آنے کا ہوا۔ روز کبھی امرت ناکیز اور کبھی رائل ناکیز اور کبھی پرل ناکیز میں ایک فلم دیکھنا۔ کوشش کرنا۔ والد صاحب کی نظروں سے دور رہوں لیکن انہیں میری آوارہ گردیوں اور عشق و محبت ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے کوچوانوں والا سائنا پکڑ لیا جو انہوں نے خاص طور پر میرے میرے چھوٹے آرٹسٹ بھائی کے لئے بنوایا تھا۔

ایک دن میں امرت ناکیز میں واٹیا موسی ٹون کی فلم ”ہنٹر والی“ کا منٹی شو کر گھر آیا تو والد صاحب نے سائنا پکڑ لیا اور مجھے مارا۔ میں نے اسی وقت ایک بارڈ سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا۔ امرتسر میں ظہور الحسن ڈار میرا دوست ہوا کرتا تھا۔ اس مضامین اور کہانیاں ”عالمگیر“ رسالے میں شائع ہوتی رہتی تھیں۔ اس کا مکان ہمارے والے محلے میں تھا۔ اسے دنیاوی معاملات کی بڑی سمجھ تھی۔ بڑا ذہین اور عزم و ہمت نوجوان تھا۔ مجھ سے عمر میں دو چار سال بڑا تھا۔ ہماری بڑی دوستی تھی۔ ہم ایک دن کے گھر آیا جایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی آرزو تھی کہ وہ ہمیں جا کر فلموں کی کہانیاں میں نے جب گھر سے بھاگنے کا ارادہ کیا تو قرعہ فال ایک بار پھر ہمیں شہر ہی کا نکالنے ڈار سے کہا۔

”میں تو گھر سے بھاگ کر ہمیں جا رہا ہوں۔“

ڈار نے بڑی سنجیدہ نظروں سے مجھے دیکھا اور بڑی متانت سے پوچھا۔

”وہاں جا کر کیا کرو گے؟“

میں نے یونہی کہہ دیا۔

”میں فلموں میں کام کروں گا۔“

ڈار نے ماہرانہ انداز میں میری ٹھوڑی کو ہاتھ سے اوپر نیچے کر کے میرے چہرے کا جائزہ لیا اور بولا۔

”چہرہ تو تمہارا ٹھیک ہے۔ تم فلموں میں کام کر سکتے ہو۔“

وہ خود فلموں میں کہانی لکھنے کے لئے ہمیں جانے کے لئے پرتول رہا تھا۔ کہنے لگا۔

”تو پھر میں بھی قسمت آزمانے تمہارے ساتھ ہی ہمیں چلوں گا۔“

ان دنوں وہ نارٹھ ویسٹرن ریلوے کے ناہور ہیڈ کوارٹر میں ملازم تھا اور ہر روز صبح باوٹن میں جسے سبریرٹرین بھی کہتے تھے امرتسر سے لاہر جاتا اور شام کو اسی ٹرین میں واپس آ جاتا تھا۔ ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر ہمیں جانے کا پروگرام طے کر لیا۔ کچھ پیسے میں نے اپنی والدہ اور بہنوں سے لے کر جمع کر رکھے تھے۔ ڈار نے بھی کچھ رقم اپنے پاس رکھ لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ریلوے کی نوکری چھوڑ کر میرے ساتھ ہمیں جانے گا لیکن وہ بڑا دنیا دار اور سمجھدار لڑکا تھا۔ اس نے دفتر سے ایک ماہ کی تھنٹی لے لی اور مجھے بالکل نہیں بتایا۔ بھاگنے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ ہمیں صبح کی گاڑی پکڑنی تھی۔ اب یاد نہیں دن کے وقت ہمیں جانے والی کون سی گاڑی لاہور سے آتی تھی۔ ہم دن کے آٹھ سوا آٹھ بجے الگ الگ راستوں سے امرتسر کے ریلوے سٹیشن پہنچ گئے۔ سولہ سترہ روپے کا ہمیں کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ آتا تھا۔ ہم نے ٹکٹ خریدے اور پلیٹ فارم پر آ کر ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ ہم دونوں کے پاس ایک ایک چھوٹا سا لپٹی تھا جس میں ہمارا ایک ایک جوڑا کپڑوں کا اور نوٹھ پیسٹ وغیرہ تھے۔

مجھے والد صاحب کے جاسموں کا ڈر لگا تھا کہ ان میں سے کسی نے مجھے دیکھ لیا تو مارا کام خراب ہو جائے گا لیکن ٹرین آگئی اور ہم ایک ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ جب ٹرین کھڑی رہی میرے دل کو دھڑکا لگا رہا۔ آخر ٹرین چل پڑی۔ جب ٹرین شریف پور سے بھی آگے نکل گئی تب مجھے اطمینان ہوا کہ اب میں آزاد ہوں۔ ہمیں میں ظہور کا کٹا جانے والا تھا جو ہفتہ وار فلمی رسالہ نکالتا تھا۔ ہم ہمیں میں اس کے پاس جا کر ظہور

زینبین کریں اس زمانے میں گھر سے بھاگنے کے بعد ایک لمحے کے لئے بھی کبھی نہیں رہا تھا کہ جہاں جا رہا ہوں وہاں رہوں گا کہاں؟ وہاں سوؤں گا کہاں؟ کھاؤں گا کہاں؟ برے جذبہ بے اختیار کو دیکھ کر قدرت ہی میرا کچھ خیال کر رہی تھی اور جہاں بھی میں جاتا تھا وہاں میرا کچھ نہ کچھ اچھا برا بندوبست ہو جاتا تھا اور کہیں رات کو سونے کی جگہ نہیں ملتی تھی زمین بے دھڑک کسی فٹ پاتھ پر ہی لیٹ کر سو جاتا تھا۔ خدا کی قسم فٹ پاتھ پر کم از کم اس زمانے میں ایسی گہری نیند آتی تھی کہ صبح سڑکیں دھونے والے ٹرک کے پانی کی بو چھاڑ ہی مجھے بگاڑتی تھی۔

بس یہی شوق تھا کہ جنگل دیکھوں، جنگلوں کی بارشیں دیکھوں۔ بارشوں میں پلٹے درخت دیکھوں۔ نئے نئے شہروں کے لوگ دیکھوں۔ ان شہروں کی گلیاں بازار بھوں۔ وہاں کا میوزک سنوں۔ یہ دیکھوں کہ ان شہروں میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ماں کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ شام کی ہوا کس طرف سے کس طرف کو چلتی ہے۔ دریاؤں کا کشتیاں چلانے والے ماٹھی کون سے گیت گاتے ہیں۔ ان کے دردناک گیتوں کا درد ہال سے آتا ہے۔ وہاں کے دریا کیسے ہوتے ہیں۔ ندیاں کون سے جنگلوں سے، کون سے دریاؤں سے نکل کر بل کھاتی ہوئی بہتی ہیں اور سمندروں کی طرف سے آنے والی آؤں میں ناریل کے درخت کیسے لہراتے ہیں۔ ناریل کا درخت تو ہمارے پنجاب کے بدلی اور پہاڑی علاقوں میں کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا۔ امرتسر کے کہنی باغ میں بھی اس کا نئی درخت نہیں تھا۔ یہ درخت جنوب مشرقی ایشیا کا بیٹا ہے اور یہ اسی زمین میں پروان چڑھا ہے۔ یہ درخت میں نے رسالوں اور کتابوں کی تصویروں میں ہی دیکھے تھے۔ میں اٹل قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ ان سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا۔ ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شوق آوارگی تھا۔ یہی میرا جذبہ بے اختیار تھا۔

رات کے تین بجے بغیر ٹکٹ کے میں ہوشنگ آباد کے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر ایک ٹیچر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت میں صرف امرتسر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ایک بار پھر تازہ دم ہو کر کئی شہر پر اپنے ایڈوچر کا حملہ کر سکوں لیکن جس گاڑی کو مجھے لے کر امرتسر جانا تھا وہ نکل

گئے۔ کچھ روپے ہمارے پاس تھے چنانچہ ہم ناشتہ اور کھانا وغیرہ ایرانی ہوٹل میں کھا تھے۔ ہمارے میزبان کی فلم انڈسٹری میں کافی واقفیت تھی۔ اس کے ساتھ ہم اس زمانے کے دو چار فلم ڈائریکٹروں سے بھی ملے مگر کہیں فوری طور پر کام نہ مل سکا۔ سب یہی کہتے آتے جاتے رہیں کام مل جائے گا۔ اتنی دیر ہم بمبئی ایسے شہر میں کسی کے مہمان بن کر نہیں سکتے تھے۔ ہمارے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ میزبان نے بھی ہمیں کہہ دیا کہ آپ لوگو واپس ہی چلے جائیں۔ اس وقت یہاں کام ملنا مشکل ہے۔ ظہور کے پاس واپسی کا کر تھا۔ میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے بمبئی کے سیر سپاٹوں میں اور فلمیں دیکھ کر سارے ختم کر دیئے تھے۔ ایک رات ہم بمبئی کے بوری بندر کے سٹیشن سے ٹرین میں سوار ہوئے ظہور کے پاس ٹکٹ تھا۔ میرے پاس نہیں تھا۔ میں بغیر ٹکٹ بیٹھ گیا تھا اور مجھے کوئی فکر نہ تھا۔ بغیر ٹکٹ سفر کرنے کی مجھے عادت تھی۔ لیکن یہ لمبا سفر تھا راستے میں شاید جھانک ہو شنگ آباد سٹیشن پر ایک ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرنے ہمارے ڈبے میں آ گیا۔ مجھ سے ٹکٹ تو میں نے کہا۔ میری جیب کٹ گئی تھی اس لئے بغیر ٹکٹ بیٹھ گیا ہوں۔ ٹکٹ چیک کرنے بڑے آرام سے ٹرین سے نیچے اتار دیا کہ میں تمہیں یہی سزا دے سکتا ہوں۔ ٹرین آ کر نکل گی اور میں اجنبی سٹیشن پر اکیلا کھڑا ٹرین کو نظروں سے دور ہوتے دیکھتا رہا۔

بمبئی سے ٹرین رات کے سوا نو بجے کے قریب چلی تھی اور جس وقت ٹی ٹی۔ مجھے ہوشنگ آباد (شاید یہی نام تھا اس سٹیشن کا) کے سٹیشن پر اتار دیا تو ٹرین کے پلیٹ فارم خالی کر دینے کے بعد میں نے سٹیشن کی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے تین بجے وہ تھے۔ میری عمر اس وقت کتنی ہو گی؟ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ میٹرک جماعت سے بھاگا تھا۔ میرا جو چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا جس میں کپڑوں کا ایک جوڑا وغیرہ وہ بھی میں اپنے ساتھ نہیں لاسکا تھا۔ خیر اس کی مجھے پروا نہیں تھی۔ مجھے اس کا بھی کچھ زیا فکر نہیں تھا کہ رات کے تین بجے اپنے شہر امرتسر سے سینکڑوں میل دور ایک اجنبی شہر۔ سٹیشن پر اکیلا ہوں۔ پیسہ دھیلا بھی پاس نہیں ہے۔ کیا کروں گا۔ کہاں سے کھاؤں گا وغیرہ وغیرہ۔ میرا جو ایڈوچر اور خانہ بدوشی کا شوق تھا وہ مجھے پر لگا کر اڑاتا پھرتا تھا۔

ہوش نہ رہا کہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ جس وقت دھچکا لگنے سے آنکھ کھلی تو باہر روہنیوں کا عکس ڈبے میں پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے دروازے کی کھڑکی میں سے باہر دیکھا۔ ٹرین کسی سٹیشن کو چھوڑتی ہوئی پوری رفتار سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں کونسا سٹیشن تھا۔ مجھے یہی اندازہ تھا کہ دلی صبح کے وقت یا پھر دوپہر کے وقت آئے گا۔ میں پھر سو گیا۔ دوسری بار جب آنکھ کھلی تو صبح کی سپیدی نمودار ہو رہی تھی۔ ڈبے کے مسافروں کے چہرے نظر آنے لگے تھے۔ اس علاقے کے لوگوں کے زرد زرد چہروں سے میں واقف تھا۔ یہ تھرڈ کلاس کا ڈبہ تھا۔ زیادہ تر مسافر دیہاتی تھے۔ میں نے دیکھا کہ جہاں میں دروازے کے قریب فرش پر بیٹھا تھا وہاں میرے پاس ہی سیٹ پر ایک دہلی پتلی زرد چہرے اور اداس سی آنکھوں والی ایک لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی ابھی سیٹ پر سے سو کر اٹھی تھی اور اپنے سیاہ بالوں کو پیچھے باندھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے کاسنی رنگ کی معمولی ساڑھی پہنی ہوئی تھی۔ ماتھے پر بندیا لگی تھی۔ اس کی سامنے والی سیٹ پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا کٹورے میں پانی پی رہا تھا۔ پانی پی کر اس نے لڑکی سے کہا۔

”رمکھی! پانی پی لے۔ اپنے گاؤں کا سٹیشن آ رہا ہے۔ گھر چل کر ہی کچھ بھوجن کریں گے۔“

اس لڑکی کا نام رمکھی تھا۔ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بال باندھ کر اس نے اپنی ساڑھی کو درست کیا اور کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور باہر دیکھنے لگی۔



بچی تھی اور اس وقت اگر کوئی ٹی ٹی مجھ سے آ کر کٹ طلب کرتا تو دوسرے لمحے میں پلٹ سے بھی باہر ہوتا۔ اب میں اسی انتظار میں تھا کہ دلی کی طرف جانے والی کوئی ریل گاڑی بسبھی کی طرف سے آئے تو میں اس میں بیٹھ کر کم از کم دلی کی طرف تو نکل جاؤں۔ ضروری نہیں تھا کہ اس گاڑی میں بھی ٹی ٹی آ کر مجھے نیچے اتار دے۔

میں نے کرتا پا جامہ اور چہرے کے بوٹ پہن رکھے تھے۔ گرمیوں کا موسم تو اس علاقے میں بارشیں شروع ہو گئی تھیں۔ بارش نہ بھی ہو تو آسمان پر بادل چھائے رہتے۔ کبھی جس ہو جاتا تھا اور کبھی ہوا چلنے لگتی تھی۔ اس وقت بھی سٹیشن پر خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں بیٹھا ریلوے لائن کی اس جانب دیکھ رہا تھا جہاں بسبھی شہر تھا۔ ایک آ میرے قریب سے گزرا۔ میں نے اس سے دلی جانے والی گاڑی کا پوچھا تو اس نے بتایا دلی کی طرف جانے والی گاڑی آدھے گھنٹے میں آئے گی۔ میں مطمئن ہو گیا کہ یہاں راز نہیں گزارنی پڑے گی۔ بیٹھے بیٹھے مجھ پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور میں واقعی بیٹھ پر سر پیچھا کر سو گیا۔ ایک بڑے زبردست شور نے مجھے جگا دیا۔ کوئی ٹرین پلیٹ فارم میں داخل رہی تھی۔ اس کا دیوہیکل انجن زبردست شور مچا رہا تھا۔ میں نے سوتی جاگتی حالت میں ابا آدمی سے پوچھا کہ یہ گاڑی دلی جائے گی؟ اس نے جواب دیا۔

”ہاں اسی طرف جائے گی۔“

میں نے اس کے جملے پر غور نہ کیا کہ یہ گاڑی دلی نہیں بلکہ دلی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھ پر اس وقت نیند کا غلبہ تھا۔ چاہتا تھا کہ کسی طرح ٹرین کے کسی ڈبے میں گھس کر جاؤں۔ چنانچہ ٹرین کھڑی ہوئی تو میں جو ڈبہ سامنے آیا اس میں گھس گیا۔ مسافر سو رہے تھے۔ دو ایک مسافر جاگ رہے تھے۔ کسی سیٹ پر کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں ڈبے کے فرش ہی ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور سر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میری دونوں جانب مسافروں کی ٹریک اور گھڑیاں وغیرہ پڑی تھیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور مجھ پر دوبارہ نیند طاری ہو گئی۔ میں سو گیا۔

نیند میں ہی مجھے محسوس ہوا کہ ٹرین چل پڑی ہے۔ اس کے بعد مجھے ٹرین کا آواز

کی دنیا میں نکل جانے کا کوئی بہانہ چاہئے۔

ٹرین کی رفتار ہلکی ہونی شروع ہو گئی تھی۔

ٹرین دریا کے پل پر سے گزر رہی تھی۔ لڑکی کے بوڑھے چچا یا دادا نے لڑکی سے

کہا۔

”بوہلکر آ گیا بیٹیا۔“

بوڑھے نے دریا کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا۔

”جے ریڈادیوی کی جے۔“

اور صدری کی جیب میں سے دو پیسے نکال کر لڑکی کو دیئے۔

”یہ لورمکلی ادیوی کی بیسٹ کر دے۔“

لڑکی نے پیسے لے کر نیچے دریا میں پھینک دیئے۔ اس کے چہرے پر بڑی دلکش

مسکراہٹ تھی اور اس کے بالوں کی ایک لٹ ہوا میں اڑتی ہوئی بار بار اس کے ماتھے پر گر

رہی تھی۔ میرے خرمن ہوش و حواس پر بجلی گرانے کے لئے بس اتنا ہی کافی تھا۔ مجھے ایسا

محسوس ہونے لگا کہ اگر یہ لڑکی مجھ سے جدا ہو گئی تو مجھے ساری زندگی چین نصیب نہ ہو سکے

گا۔ لڑکپن کی محبتیں بھی کتنی معصوم اور کس قدر ناپائیدار اور کس قدر اثر انگیز ہوتی ہیں۔

کوئی شیٹیں آ گیا تھا۔ گاڑی بہت آہستہ ہو گئی تھی۔ لڑکی نے سیٹ پر بچھائی ہوئی

دری اور چادر لپیٹ کر ایک طرف رکھ دی تھی اور کھڑکی میں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں اس

کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے لڑکی ایک بار پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائی ہے۔ مجھ

پر عشق کا بھوت اور زیادہ سوار ہو گیا۔ میں یہ بھوت کا لفظ نہیں لکھنا چاہتا تھا۔ عشق کے ساتھ

یہ لفظ اچھا نہیں لگتا۔ لیکن اب ایسا ہی لکھا اور بولا جاتا ہے۔

اول تو آج کل عشق ہوتا ہی نہیں۔ اگر بڑی مشکل سے عشق ہو بھی جائے تو لوگ

کہتے ہیں کہ اس پر عشق کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ لوگ عشق کرنا بھول گئے ہیں یا پھر لوگوں

کو زبردستی اور ہوس پرستی کا شکار ہوتے دیکھ کر عشق پر بیاہتر اٹھا کر بھاگ گیا ہے لیکن جس

زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں عشق کی بڑی بہار تھی۔ لوگ بڑے شوق سے

ٹرین فل سپیڈ سے جا رہی تھی۔ لڑکی کا رخ میری طرف تھا اور میں اسے پوری طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ میں جس عمر میں تھا اس عمر میں مجھے ہر لڑکی اچھی لگتی تھی کہ میں ہر لڑکی سے پیار کرنے لگ جاتا تھا۔ یہ میری حماقت تھی۔ لیکن اس قسم کی حماقتیں اب مجھے بڑی قیمتی اور احمول لگ رہی ہیں اور افسوس کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے جدا ہو گئی ہیں اور مجھے خشک اور بے رس عقل کے حوالے کر گئی ہیں جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر۔ اپنی عادت کے مطابق مجھے اس وقت اس دہلی پتلی اداس آنکھوں والی لڑکی سے پریم ہو گیا۔ اس زمانے میں محبت نہیں ہوتی تھی۔ پریم ہوتا تھا۔ یہ پریم کا لفظ کتابوں رسالوں کی کہانیوں اور فلموں میں بڑا چلتا تھا۔ تم ہی نے مجھ کو پریم سکھایا اور پریم نگر میں بناؤں گی گھر میں۔ اس قسم کے گانوں کے ریکارڈ پر شہر کے ہوٹلوں میں بڑے بجا کرتے تھے۔

ایک دو بار لڑکی نے بھی میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی ہماری آنکھیں چار ہوئیں ہم نے فوراً اپنی اپنی آنکھیں دوسری طرف پھیر لیں۔ ایک بار ہماری آنکھیں ایک دوسرے سے ملیں تو مجھے ایسے لگا جیسے لڑکی میری طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ محبت میں بدگمانیاں بھی بہت ہوتی ہیں اور خوش فہمیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ لڑکی تو مجھ پر جان چھڑکنے لگی ہے۔ وہ میرے بغیر اب رہ نہیں سکے گی۔ حالانکہ بہت ممکن ہے کہ لڑکی کو کچھ پتہ بھی نہ ہو کہ یہ جو ریل کے ڈبے کے دروازے کے پاس بیٹھا ہے کون ہے۔ کوئی ہے بھی یا نہیں لیکن عشق تو نام ہی ایک خوبصورت اور لطیف خیال کا ہے۔ عشق کے خیال ہی سے میرے ایسا آدمی خیال و خواب کی دنیا میں نکل جاتا ہے۔ مجھے تو خیال و خواب

عشق کرتے تھے۔ دوسرا کام کاج لوگ اس لئے جلدی جلدی کر لیتے تھے کہ انہیں کام کاج سے فارغ ہو کر عشق بھی کرنا ہے۔ بڑے بوزھوں کی زبان پر بھی عشقیہ گیت ہوتے تھے۔ ہماری گلی میں ایک بڑا پرہیزگار بوڑھا درزی ہوا کرتا تھا۔ وہ کپڑے سینے ہوئے نیو تھیز کا قلبی گیت گاتا رہتا تھا۔

سندر تاری سندر پیاری
پیاری چھب تارے دکھلائے

تکیوں اور باغوں میں ہیرگانے کے مقابلے ہوتے تھے۔ شاید اس لئے اس زمانے میں قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی اور گینگ ریپ کا کبھی نام بھی نہیں سنا تھا کیونکہ لوگ عشق کرتے تھے اور عشق آدمی کی سیرت کو نیک بناتا ہے اور عشق کے درجات کی بلندی انسان کو عشق مجازی کے مقام سے نکال کر عشق حقیقی کی راہ پر لگا دیتی ہے۔

بہر حال یہ تو تصوف کی باتیں ہیں۔ یہ تصوف والے ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں تو آپ کو اپنا قصہ سنارہا ہوں۔ اپنی آپ بیتی سنارہا ہوں کہ بغیر ٹکٹ کے تھا۔ بے زر بے پر تھا۔ جیب میں چائے کی ایک پیالی پینے کے لئے بھی پیسہ نہیں تھا۔ مگر دل میں عشق کا سمندر جوش مار رہا تھا اور وہ جو اداس آنکھوں والی (کم از کم میں اس خوش فہمی میں تھا کہ اس کی آنکھیں اداس ہیں) لڑکی میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی ہے اور جس کا نام رکھی ہے۔

مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اس سے جدا ہو جانے کے بعد میری دنیا میں سوائے اندھیروں کے اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے آنٹھویں جماعت میں مجھے فلم ایکٹریس مس نسیم بانو سے عشق ہو گیا تھا تو اس وقت بھی مجھے یقین تھا کہ اگر مس نسیم بانو مجھے نہ مل سکی تو میری زندگی میں اندھیرے اور تاریکیاں چھا جائیں گی۔ مس نسیم بانو مجھے بالکل نہ ملی۔ وہ مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی لیکن اس کے نہ ملنے سے میری زندگی میں پہلے سے زیادہ روشنی آگئی تھی لیکن جب میں اس سے عشق کر رہا تھا تو اس وقت بالکل سچا تھا۔ میرا عشق سچا تھا۔ میرا خدا سچا تھا۔

مجھ میں اور میرے عشق میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ ٹرین کسی سٹیشن کے

پلیٹ فارم پر رک گئی۔ لڑکی اپنے بوڑھے باپ یا چچا کے ساتھ ڈبے سے اترنے لگی تو اس نے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری پوری کائنات میری طرف دیکھ رہی ہے۔ اس وقت مجھے وہ دہلی پتلی مدراسی لڑکی یاد آگئی جس نے اپنے بالوں میں مونچے کے ہار سجا رکھے تھے اور جس نے ترچنا پٹی کے سٹیشن پر ٹرین سے اترتے وقت منکر مہری طرف دیکھا تھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جیسے کہہ رہی ہو کہ تم بھی ٹرین سے اتر کر میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہاں زندگی برباد کرتے پھر و گے۔ مگر میں سوچتا ہی رہ گیا تھا کہ ٹرین سے اتروں یا نہ اتروں اور ٹرین چل پڑی تھی اور وہ مونچے کے پھولوں والی لڑکی۔ وہ زردوں ارضی کی طرف بلانے والی لڑکی آہستہ آہستہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس بات کو کوئی ایک بیت گئے ہیں۔ وہ لڑکی مجھے دوبارہ نظر نہیں آئی۔ نظر آ بھی نہیں سکتی۔ سمندر کے سینے پر ابھر کر واپس سمندر میں تحلیل ہو جانے والی لہر پھر کہاں ملتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ زمانہ ایک بار پھر اپنے ایک گزرے ہوئے منظر کو دہرا رہا ہے۔ اگر اس دفعہ یہ لڑکی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو پھر کبھی کوئی لڑکی میری طرف دیکھ کر نہیں مسکرائے گی۔

بس اس خیال کے ساتھ ہی میں بھی لڑکی کے پیچھے ڈبے سے اتر گیا اور جس طرف لڑکی جا رہی تھی۔ میں بھی اس طرف چلنے لگا۔ یہ کوئی بڑا سٹیشن نہیں تھا۔ آنے سانے ال کے دو پلیٹ فارم تھے۔ درمیان میں ٹرین کھڑی تھی۔ سامنے سٹیشن کا چھوٹا سا گیٹ تھا جہاں سے لوگ ٹکٹ دکھا کر باہر نکل رہے تھے۔ لڑکی اور اس کے بوڑھے باپ کے پاس تو ٹکٹ تھے میرے پاس ٹکٹ نہیں تھا۔ مگر مجھے سٹیشن سے باہر نکلنے کے سارے گرا آتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا کہ گیٹ کے دوسری طرف جہاں تانگے وغیرہ کھڑے تھے اس طرف میں ریلوے لائن پار کر کے بھی جاسکتا تھا۔ چنانچہ میں وہیں سے ریلوے لائن کے ساتھ ہو گیا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا کہ کہیں لڑکی میرے پہنچنے سے پہلے کسی تانگے میں بیٹھ کر چلی نہ جائے۔ مگر ریل کی پٹری کے ساتھ خاردار اونچا جگہ تھا جو دو رتک چلا گیا تھا۔

میں تیز تیز چلنے لگا۔ آخر ایک جگہ خاردار تاروں والی دیوار ختم ہو گئی اور میں دوڑ کر جھاڑیوں میں سے ہوتا ہوا کچی سڑک پر آ گیا۔ اتنے میں ایک یکے میرے قریب سے

دیکھتا رہا۔ لڑکا نہا کر ندی سے باہر نکل آیا اور کپڑے پہننے لگا۔ اس کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر ذرا سا مسکرایا اور بولا۔

”ندی کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے۔ کیا تم اشٹان کرو گے؟“

میں نے جواب دینے کی بجائے نفی میں سر ہلا دیا۔ لڑکا دھوقی کرتا پھرن کر میرے قریب آ گیا۔ کہنے لگا۔

”تم کون سے شہر سے آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”بیمبئی سے دلی جا رہا تھا۔ یہ جگہ اچھی لگی۔ گاڑی سے اتر گیا کہ یہاں کچھ روز

میر کی جائے۔“

لڑکے نے کہا۔

”میرا نام بے دیو ہے۔ تمہارا کیا نام ہے؟“

میں نے یونہی کہہ دیا۔

”میرا نام موہن ہے۔“

لڑکا بولا۔

”تم ہمارے پاس رہ لو۔ میرے پتاجی شمشان بھوی میں مزدے جلاتے ہیں۔

یہاں یوگی مت کی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی میں ایک غار ہے جس کے اندر رام جینی کی

مورتیاں ہیں۔ میں تمہیں مورتیاں دکھانے لے چلوں گا۔ میری ماتاجی اور بہنیں تو سینتا پور

میں رہتی ہیں۔ میں یہاں پتاجی کے پاس ہوتا ہوں۔ تم نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ میرے

ساتھ آؤ۔“

میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ چلا ہوں شاید اس کے ذریعے مجھے میری گمشدہ

محبت کا کوئی سراغ مل جائے۔ اوپر سے مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ ندی آگے جا کر ایک

جنگل میں چلی گئی تھی۔ جنگل کے کنارے پر ایک طرف دو تین کوارٹر سے بنے ہوئے تھے۔

ان کے آگے ایک میدان میں دو اینٹوں کے چبوترے تھے۔ بے دیو نے بتایا کہ ان

بڑی تیزی سے گزر گیا۔ میں نے دیکھا کہ یکے کی کچھلی سیٹ پر وہی ادا اس آنکھوں والی لڑکے اپنے بوڑھے باپ یا چچا یا دادا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس آنکھوں میں حیرت تھی۔ میں بے اختیار ہو کر جدھر یکہ گیا تھا اسی طرف دوڑنے لگا۔

یہ میرا دیوانہ پن تھا مگر آج میں اپنے اس دیوانے پن پر اپنی آدمی سے ذرا عقل قربان کر سکتا ہوں۔ افسوس کہ یہ دیوانہ پن مجھ سے بچھڑ گیا۔ میں دوڑتے دوڑتے ذرا

ہی آہستہ ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ یکہ کافی دور نکل گیا تھا۔ دوسرے یہ سوچنے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بس اسی ایک جملے نے مجھے میری منزل سے دور کر دیا کہ لوگ کیا کہیں گے لیکن ہند

عشق سلامت تھا۔

میں شیشین پر واپس نہیں آیا بلکہ جس طرف یکہ گیا تھا اسی طرف چلا گیا۔ دا پوری طرح سے نکل آیا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے دھوپ نہیں تھی۔ کچی سڑک آگے جا کر دائیں طرف کوڑھ گئی۔ یکہ اب نظر نہیں آیا لیکن وہ گیا اسی طرف تھا۔

سڑک کی دونوں جانب درخت تھے۔ کچھ دور جا کر سڑک پھر ایک طرف کوڑھ جاتی تھی۔ کئی درختوں کی ٹہنیاں سڑک پر جھکی ہوئی تھیں۔ ان درختوں نے یکے کو میرا

نظروں سے اوجھل کر دیا تھا لیکن میں چلا جا رہا تھا۔ میں اس ذوق و شوق سے جا رہا تھا جیسے اس لڑکی نے مجھے کسی جگہ ملنے کا وقت دے رکھا ہو جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس لڑکی کے بار۔

میں سوائے اس کے مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ دیہات کی رہنے والی ہے اور ہندو ہے کیونکہ اس نے ماتھے پر بندیا لگائی ہوئی تھی۔

آگے کھلی جگہ آگئی جس کی دونوں جانب کھیت تھے۔ اس کے آگے پھر درختوں

سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی طرح چلتے چلتے میں ایک ندی پر پہنچ گیا۔ ندی کا پاٹ چوڑا تھا۔

ندی کے کنارے ایک جگہ پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں جو ندی میں اترتی تھیں۔ یہاں

ایک میری عمر کا لڑکا دھوقی باندھے نہا رہا تھا۔ وہ ندی میں بیٹھا ہوا تھا اور بار بار ڈکھنی لگا

دونوں ہتھیلیوں سے پانی اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔

ندی پر کوئی بل نظر نہیں آتا تھا۔ میں وہیں ایک جگہ بیٹھ گیا اور لڑکے کو نہا

نہی۔ کوئی آلتی پالتی مار کر بیٹھی ہوئی تھی۔ غاروں کے اندر ہوا آرہی تھی۔ میں نے بے سے پوچھا۔
کہنے لگا۔

”یہ غار آگے جا کر پہاڑی کے دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ اس طرح ہوا ان اندر چلتی رہتی ہے۔“

مجھے ان پتھر کی صورتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ بے دیو نے ایک مورتی کو جواز کر پر نام کیا۔ کہنے لگا۔

”یہ رام جنی کی مورتی ہے۔ اس کو تم بھی پر نام کرو۔“

میں نے کہا۔

”نہیں نہیں۔ میں نہیں کروں گا۔ تم کرو۔“

کہنے لگا۔

”تمہاری مرضی۔ مگر پر نام نہیں کرو گے تو رام جنی کا شراب (بدوعا) لگے گا۔“

میں نے کہا۔

”مجھے کوئی شراب وراپ نہیں لگتا۔ میں نے مورتیاں دیکھ لی ہیں۔ میں تو باہر جا ل۔“

بے دیو بولا۔

”اکیلے مت جانا۔ راستہ بھول گئے تو یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں کچھ مورتیوں کی پوجا کروں پھر اکٹھے واپس چلیں گے۔“

میں وہیں بیٹھ گیا اور بے دیو سے کہا۔

”اچھا تو پھر تم پوجا کرو۔ میں یہیں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔“

بے دیو بولا۔

”یہاں سے اٹھ کر ادھر ادھر مت جانا میں جلدی آ جاؤں گا۔“

وہ چلا گیا۔ میں بیٹھ کر اپنی اداس آنکھوں والی محبوبہ کے خیال میں گم ہو گیا۔

چوتروں پر ہم مردے جلاتے ہیں۔

”پتا جی کہا کرتے ہیں کہ ہم راجہ مہاراجوں کے مردوں کا اتھ سنسکار کیا کرتے تھے۔ پر اب راجہ مہاراجے جوگی نہیں رہے۔ اس لئے ہر جاتی کے مردوں کا کر یا کر م کرتے ہیں۔“

بے دیو کا ادھیڑ عمر کمزور سا باپ صرف دھوتی باندھے چار پائی پر بیٹھا بار بار (حقہ) پی رہا تھا۔ بے دیو نے کہا۔

”پتا جی! یہ موہن ہے۔ بھئی سے ہمارے گاؤں کی سیر کو آیا ہے۔ میں اسے لے

ساتھ لے آیا ہوں۔ میں اسے یوگی مت کی رام جنی کی مورتیاں دکھانے لے جاؤں گا۔“

بے دیو کا باپ ناریل گڑ گڑاتے چپ چاپ بیٹھا رہا۔ ایک نظر مجھے دیکھا

بولا۔

”اسے کونے والے کوارٹر میں چار پائی ڈال دینا۔“

”اچھا پتا جی۔“

موہن مجھے کوارٹر کے اندر لے گیا۔ ہم نے بورے پر بیٹھ کر چاولوں پر وال ڈال

کر بڑے مزے سے کھائے۔ اس کے بعد موہن مجھے رام جنی کی مورتیاں دکھانے لے

مت کی پہاڑی کی طرف لے گیا۔ یہ جنگل کے شروع میں ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا جس۔

اوپر کسی صدیوں پرانے قلعے کا کھنڈر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ غار جس کے اندر رام جنی

مورتیاں تھیں اس ٹیلے کے اندر بنا ہوا تھا۔ میری جانے بلا یہ رام جنی کی مورتیاں کیا

ہیں۔ غار دیکھنے کا شوق مجھے اس لڑکے کے ساتھ لئے جا رہا تھا لیکن اس غار میں میر

ساتھ کیا گزرنے والی تھی؟ اس کا مجھے علم نہیں تھا۔

یوگی مت پہاڑی کا غار کیا تھا پوری طرح بھول بھلیاں تھیں۔ پہاڑی کے

غاروں کا جال بچھا ہوا تھا۔ ایک غار میں سے دوسرا اور دوسرے غار میں سے تیسرا غار

تھا۔ یہ قدرتی غار تھے اور اسی کے اندر دیواروں کے پتھر تراش کر پجاریوں نے عورتوں

مورتیاں بنائی ہوئی تھیں۔ کوئی مورتی ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ کوئی ڈانس کرنے کے

سوچنے لگا کہ یہاں ضرور آگے کوئی گاؤں ہوگا۔ وہ لڑکی اسی گاؤں میں رہتی ہوگی۔ بے دیو کے ساتھ اس گاؤں میں جا کر لڑکی کو تلاش کر دوں گا۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کا دیو نصیب ہو جائے۔ یہ تو میں سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اگر وہ لڑکی مجھے گاؤں میں مل گئی تو اس کا کیا کروں گا؟ اس کو کیا کہوں گا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں نے اس سے کوئی بات کہی وہ جوتا اٹھا کر مجھے مارنا شروع کر دے۔ یا پھر شور مچا دے اور گاؤں کے لوگ مجھے مارا برباد کر دیں۔ عشق اور پھر لڑکپن کا عشق انجام سے بے نیاز ہوتا ہے۔

بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی اور بے دیو نہ آیا تو میں نے دل میں اسے برا کہا اور اٹھ کر اکیلا ہی واپس چل پڑا۔ اپنی طرف سے میں واپس جا رہا تھا۔ مجھے یقین کہ میں اسی راستے سے واپس جا رہا ہوں جس راستے سے ہم غار میں داخل ہوئے تھے جیسا کہ میں نے بتایا ہے پہاڑی کے نیچے غاروں کا جال بچھا ہوا تھا اور ایک غار میں دوسری اور تیسری غار نکل کر آگے چلی جاتی تھی اس بھول بھلیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں بڑ گیا۔ جس غار میں جاتا وہ آگے ایک اور غار سے مل جاتا۔ میں گھبرا گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں ان غاروں میں سے کبھی باہر نہ نکل سکوں گا۔



میں نے گھبرا کر بے دیو کا نام لے کر اسے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ مگر کسی رف سے بھی بے دیو میری مدد کو نہ آیا۔ شاید میری آواز وہیں غار میں بلند ہو کر دفن ہو گئی تھی۔ یقین کریں مجھے پسینہ آ گیا۔ میں عشق و شوق سب کچھ بھول گیا اور دیوانوں کی طرح غاروں میں کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑ دوڑ کر باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگا۔ مجھے یاد آ رہا کہ بے دیو نے کہا تھا کہ یہ غار پہاڑی کی دوسری طرف نکل جاتے ہیں چنانچہ میں ایک طرف تیز چلنے لگا۔

یہ غار سرنگ کی طرح تنگ نہیں تھے بلکہ پرانے قلعوں کی راہ داریوں کی طرح بے کشادہ تھے اور چھت بھی اونچی تھی اور ہوا بھی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے میں کافی آگے گیا۔ لیکن غار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ ایک عجیب بات تھی کہ غار میں تاریکی رات کی۔ سارے غاروں میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ خدا جانے یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔

میں تھک ہار کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اپنے دل کو قابو میں کیا۔ گھبراہٹ کو دور کیا اور پتے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔ یہی فیصلہ کیا کہ جس طرف سے آیا ہوں اسی جانب لوٹوں۔ آخر یہ غار واپس تو اسی جگہ نہیں آئے گا۔

میں اٹھا اور واپس چل پڑا۔ چلتے چلتے میں پسینے میں شرابور ہو گیا۔ غار ختم نہیں ہوئی۔ ایک جگہ غار کی دو شاخیں پھوٹ رہی تھیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بائیں طرف سے آیا تھا۔ بس اللہ توکل ایک طرف مڑ گیا۔ سو ڈیڑھ سو قدم چلا ہوں گا کہ غار

ہاتھوں کے سامنے آگئی۔ جہاں میں کھڑا تھا وہاں گپ اندھیرا تھا۔ دیوار کو ٹول کر بیڑھیاں چڑھنے لگا۔ دس پندرہ میٹرھیاں چڑھنے کے بعد زینہ ختم ہو گیا۔ میں نے ہاتھ سے ٹول کر دیکھا۔ آگے دیوار نہیں تھی بلکہ لکڑی کا دروازہ تھا۔ میں نے اسے باہر کی طرف دھکیلا تو وہ کھل گیا۔

دوسری طرف سے تازہ ہوا کا جھونکا آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اونچی چھت والا کافی کشادہ دالان ہے جس میں کئی ستون زمین سے چھت تک چلے گئے ہیں۔ میں دالان میں داخل ہو گیا۔ وہاں ویسی ہی پھکی پھکی روشنی تھی جیسی غاروں میں پھیلی ہوئی تھی۔

میں نے دیکھا کہ دالان کی دیواروں میں طاق بنے ہوئے ہیں جن میں عورتوں کی پتھر کی صورتیں رکھی ہوئی ہیں۔ صورتوں کی تمام عورتوں کی شکلیں الگ الگ تھیں۔ سب کے بالوں کے جوڑے تھے۔ سب نے ہاتھ جوڑ رکھے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ عجیب تاثر تھا۔ میں نے صورتوں کو تو وہیں چھوڑا اور وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے لگا۔

لیکن دالان کی دیواریں چاروں طرف سے بند تھیں۔ کسی جگہ کوئی کھڑکی یا دروازہ نہیں تھا لیکن میں نے مایوس ہونے کی بجائے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں یہاں سے نکل کر رہوں گا۔ میں جھک کر دیواروں کا جائزہ لینے لگا کہ شاید کسی جگہ باہر نکلنے کا کوئی خفیہ راستہ ہو۔ باہر جانے کا تو کوئی خفیہ راستہ نہ ملا لیکن اوپر جانے کا ایک اور ذریعہ نکل آیا۔ وہ اس طرح کہ ایک جگہ صورتی کے نیچے دیوار کے ساتھ پتھر کی ایک سل لگی ہوئی نظر پڑی۔

میں نے اسے ایک طرف ہٹایا تو اس کے اندر ایک زینہ اوپر کی طرف جارہا تھا۔ میں نے شکاف میں سر ڈال کر اوپر کی جانب دیکھا۔ سب سے اوپر والی میڑھی پر ہلکی روشنی تھی۔ یہ سوچ کر میں شکاف میں داخل ہو گیا کہ شاید اسی زینے سے باہر نکلنے کا کوئی سبب مل جائے۔ یہ ایک اوپر کو ابھی ہوئی سرنگ تھی جس کی دیوار میں میڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔

میں دونوں پاؤں ایک جگہ ٹکا ٹکا کر زینے پر چڑھنے لگا۔ آخری میڑھی پر پہنچ کر میں نے سر باہر نکال کر دیکھا تو ایک اور دالان تھا جو نیچے والے دالان سے چھوٹا تھا۔ میں

بند ہو گیا۔ آگے دیوار آگئی۔ گھبرا کر واپس مڑا اور جلدی جلدی اسی جگہ واپس آ گیا۔ سے غار کی دو شاخیں پھوٹی تھیں۔ اب میں دوسرے غار میں مڑ گیا۔ یہ غار بھی آگے بند ہو جاتا تھا۔ سخت پریشانی کے عالم میں پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا۔ پریشانی مجھے اس کی تھی کہ پیچھے جانے کا اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ دونوں غار آگے جا کر بند ہو جاتے۔ سخت حیران تھا کہ اگر غار بند ہو جاتے ہیں تو میں کس طرف سے آیا تھا؟

کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عجیب تذبذب اور حیرانی پریشانی کے عالم میں ایک با میں سامنے کی طرف غار میں تیز تیز چلنے لگا۔ اندر سے میں گھبرا گیا تھا اور پچھتاتے لگاؤ میں نے لڑکی کے پیچھے ٹرین سے اترنے کی حماقت کیوں کی۔ مگر اب پچھتانا بیکار تھا۔ میں ایڈوچر پسند ضرور تھا مگر زمین کے اندر قبر کی طرح بند غار کے ایڈوچر کی نے کبھی خواہش نہیں کی تھی۔ یہ تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی عذاب میں پھنسا ہوں۔ میں نے اپنے حواس کو کسی حد تک اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ اور سوچ سمجھ کر اور ایک قدم پر دائیں بائیں طرف سے دیکھ دیکھ کر آگے بڑھ رہا تھا۔

میں نے دیکھا کہ ایک جگہ غار کی دیوار میں ایک طاق سا بنا ہوا تھا۔ یہ لکڑی کا نہیں تھا۔ پتھر کا تھا۔ میں رک کر اسے جھک کر دیکھنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ یہ پتھر میں سے تراش کر بنایا ہوا ہے۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کر آگے کو دبایا تو ہلکا گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ طاق کی پتھر کی سل اپنی جگہ سے ایک طرف گھوم گئی۔ نے ذرا آگے ہو کر دیکھا۔ طاق کی دوسری طرف اندھیرے میں پتھر کی سیڑھیاں نظر آ جو اوپر کو جا رہی تھیں۔ اس خیال سے کہ شاید یہیں سے باہر جانے کا کوئی راستہ ملے میں طاق کے اندر داخل ہو گیا اور زینے کی میڑھیاں چڑھنے لگا۔

جیسے ہی میں نے زینے پر قدم رکھا طاق کی سل اپنے آپ بند ہو گئی۔ میڑ میں اندھیرا ہو گیا۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر طاق کی سل کو زور سے دبایا کہ سل جگہ سے ہٹے اور میں اوپر جانے کی بجائے طاق میں سے نکل کر واپس غاروں میں جاؤں۔ جب دیکھا کہ طاق کی پتھر کی سل کسی طرف سے کھلتی ہی نہیں تو ایک بار تو

آپ کو ہندو ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھا۔

اگر اپنے آپ کو ہندو ظاہر نہ کرتا تو بڑی آسانی سے بے دیو کے آگے ان منحوس نادوں میں آنے سے انکار کر سکتا تھا لیکن مجھے میرا شوق فضول بھی لے ڈوبا تھا کہ ذرا ان پراسرار غاروں کی سیر کی جائے۔ اب میں ایک طرف ہٹ کر دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا اور خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگا کہ میں مسلمان تھا اور اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے میں نے گناہ کیا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں سے نیچے بڑے دالان میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں سخت تھک چکا تھا۔ اوپر سے مایوسی اور ناامیدی دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ مجھ پر غنودگی چھانے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ میں سو گیا تھا۔ پتہ نہیں پانچ دس منٹ سویا ہوں گا کہ ایک گھنٹے تک سوتا رہا تھا کہ اچانک ایک عجیب سی آواز نے مجھے جگا دیا۔

میں آنکھیں کھول کر نیم اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی صدیوں سے بند دروازہ کھلتے وقت چرچایا ہو۔ مگر وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ دیواریں اسی طرح اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھیں۔ دالان کے وسط میں تابوت بھی ویسے کا ویسا پڑا تھا۔ وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ دن ہے یا شام ہے یا رات ہے۔ بس ایک پھیکا سا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔

میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا کہ شاید اس طرح سے پریشان ذہن کو تھوڑا سا سکون ملے۔ ابھی میں نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ وہی چرچاہٹ کی آواز پھر سنائی دی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے جلدی سے آنکھیں کھول لیں۔ مجھے کھول ہوا کہ تابوت کا ڈھکنا آہستہ آہستہ اپنے آپ اوپر اٹھ رہا ہے۔

دہشت کے مارے میرا جسم سرد پڑ گیا۔ میں اٹھ کر وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ حلق خشک بلکہ کڑوا ہو گیا۔ میں ٹکٹکی باندھے تابوت کو دیکھ رہا تھا۔ تابوت کا ڈھکنا آہستہ آہستہ کھلتے کھلتے ایک طرف کو ڈھلک گیا اور چاروں

شکاف سے باہر نکل آیا اور دالان کا جائزہ لیا۔ اس دالان میں روشنی نیچے والے دالان سے بہت ہی کم تھی اور اندھیرا اندھیرا سا تھا۔ اس نیم تاریکی میں مجھے دالان کے وسط میں ایک تابوت نما بکس پڑا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کہ خدا جانے اس تابوت کے اندر کیا ہے۔

دالان میں صرف وہی ایک تابوت تھا۔ باقی کچھ بھی نہیں تھا۔ چھت قدرے ٹہنی تھی اور اس کے جالے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے۔ عجیب پراسرار اور ڈراؤنا ماحول تھا۔ میں نے سوچا شاید اس تابوت کے اندر سے کوئی راستہ ان منحوس غاروں سے باہر نکلا ہو۔ میں ڈرتے ڈرتے تابوت کے قریب گیا اور نیم اندھیرے میں جھک کر بڑے غور کے ساتھ تابوت کو دیکھا۔

تابوت کے اوپر بھی ایک عورت کی ابھری ہوئی شکل بنی تھی۔ اس عورت کا بھی جوڑا تھا اور ماتھے پر سیاہ بندی تھی۔ میں نے تابوت کو کھولنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا ڈھکنا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ڈھکنا مضبوط کیلوں سے بند کر دیا گیا ہے۔ تابوت پتھر کا نہیں تھا۔ سیاہ لکڑی کا تھا۔ مجھے امرتسر کے چھاؤنی والے سینما میں دیکھی ہوئی انگریزی دہشت ناک فلمیں یاد آنے لگیں اور خوف سے میرا حلق خشک ہونا شروع ہو گیا۔

میں نے تابوت سے ہٹ کر دالان کی دیواروں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ دیواریں پتھر کی تھیں۔ نہ کہیں کوئی کھڑکی یا طاق تھا اور نہ کوئی روشندان ہی تھا۔ تعجب کی بات ہے کہ تازہ ہوا وہاں بھی محسوس ہو رہی تھی اور سانس لینے میں کسی قسم کی دقت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کسی وقت خیال آتا کہ یہی جگہ میرا دل بن جائے گی اور میری لاش تک کسی کو نہ مل سکے گی۔

ٹرین میں ملی ہوئی اداس آنکھوں والی لڑکی پر مجھے کسی چرمل کا شبہ ہونے لگا جو مجھے اپنی مسکراہٹ کے جال میں پھنسا کر اس جہنم میں لے آئی تھی۔ کسی وقت سوچتا کہ نہیں اس میں اس لڑکی کا کیا قصور ہے۔ یہ سب کچھ مجھے میرے گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے اپنے

طرف گہرا سانا چھا گیا۔ یہ بڑا گہرا، سرد اور ڈراؤنا سانا تھا۔ میرا دل ایسے دھڑک رہا ہے جیسے ابھی اچھل کر باہر آ جائے گا۔

میری نظریں تابوت پر جمی ہوئی تھیں۔

میرے دیکھتے دیکھتے تابوت میں سے نسواری رنگ کے دھوئیں کا غبار سا نکلنے لگا۔ یہ دھواں کڑی کے جالے کی طرح کا تھا۔ پتلا اور ٹھہرا ٹھہرا سا تھا۔ تابوت کے اوپر آ کر وہ کڑی کے جالے کی طرح تن گیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ تابوت میں سے ایک انسانی سر آہستہ آہستہ باہر نکل کر اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔

یہ ایک عورت کا سر تھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ عورت کا جسم بہت ہلکا تھا۔ یہ اوپر ہی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ پھر اس کا سر چھت کے ساتھ لگ گیا۔ دہشت کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تابوت سے ہٹ کر دیوار کے ساتھ لگا ایسی جگہ بیٹھا تھا۔ جہاں ایک تو اندھیرا تھا اور دوسرے میرے آگے ساتھ ساتھ لگے ہوئے دوستوں تھے۔

میں نے سمٹ کر اپنے آپ کو ستونوں کی اوٹ میں کر لیا کہ اس تابوت والی بلا کی مجھ پر نظر نہ پڑے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر اس بلا کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔

وہ منحوس عورت ایک بہت بڑے اونچے لمبے جن کی طرح تابوت سے آدمی باہر نکل ہوئی تھی اور اس کا سر چھت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کی پشت میری طرف تھی پھر آہستہ آہستہ گھوم کر میری طرف ہو گئی۔ میں مزید سڑک سڑک ستونوں کے پیچھے ہو گیا۔ اس کا چہرہ اب میری طرف تھا۔ مجھے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جہاں دو سیاہ سوراخ تھے۔ اور اس کے کان اس کے کندھوں تک لٹکے ہوئے تھے۔ بند ہونٹوں میں سے دونوں کیلے دانت نکل کر نیچے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔

خوف کے مارے مجھے پسینے آرہے تھے۔ میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا۔ خدا جانے کیا وجہ تھی کہ ابھی تک اس نے مجھ پر حملہ نہ کیا تھا۔ شاید میں اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔

کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ آنکھوں کی جگہ دو سیاہ گڑھے نظر آرہے تھے۔ مجھے اس بلا کے سانس لینے کی صرف آواز آرہی تھی۔ جب وہ سانس اوپر کو کھینچتی تو سیٹی کی سی آواز نکلتی تھی۔ اچانک یہ بلا چھوٹی ہونا شروع ہو گئی۔ وہ نیچے ہوتی گئی اور پھر تابوت میں بیٹھ گئی۔

اب اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ تابوت میں سے باہر نکل آئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا نیچے کا دھڑ غائب تھا۔ اس کی دونوں بائیں لنگ رہی تھیں۔ اس کا اوپر کا دھڑ ہوا میں لٹکا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرا خون خشک ہو گیا تھا۔ جسم پر موت کی بے حسی طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے چیخ ماری چاہی لیکن میری آواز نہ نکل سکی۔ یہ کوئی چیزیل ہی ہو سکتی تھی۔ وہ میرے بالکل سامنے آ کر رک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کا اب بھی مجھ سے سات آنٹھ فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس کا بازو لمبا ہوتا گیا اور پھر اس کا لمبے نوکیلے ناخنوں والا ہاتھ میری گردن کی طرف بڑھا۔ میں نیم بے ہوش ہو چکا تھا۔

اس عورت نما چیزیل نے مجھے گردن سے پکڑ کر زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ اب میں بھی اس کے ساتھ ہوا میں لٹکنے لگا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب قسم کی دہلی دہلی آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ مجھے اس طرح اٹھائے تابوت کے پاس لے آئی پھر اس نے مجھے تابوت میں پھینک دیا۔ میں چھوٹے چھوٹے پتھروں کے اوپر گرا۔ تابوت کی تہ میں پتھر بچھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس بلا کے حلق سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکلی جس کے ساتھ ہی میری بھی چیخ نکل گئی۔

اس بلا نے زور سے تابوت کا ڈھکنا بند کر دیا۔ تابوت کے اندر گھپ اندھیرا ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں قبر میں زندہ دفن کر دیا گیا ہوں۔ باہر خاموشی چھا گئی تھی۔ جس بلا نے مجھے تابوت میں بند کیا تھا اس کے سانس لینے کی آواز بھی نہیں آرہی تھی۔ تابوت کے اندر میرا دم گھٹنے لگا۔ میں نے دو تین لمبے لمبے سانس لئے اور تابوت کی چھت پر زور زور سے کئے مارنے لگا۔ میں نے دو تین بار ڈھکنے کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ اس طرح بند ہو گیا تھا جیسے اب نہیں کھلے گا۔

میں نے کہا۔

”سب سے پہلے مجھے یہاں سے باہر نکالو۔“

وہ مجھے لے کر دالان کی طرف گئی تو وہاں دروازہ تھا جس کے کواڑ نہیں تھے۔ باہر دن کی روشنی ہی روشنی تھی۔ میں سوچنے لگا یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہوا ہے کہیں میں نے دن کے وقت کوئی ڈراؤنا خواب تو نہیں دیکھا۔ پہاڑی کی ڈھلان اتر کر ہم نیچے آ گئے۔ میں نے لڑکی سے کہا۔

”یہاں جو شمشان بھوی ہے اس کے باوے کا لڑکا بے دیو مجھے رام جینی کے غار دکھانے لایا تھا۔ وہ غار کس طرف ہیں؟“

لڑکی کہنے لگی۔

”وہ ٹیلے کی دوسری طرف ہیں۔ چلو میں تمہیں وہاں لے چلتی ہوں۔“

میں نے پوچھا۔

”اس مندر میں تابوت کیوں پڑا ہے۔ مندروں میں تو سورتیاں ہوتی ہیں یہ تابوت کہاں سے آ گیا؟“

لڑکی ایک لمحے کیلئے خاموش ہو گئی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر کہنے لگی۔

”تمہیں اس طرف نہیں جانا چاہئے تھا۔“

ہم ٹیلے کی ڈھلان پر اس جگہ آ گئے جہاں سے غار شروع ہوتے تھے۔ باہر بے دیو کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا۔

”تم کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے تمہیں بڑا تلاش کیا۔“

میں نے کہا۔

”تمہارے غاروں میں بھٹک گیا تھا۔ اس نے مجھے باہر نکالا ہے۔“

”کس نے؟“ بے دیو نے پوچھا۔



میں تابوت کی چھت اور دیواروں پر ہاتھ بھی مار رہا تھا اور چلا بھی رہا تھا کہ مجھے باہر نکالو۔ مجھے باہر نکالو۔ اچانک مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں خاموش ہو گیا۔ کوئی تابوت کے قریب آ رہا تھا۔ یہ سوائے اس منحوس بلا کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے اپنی حالت پر رونا آ رہا تھا کہ میں خواستواہ کیوں شیٹن پر ٹرین سے اتر گیا اور اگر اتر بھی کیا تھا تو مجھے بے دیو کے ساتھ ان غاروں کو دیکھنے نہیں آنا چاہئے تھا۔ باہر سے کسی عورت کی آواز آئی۔

”گھبراؤ نہیں۔ میں تابوت کھول رہی ہوں۔“

یہ آواز کسی عام عورت کی تھی۔ اس بلا کی آواز نہیں تھی۔ میں کان لگا کر سننے لگا۔ باہر سے تابوت کا ڈھکنا کھل گیا۔ ڈھکن کے اٹھنے ہی ایک دم دن کی روشنی ہو گئی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دالان میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرے سامنے ایک لڑکی ہاتھ میں چھڑی لئے کھڑی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا تھا۔ میں چونک پڑا۔ یہ وہی ٹرین والی او اس آنکھوں والی لڑکی تھی جس کے عشق میں دیوانہ ہو کر میں ٹرین سے اتر کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تھا۔ اور آخر اس مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لڑکی بھی مجھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی مجھے پہچان لیا تھا۔ کہنے لگی۔

”تم ریل گاڑی میں تھے۔ یہاں کیسے آ گئے۔؟“

میں اسے کیا کہتا کہ میں وہاں کیسے آ گیا تھا۔ میں تابوت سے باہر نکل آیا تھا۔ دالان کا سارا ماحول ہی بدل گیا تھا۔ اندھیرا غائب ہو گیا تھا۔ دیواروں کے اوپر قدم طرز کے روشندان کھل گئے تھے جن میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ چھت کے ساتھ پہلا جو جالے لٹک رہے تھے وہ اب غائب ہو گئے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا۔

”میں کہاں ہوں؟“

اس نے کہا۔

”تم یوگی مت کی پہاڑی والے پرانے مندر میں ہو۔ میں پہاڑی پر جڑی بوٹیوں اکٹھی کرنے آئی تھی کہ مندر میں سے کسی کے چلانے کی آواز سن کر ادھر آ گئی۔“

جے دیو بولا۔

”تم بڑے خوش قسمت ہو کہ اس لڑکی نے تمہیں کچھ نہیں کہا اور تم جان بچا کر آ

گئے۔“

جے دیو کی باتوں سے اس لڑکی کے بارے میں میری حیرانی اور میرا تجسس بڑھتا

جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا۔

”یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟“

جے دیو بولا۔

”موہن بھیا! وہ لڑکی جو تمہیں غاروں میں سے نکال کر لائی تھی وہ ایک بھگی

ہوئی آتما ہے۔ اس کا نام ترشنا ہے۔ وہ جس آدمی کو دکھائی دیتی ہے وہ آدمی اگلے روز مر

جاتا ہے۔ اگر نہ مرے تو ترشنا کی بھگی ہوئی آتما خود آ کر اسے مار ڈالتی ہے۔ اب تم یہاں

سے باہر نہ لکنا۔ میرے پتا جی ابھی آ کر تم پر ایسا جادو ٹونہ کر دیں گے کہ ترشنا تمہارا کچھ نہیں

بگاڑ سکے گی۔“

اس سے پہلے کہ میں جے دیو سے کچھ اور پوچھتا وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔

میں حیرت میں گم ہو گیا اور سوچنے لگا کہ کیا واقعی یہ لڑکی بھگی ہوئی روح ہے؟ اور جس کسی کو

لتی ہے وہ اگلے روز مر جاتا ہے اور اگر نہ مرے تو وہ خود آ کر اسے ہلاک کر دیتی ہے۔

مسلمان ہونے کی وجہ سے یہ ساری کہانی مجھے جھوٹی لگ رہی تھی۔ ہندو لوگوں کا عقیدہ بڑا

کمزور ہوتا ہے۔ وہ اس قسم کے توہمات پر زبردست یقین رکھتے ہیں۔ مجھے جے دیو کی

باتوں پر حیرانی ضرور ہوئی مگر یقین بالکل نہیں آیا تھا۔ یہ کہانی مجھے الف لیلا کی کوئی کہانی کی

طرح لگی مگر یہ کہانی ہی تھی۔ محض ایک کہانی جسے لوگوں نے اپنی طرف سے مبالغہ شامل کر

کے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا۔ اس قسم کی من گھڑت اور مبالغہ آمیز کہانیاں میں پہلے بھی ان

علاقوں میں ہندو لوگوں کی زبانی بہت سن چکا تھا۔

اتنے میں جے دیو اپنے دبلے پتلے بوڑھے باپ کو لے کر آ گیا۔ اس نے اداس

آنکھوں والی لڑکی ترشنا کے بارے میں جو نئی کہانی سنائی وہ یوں تھی کہ ترشنا کے ماں باپ

میں نے پلٹ کر دیکھا تو اداس آنکھوں والی لڑکی وہاں نہیں تھی۔ وہ تو جیسے کسی

چھلاوے کی طرح اچانک غائب ہو گئی تھی۔ جے دیو حیران تھا کہ مجھے کون سی لڑکی غاروں

میں سے نکال کر لائی ہے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ اداس آنکھوں والی جو لڑکی مجھے تابوت

میں سے نکال کر لائی تھی وہ کہاں غائب ہو گئی ہے۔ جے دیو نے پوچھا۔

”تم کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے؟“

میں نے اسے اداس آنکھوں والی لڑکی کا حلیہ بتایا تو میں نے دیکھا کہ اس لڑکے

کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ کہنے لگا۔

”وہ تمہیں کہاں ملی تھی؟“

میں نے اس سے بہت کچھ چھپا لیا۔ صرف اتنا بتایا کہ یہ لڑکی مجھے یوگی مت

پھاڑی کی دوسری جانب ملی تھی اور اس نے مجھے یہاں تک کا راستہ بتایا تھا۔ جے دیو خاموش

ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ۔

”میرے ساتھ گھر چلو۔“

وہ مجھے اپنے شمشان بھوی والے کوارٹر میں لے گیا۔ اس نے دروازہ بند کر لیا

اور کہنے لگا۔

”اس مکان سے باہر مت لکنا۔ میں پتا جی کو بلاتا ہوں۔“

میں نے حیران ہو کر پوچھا۔

”آخر بات کیا ہے۔ مجھے بھی تو بتاؤ۔ تم یہ سب کچھ کس لئے کر رہے ہو؟“

زمین پر گر کر جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ وہاں ترشنا کی ہڈیاں اور راکھ پڑی تھی۔ بے دیو کا باپ اشلوک وغیرہ پڑھتے ہوئے ترشنا کے پھول اٹھا کر مٹی کے مٹکے میں ڈالنے لگا۔ بے دیو کے باپ کا کہنا ہے کہ جب وہ ترشنا کی ساری ہڈیاں اور راکھ سمیٹ کر برتن میں ڈال چکا تو اس نے جہاں ترشنا جل مری تھی ترشنا کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ترشنا کے دادا نے پوچھا۔

”کیا ہوا پجاری جی؟“

بے دیو کے پجاری باپ نے اس وقت تو ترشنا کے دادا کو کچھ نہ بتایا صرف اتنا ہی کہا کہ وہ یونہی ڈر گیا تھا لیکن بعد میں اس نے اپنے بیٹے بے دیو کو بتایا کہ اس نے جہاں ترشنا جل کر مری تھی وہاں ترشنا کو بالکل زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ تھا اور بال جل چکے تھے۔ اس نے ایک بھیا تک چیخ مار کر بے دیو کے باپ سے کہا تھا کہ میں تم لوگوں سے اپنی جان کا بدلہ لوں گی اور پھر غائب ہو گئی تھی۔ بے دیو کے باپ نے بتایا کہ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ترشنا بالکل زندہ حالت میں اپنے دادا کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گاؤں آتی ہے حالانکہ اس کا دادا بھی مر چکا ہے۔ گاؤں کے سٹیشن پر اتر کر وہ دادا کے ساتھ کچے میں سوار ہو کر اپنے گاؤں کی طرف آ جاتی ہے۔ اس دوران اسے کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتی نہ اس کا یکہ کسی کو نظر آتا ہے۔ جو کوئی اس کو دیکھ لیتا ہے وہ اس کے دوسرے ہی دن مر جاتا ہے۔ اگر نہ مرے تو ترشنا کی آتما خود آ کر اسے مار ڈالتی ہے۔ بے دیو کا باپ کہنے لگا۔

”اس واقعے کو چار سال بیت گئے ہیں۔ ان چار سالوں میں ترشنا کی بھنگی ہوئی آتما گاؤں کے صرف تین آدمیوں کو نظر آئی تھی۔ وہ تینوں کے تینوں اگلے روز مر گئے تھے۔“

میں نے بے دیو کے باپ کو بتایا کہ ترشنا کی بھنگی ہوئی روح مجھے ریل گاڑی میں بھی اپنے دادا کے ساتھ نظر آئی تھی اور میں نے اس کے کو بھی گاؤں کی طرف جاتے دیکھا تھا۔

بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ وہ اسی گاؤں کی رہنے والی تھی اور اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد اس کے دادا نے اس کی پرورش کی۔ جب وہ بھاری ہوئی تو دادا نے گاؤں کے ایک لڑکے سے اس کا بیاہ کر دیا۔ شادی کی پہلی رات اس کا تازہ مر گیا۔ اس گاؤں کے لوگ پرانی رسومات کے بڑے سختی سے پابند تھے اور ان میں یہ طے ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند شادی کی پہلی رات کو مر جاتا تھا تو اس کی نوبیا پتا دلہن کو اپنے خاوند کی چتا پر بیٹھ کر سستی ہونا پڑتا تھا یعنی اپنے خاوند کے مردے کے ساتھ خود بھی جل جانا پڑتا تھا۔ لیکن ترشنا نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ جل کر نہیں مرے گی چتا جب ترشنا کے خاوند کی لاش کو جلانے کے لئے شمشان کی طرف لے جانے لگے تو ترشنا گام سے بھاگ گئی۔ گاؤں والے اس کے پیچھے بھاگے اور اسے دریا کے گھاٹ پر جا کر دیو لیا۔ ترشنا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ میں سستی نہیں ہونا چاہتی۔ مجھے آگ میں نہ ڈالو۔ میں زندہ رہنا چاہتی ہوں۔ مگر وہاں اس کی فریاد کون سنتا تھا۔ اس کا بوڑھا دادا بھی اسے نہیں بچا سکا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے ترشنا کو زبردستی اٹھا کر چتا کی لکڑیوں پر ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کے خاوند کی لاش کے ساتھ لٹا دیا اور اس کے اوپر کھی چھڑک کر آگ لگا دی۔ کہتے ہیں کہ آگ لگتے ہی ترشنا کی خوفناک چیخ بلند ہوئی اور وہ تڑپ کر بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں لوہے کے تار سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے کپڑوں میں آگ اُٹھتی تھی۔ شعلے اس کے جسم کو جلا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ترشنا آگ کے بگولے کی طرح چتا کے اوپر گھومنے لگی اور گھومتے گھومتے وہاں کھڑے لوگوں کی طرف بڑھی۔ اس آگ چینی بلند ہو رہی تھی۔ لوگ جو تیاں چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ لڑکی ترشنا کے سارے جسم آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ بگولے کی طرح گھوم رہی تھی۔ گھومتے گھومتے وہ شمشان گھاٹ کے احاطے میں چکر لگانے لگی۔ پھر وہ زمین پر گر پڑی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کی راکھ ہڈیاں ساری رات وہیں پڑی رہیں۔ صبح اس کا بوڑھا دادا اپنی پوتی کے پھول یعنی ہڈیاں اور راکھ لینے آیا تا کہ وہ انہیں دریا میں بہا سکے۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا چھوٹا سا گھڑا تھا بے دیو کا باپ اسے اس جگہ لے گیا جہاں اس کی پوتی ترشنا آگ کے شعلوں میں لگی

”موہن! تم بڑی بھاری مصیبت میں پھنس چکے ہو۔ ترشنا کی آتما نے تمہیں صرف دیکھا ہی نہیں ہے بلکہ تم سے باتیں بھی کی ہیں۔ اب تمہارا زندہ رہنا ناممکن ہے۔“

میں ان کی اس قسم کی باتوں پر دل میں ہنس رہا تھا لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرے دل میں کسی وقت یہ خوف بھی سر اٹھانے لگا تھا کہ کہیں واقعی ترشنا کی آتما مجھے ہلاک نہ کر دے۔ ایک تو میری عمر چھوٹی تھی۔ دوسرے مجھے اس قسم کے واقعات کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا۔ میرا اپنے رب العالمین پر ایمان بھی پختہ تھا مگر تقاضائے بشری اور کم عمری کے باعث میں دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں میں ان کفار کے ان توہمات اور جادو ٹونے کے پکر میں پھنس کر سچ سچ نہ مارا جاؤں۔ میرے ضمیر میں یہ کاٹنا بھی کھٹک رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے چنانچہ میں دل میں بار بار خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ چنانچہ جب بوڑھے پجاری نے کہا۔

”موہن! تم میرے بیٹے کے دوست ہو۔ میں ترشنا کی آتما سے تمہیں بچانے کی پوری پوری کوشش کروں گا۔ میں کچھ منتر پڑھ کر اس کو ارڈر کے ارد گرد پھونک دوں گا۔ ان خنزروں کی طاقت کے اثر سے کل ترشنا کی بدروح اس کو ارڈر میں داخل نہ ہو سکے گی اور کم از کم کل وہ تم پر حملہ نہیں کر سکے گی۔“

میں بھی ان لوگوں کی مشرکانہ باتوں سے متاثر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا۔

”لیکن اس کے بعد بھی وہ مجھے ہلاک کر سکتی ہے۔ میں کہاں کہاں اس بدروح سے اپنے آپ کو بچاتا پھروں گا۔“

بے دیو کے باپ نے کہا۔

”اس کا علاج، اس کا اپائے بھی میرے پاس ہے۔ میں تمہیں منتر پھونک کر لیک مہرہ دوں گا۔ وہ مہرہ تم اپنی جیب میں بڑی حفاظت سے رکھنا۔ جب تک یہ مہرہ تمہارے پاس رہے گا ترشنا کی آتما تمہارا بال بھی بیگانہ نہ کر سکے گی۔ بس تم صرف کسی طرح آج کی رات اس کمرے میں بند رہ کر گزار دو۔“

اس کے بعد بے دیو کا باپ منتر پڑھتے ہوئے کو ارڈر کے گرد چکر لگانے لگا۔ بے

بے دیو کے باپ نے پوچھا۔

”ریل گاڑی میں کیا وہ تمہیں دیکھ کر مسکرائی تھی؟“

میں نے کہا۔

”ہاں۔ جب ٹرین سٹیشن پر رک گئی تھی اور وہ اپنے دادا کے ساتھ ڈبے سے اترنے لگی تھی تو اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔“

بے دیو کے بوڑھے باپ نے پوچھا۔

”اس کے بعد آج جب وہ تمہیں یوگی مت کے غار کے باہر ملی تھی تو اس نے تم سے کوئی بات کی تھی؟“

میں نے کہا۔

”ہاں۔ اس نے کہا تھا کہ میں ادھر جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آئی ہوں۔ آؤ ٹر

تمہیں راستہ دکھاتی ہوں اور وہ مجھے وہاں لے آئی تھی جہاں بے دیو پہلے سے موجود تھا۔“

بوڑھے پجاری نے گھبرا کر بے دیو سے پوچھا۔

”بے دیو تم نے تو ترشنا کی آتما کو نہیں دیکھا؟“

بے دیو بولا۔

”نہیں پتاجی! وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔“

میں نے بوڑھے سے کہا۔

”بے دیو کے پاس پہنچنے کے بعد جب میں نے اسے بتایا کہ مجھے یہ لڑکی

سے نکال کر لائی ہے تو بے دیو نے پوچھا تھا کہ کون سی لڑکی؟ میں نے گردن موڑ کر کہا

کہ یہ لڑکی اور اس وقت ترشنا کی بھگتی روح غائب ہو چکی تھی۔“

بوڑھے نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔

”ہے بھگوان! تیری بڑی کرپا ہے کہ اس منحوس آتما نے میرے بیٹے کو بچا

دیکھا۔ نہیں تو میرا بیٹا بھی موت کے منہ میں چلا جاتا۔“

تب بوڑھے نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔

میں نے کہا۔

”آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں یہاں سے چلے جانا چاہتا ہوں۔“

”تم کہاں جاؤں گے؟“ بے دیو کے باپ نے پوچھا۔

میں نے کہا۔

”میں دلی جاؤں گا۔ دلی میں میرے ماما پتا رہتے ہیں۔“

وہ کہنے لگا۔

”میں کم از کم تین چار دن سے پہلے یہاں سے جانے کا مشورہ نہیں دوں گا۔

تو ہو گا کہ تم کم از کم تین دن ہمارے پاس اس کوارٹر میں ہی رہو۔ میں منتر پھونک کر مہرہ پنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ تم اپنے پاس رکھو گے۔ تمہیں کوارٹر میں بند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کوارٹر سے نکل کر ادھر ادھر چل پھر سکتے ہو لیکن میں کم از کم تین دن تمہیں اپنی نگرانی مارکھنا چاہتا ہوں۔“

میں نے یونہی کہہ دیا۔

”لیکن میرا دلی جانا بڑا ضروری ہے۔ مجھے گھر سے نکلنے کی روز ہو گئے ہیں۔

بے ماما پتا میرے لئے پریشان ہو رہے ہوں گے۔“

بوڑھے پجاری نے سوچ کر کہا۔

”موہن بیٹا! میری ایک بات مان لو۔ گورکھ ناتھ کا مہرہ میں تمہیں دے رہا

ما۔ اس کی طاقت ترشنا کی آتما کو تمہارے پاس نہیں آنے دے گی۔ لیکن میں چاہتا ہوں

کم از کم تم دو دن اور میرے پاس رہ جاؤ۔ اس کے بعد بے شک بے فکر ہو کر چلے جانا۔“

بت پرستوں کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ان کے توہمات کا مجھ پر بھی کچھ

اچکا تھا۔ یہ قدرتی بات تھی اور میں کوئی پختہ عمر کا آدمی بھی نہیں تھا۔ چودہ پندرہ سال کی

لاٹھری۔ میں نے سوچا کہ چلو دو دن اور رہ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں آنے والی کسی بلا

سزا جاؤں کیونکہ یوگی مت کے پرانے مندر میں، میں ایک بلا کے قابو آچکا تھا اور خدا

مٹھے وہاں سے نکالا تھا۔ اگر خدا میری مدد نہ فرماتا تو پتہ نہیں قبر ایسے تابوت کے اندر میرا

دیونے مجھے بتایا کہ پتا جی نے منتر اور اشلوک پڑھتے ہوئے کوارٹر کے پندرہ چکر لگائے

ہیں۔ چکر پورے کرنے کے بعد بوڑھا میرے کمرے میں آ کر بولا۔

”موہن! میں نے اپنا چلہ پورا کر لیا ہے۔ اب تم کل سارا دن اس کمرے میں

بند رہو گے۔ ایک پل کے لئے بھی باہر قدم نہیں رکھو گے۔ بے دیو تمہارے لئے بھونچ

پانی لا کر دے جایا کرے گا۔“

اور ایسا ہی ہوا۔ میں نے دوسرے دن اپنے آپ کو کوارٹر کے اس بوسیدہ کمرے

میں بند کر لیا۔ کسی وقت مجھے لگتا کہ میں خواجواہ ان تو ہم پرست لوگوں کی باتوں میں آ

ہوں۔ مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہئے۔ پھر خیال آتا کہ کہیں ان لوگوں کی باتیں کجا

نکل آئیں اور ترشنا کی بدروح سچ سچ گلا گھونٹ کر مجھے مار نہ ڈالے۔ ایک دو دفعہ میرے

دل میں خیال بھی آیا کہ میں کیوں ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کمرے میں قید ہو گیا ہوں

مجھے یہاں سے بھاگ کر سیدھا شیشن پر چلے جانا چاہئے۔ وہاں سے دلی جانے والی کوئی

کوئی گاڑی مجھے مل ہی جائے گی لیکن میں کمرے سے باہر قدم نہ رکھ سکا۔ بے دیو مجھے آ

دو پہر اور رات کو کھانا وغیرہ دے گیا تھا۔

دن گزر گیا۔ رات بھی گزر گئی۔ اگلا دن طلوع ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا

کہ سر سے بلائیں گئی۔ اب آگے جو ہو گا دیکھا جائے گا۔ میں اس علاقے میں رہوں گا

نہیں تو ترشنا کی بدروح کہاں آئے گی۔ صبح کے وقت بے دیو کا باپ آ گیا۔ کہنے لگا۔

”موہن! بھگوان کی تم پر بڑی کرپا ہوئی ہے کہ میرے منتروں نے تمہیں بڑا

ایسی بلا سے بچا لیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ رات کو وہ آئی تو نہیں تھی؟ تمہیں چیخیں تو سنائی نہیں دیا

تمہارے سنے میں آ کر تو اس نے تمہارا گلا دبانے کی کوشش نہیں کی؟“

میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ترشنا کی بدروح خواب میں بھی

نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے بے دیو کے باپ کو بتا دیا کہ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے کہا۔

”میں نے اپنے گورو مہان گورو گورکھ ناتھ کے منتروں کا جاپ کیا تھا۔ ترشنا

بدروح آ کر تمہیں کیسے تک کر سکتی تھی۔“

اس کے باوجود یوگی مت کے نیلے کے مندر والی چڑیل کا ڈراؤنا مسئلہ اپنی جگہ پر قائم تھا۔ ابھی تک میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا تھا کہ وہ حقیقت تھی یا میرا دن میں دیکھا ہوا کوئی ڈراؤنا خواب تھا۔ بے دیو کے ہتاجی نے مجھے منتروں والا مہرہ دے دیا تھا۔ یہ کالے رنگ کا خوبانی کی کھٹلی کے برابر تھا۔ میں اس مصیبت کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن مجبور ہو کر رکھ لیا تھا کہ جہاں اور سب کچھ ہو رہا ہے وہاں یہ بھی سہی۔

مزید ایک دن گزر گیا۔ کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میں کوارٹر سے نکل کر ٹہنے کے لئے کھیتوں میں یا ندی کی طرف نکل جاتا تھا۔ اس روز کا ذکر ہے کہ شام کے قریب کچھ لوگ مرگٹ میں جلانے کے واسطے ایک مردہ لے کر آئے۔ بے دیو نے بتایا کہ یہ شہر کی ایک گانے بجانے والی طوائف کی لاش ہے جو اسی گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میری لاش کو میرے گنوں والے مرگٹ میں نذر آتش کیا جائے۔ لاش کے ساتھ چھ سات آدمی بھی تھے۔ بے دیو کے باپ نے چان پر لکڑیاں چن دی تھیں۔ گرت کی لاش کو لکڑیوں کے اوپر لٹا کر اس کے اوپر لکڑیوں کی ایک اور تہہ لگا دی۔ ایک آدمی نے لکڑیوں پر پتیل کی کٹوری میں سے گھی انڈیل دیا۔ ان کے ساتھ آخری رسومات کے وقت اشلوک پڑھنے والا کوئی برہمن وغیرہ نہیں تھا۔ یہ کام بے دیو کے باپ نے ہی انجام دیا۔ تین چار آدمی جو عورت کا مردہ لے کر شہر سے آئے تھے ان میں سے ایک نے چتا کو آگ دکھا دی۔ تھوڑی دیر بعد لکڑیوں نے آگ پکڑ لی اور شعلے بلند ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی مردے کو لانے والے آدمی بے دیو کے باپ کو کچھ پیسے وغیرہ دے کر واپس چلے

کیا حال ہوتا۔ میں زندہ بھی رہتا یا نہ رہتا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس لڑکی ترشا کی بدروح کے بارے میں یہ لوگ مجھے ایسی ایسی خوفناک باتیں بتا رہے تھے اس نے مندر میں آ کر مجھے تابوت سے باہر نکالا تھا۔ اگر وہ بقول بے دیو کے باپ۔ واقعی میری جان کی دشمن تھی اور مجھے ہلاک کرنا چاہتی تھی تو مجھے بند تابوت سے کیوں نکال دیتے تھے مجھے مرنے کے لئے چھوڑ دیتی۔ اگر وہ لڑکی ترشا زندہ انسانی حالت میں نہیں تھی اس کی بدروح تھی تو وہ مجھے بڑی آسانی سے وہیں ہلاک کر سکتی تھی۔ جب ان باتوں پر خیال آتا تو مجھے بے دیو کے باپ کی ساری باتیں جھوٹ لگتیں اور میرے دل سے ترشا بدروح کا خوف کچھ دیر کے لئے نکل جاتا۔ لیکن پھر کفر غالب آ جاتا اور میرا ناپختہ ذہن توہمات کا شکار ہو جاتا کہ کیا پتہ ترشا کی روح واقعی کسی وقت اچانک نمودار ہو کر میرا گنا

دے۔

عجیب شش و پنج کی حالت تھی میری۔ لیکن میں نے وہاں مزید دو دن ٹھہر۔ فیصلہ کر لیا تھا۔ اب وہ اداس آنکھوں والی لڑکی جو مجھے ریل گاڑی میں ملی تھی اور جس مجھے محبت ہو گئی تھی میرے دل و دماغ سے غائب ہو گئی تھی اور اس کی جگہ ایک ڈراؤنی نمودار ہو گئی تھی جو مجھے ہلاک کرنے کے لئے میرا پیچھا کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس لئے کہ میں نے ان لوگوں کی باتوں کو سچ مان لیا تھا ورنہ کسی کسی وقت جب مجھ پر خالص اور صرف محبت کا غلبہ ہوتا تو اس لڑکی کی معصوم مسکراہٹ والا بھولا بھالا چہرہ میری آنکھ کے سامنے آ جاتا اور مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی کوئی چڑیل بھی ہو سکتی ہے۔



تھے ہیں کہ آپ لوگ خود ہی پھول اٹھا کر ندی میں بہا دینا۔ ہمیں جلدی شہر پہنچنا ہے۔ میں ان کو مردے کے پھول ایک کنوڑے میں ڈال کر رکھ دوں گا۔ تم صبح صبح ندی پر اشانانے جاتے ہوئے ساتھ لے جانا اور ندی میں بہا دینا۔ میں سونے جا رہا ہوں۔ تم بھی جا ر آرام کرو۔“

جے دیو کا بوڑھا باپ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جے دیو کہنے لگا۔
 ”موہن! ایک کام کرتے ہیں۔ میں صبح صبح اشانانے کرنے کے لئے نہیں اٹھ سکتا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں سلاخوں سے انگارے ہٹا کر بڑے بڑے سے مردے کی ہڈیاں اور کچھ راکھ چتا میں اٹھا کر مٹی کے کنوڑے میں ڈال کر چھپیں گے دوں گا۔ تم اسے اپنے کمرے کے کونے میں رکھ دینا۔ کل دوپہر کو میں لے جا کر اسے ی میں بہا دوں گا۔ پتا جی نے صبح پوچھا تو میں کہہ دوں گا کہ میں نے صبح صبح ہی پھول ندی میں بہا دیئے تھے۔“

ہندو لوگ اپنے مردوں کی راکھ اور ہڈیوں کو پھول کہتے ہیں۔ امیر ہند تو اپنے یازوں کے پھول گنگا دریا میں لے جا کر بہاتے ہیں۔ غریب لوگ دیں کسی ندی یا دریا میں بہا دیتے ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا میں نے کہا۔
 ”ٹھیک ہے۔ تم مٹی کا کپڑا کمرے میں رکھ دینا۔“

ہم وہیں بیٹھے رہے۔ چتا کی آگ آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی۔ پھر شعلے غائب گئے اور صرف انگارے باقی رہ گئے۔ رات نو ساڑھے نو بجے کا وقت ہو گا۔ جے دیو اٹھ کر چتا کے قریب گیا۔ لوہے کی ایک لمبی کنڈے والی سلاخ سے اس نے لکڑی کے بڑے سے انگاروں کو ایک طرف ہٹا دیا۔ پھر ایک بہت لمبے چٹے سے اس نے چتا میں سے دس ہڈیاں اور تھوڑی سی راکھ نکال کر کنوڑے میں ڈالی اور اسے اٹھا کر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس نے مردے کے پھول یعنی مردے کی ہڈیوں اور راکھ والا کپڑا کونے میں رکھ دیا۔ یہ کہہ کر چلا گیا کہ کل کسی وقت اسے ندی میں بہا دیں گے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ مجھے بڑی سخت نیند آ رہی تھی۔ میں چار پائی پر

گئے۔ میں اور جے دیو جلتی ہوئی چتا سے کچھ فاصلے پر اٹلی کے درخت کے نیچے بیٹھے پر دیکھ رہے تھے۔ اس کا باپ چتا کو آگ لگا کر کچھ دور ایک تخت پوش پر بیٹھا ناریل لپا تھا۔ میں نے جے دیو سے پوچھا۔

”آگ لگنے سے مردے کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔“

وہ بولا۔

”آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ تو پتھر ہو جاتا ہے۔ اگر

چاہے زمین میں دبا دو۔ چاہے آگ میں جلا دو سب ایک برابر ہے۔“

میں نے کہا۔

”لیکن آدمی کو آگ لگانا مجھے اچھا نہیں لگا۔“

جے دیو بولا۔

”اپنے اپنے دھرم کی بات ہے۔ ہماری ماما جی کہا کرتی تھیں کہ جب ہم مرد

کے جسم کو آگ لگاتے ہیں تو اگنی دیوی اسے اٹھا کر لے جاتی ہے۔“

میں نے پوچھا۔

”یہ اگنی دیوی کون ہے۔ کہاں سے آ کر مردے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔“

جے دیو نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور بولا۔

”تم ہندو ہو کر اگنی دیوی کو نہیں جانتے؟ اگنی دیوی آگ کی دیوی ہے۔

آکاش سے آتی ہے اور مردے کے جسم کو اٹھا کر آکاش کی طرف لوٹ جاتی ہے۔“

مجھے فوراً خیال آ گیا کہ میں نے تو جے دیو کے آگے اپنے آپ کو ہندو ظاہر کیا

ہے۔ میں نے کہا۔

”اچھا اچھا۔ ہاں۔ اب میں سمجھ گیا میں بھول گیا تھا۔“

اتنے میں جے دیو کا باپ تخت پوش سے اٹھ کر ناریل ہاتھ میں لئے آیا اور۔

دیو سے کہنے لگا۔

”ان لوگوں میں سے عورت کے پھول اکٹھے کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ آ

نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا جہاں میں چار پائی کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا۔

”میرے ساتھ چلو گے۔ میں جھانسی کی رانی کے محل میں رہتی ہوں۔“

مجھ پر لرزہ طاری تھا۔ میں اسے کیا جواب دیتا۔ خوف سے میرا خون خشک ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت نہیں ہے بلکہ لکشمی کی بدروح ہے جو مرنے کے بعد اسی دنیا میں بھٹکنے لگی ہے۔ جب میں نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بھٹکتی بدروح بولی۔

”تمہاری آتما بڑی اچھی ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ۔“

اور وہ دروازے میں سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔ پانچ سات منٹ تک میں اسی طرح بت بنا چار پائی کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ روح کمرے سے جا چکی ہے اور دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو میں اٹھ کر چار پائی پر بیٹھ گیا۔ اب نیند مجھے کہاں آئی تھی۔ باقی کی ساری رات چار پائی پر کبھی بیٹھ کر اور کبھی لیٹ کر پہلو بدلتے گزاردی۔ دن نکل آیا میں نے دیکھا کہ کونے میں لکشمی طوائف کی راکھ اور ہڈیوں والا مرتبان نہیں تھا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ رات کو میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ جب مرتبان کو غائب پایا تو مجھے یقین کرنا پڑا کہ رات کو مردہ لکشمی کی بدروح آئی تھی۔ اور اپنے پھول لے گئی ہے۔

دن کافی نکل گیا تھا کہ بے دیو آ گیا۔ کہنے لگا۔

”میں مردے کے پھول ندی میں بہا آؤں پھر اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کریں گے۔“

میں خاموش رہا۔ بے دیو میرا ہم عمر لڑکا سا ہی تھا۔ وہ اس کونے کی طرف گیا جہاں اس نے شام کو خود مرتبان رکھا تھا۔ مگر مرتبان وہاں نہیں تھا۔ اس نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا۔

”مرتبان کہاں چلا گیا؟“

میں پھر بھی خاموش رہا وہ بولا۔

”کیا بات ہے موہن! تم خاموش کیوں ہو؟ اگر صبح صبح تم نے مرتبان کی راکھ اور

لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں سو گیا۔ معلوم نہیں میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ کھٹ کھٹ کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ دروازے پر کوئی آہستہ آہستہ دھک دے رہا تھا۔ میں یہ سمجھا کہ صبح ہو گئی ہے اور بے دیو نے دوپہر کا ارادہ بدل دیا ہے اور مردے کی ہڈیوں والا کٹورا لینے آیا ہے۔ میں چار پائی سے اٹھ کر دروازے کے پاس گیا۔ میں نے احتیاطاً پوچھ لیا۔

”کون ہے؟“

دوسری طرف سے ایک عورت کی آواز آئی۔

”میں جھانسی کی لکشمی طوائف ہوں۔ اپنے پھول لینے آئی ہوں۔“

دہشت کے مارے میرے جسم پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ یہ اس عورت کی آواز تھی جس کے مردہ جسم کو ہم شام کے وقت جلا کر راکھ کر چکے تھے۔

باہر سے اس عورت کی ایک بار پھر آواز آئی۔

”دروازہ کھولو میں جھانسی کی لکشمی ہوں۔ میں اپنے پھول لینے آئی ہوں۔“

میں ایک بھٹکتی بدروح کے لئے کیسے دروازہ کھول سکتا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ کمرے کی طرف ایک ہی کھڑکی تھی جس میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ دہشت کی وجہ سے میرا حلق خشک ہو رہا تھا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے سونے سے پہلے ہی بجھا دی تھی۔ اتنے میں دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ میں ڈر کر چار پائی کے پیچھے چھپ گیا۔ میری آنکھیں دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ دروازہ چوٹ کھلا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک عورت کا ہیولا سا اندر داخل ہوا۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے ڈوب رہی تھی۔ عورت اندھیرے میں کچھ کچھ نظر آ رہی تھی۔ اس نے ساڑھی پہنی ہوئی تھی۔ وہ سیدھی اس طرف آگئی جہاں بے دیو نے جھانسی کی طوائف لکشمی کی ہڈیاں اور راکھ مرتبان میں رکھی ہوئی تھیں۔ عورت کا ہیولا مرتبان کے پاس آ کر رک گیا۔ مجھے عورت کے سرد آہ بھرنے کی آواز آئی۔ وہ مرتبان پر جھک گئی۔ پھر اس نے مرتبان کو اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ اسی

ایک عورت کے ہیولے کو دیکھا۔ وہ اندر آئی اور سیدھی اس کمرے کی طرف گئی جہاں اس کی راگھ اور ہڈیوں والا مرتبان پڑا تھا۔ اس نے مرتبان اٹھایا اور واپس چل پڑی۔ دروازے کے پاس آ کر اس نے میری طرف گردن موڑ کر دیکھا اور کہنے لگی۔ میرے ساتھ چلو گے؟ میں جھانسی کی رانی کے محل میں رہتی ہوں۔ اس کے بعد وہ دروازے میں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ اپنے آپ بند ہو گیا۔“

جے دیو اور اس کا بوڑھا باپ دونوں بڑی حیرت سے میری بات سن رہے تھے۔ جب میں نے بات ختم کی تو بوڑھا بولا۔

”تم خوش قسمت ہو کہ اس کے ساتھ نہیں گئے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میں جھانسی کے رانی محل میں رہتی ہوں۔ اس عورت کو جو کہ جھانسی کی مشہور طوائف تھی جھانسی کے رانی محل کے کھنڈر میں لے جا کر ہی گلا دبا کر مار دیا گیا تھا۔ پولیس اس کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہے۔“

میں نے جے دیو کے باپ سے کہا۔

”اب میرا جی یہاں سے اکڑ گیا ہے۔ ڈرتا ہوں کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں اور کوئی بدروح مجھے نہ چٹ جائے۔ اس لئے میں آج یہاں سے چلا جاؤں گا۔“

بوڑھا کہنے لگا۔

”ابھی ترشنا کی بھکتی روح کے چلے کے دو دن باقی ہیں۔ میرا چلہ پورا نہ ہوا تو ترشنا کی بدروح تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس لئے میری مانو اور دو دن اور رک جاؤ اور مجھے چلہ پورا کر لینے دو۔“

مگر میں نے دل میں وہاں سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے اور جے دیو نے ناشتہ کیا اس کے بعد میں وہاں سے بھاگنے کی ترکیبیں سوچنے لگا؟ جے دیو کچھ دیر کے بعد چلا گیا۔ اس کے باپ نے مجھے کمرے سے باہر نکلنے سے سختی سے منع کیا تھا لیکن مجھے اب اس کے منٹروں اور اس کے چلے وغیرہ کی کوئی پروا نہیں تھی۔ مجھے یہی ڈر لگا ہوا تھا کہ یہ جگہ بدروحوں کا مسکن بن چکی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بلا میرے

ہڈیاں ندی میں بہادی ہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے تم نے۔“

میں نے کہا۔

”میں نے مردے کے پھول ندی میں نہیں بہائے۔“

جے دیو اور زیادہ حیران ہو کر بولا۔

”تو پھر مرتبان کہاں چلا گیا؟“

میں نے کہا۔

”مرتبان میں جس مردہ عورت کی راگھ اور ہڈیاں تھیں وہ خود اسے لے گئی ہے۔“

”یہ تم کیا کہہ رہے ہو۔“

جے دیو میرے پاس آ کر چار پائی پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اسے رات والا واقعہ سنایا تو میرا منہ تنکے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فوراً جا کر اپنے چٹا جی کو یہ واقعہ سنا دیا۔ اس کا بوڑھا باپ میرے پاس آ گیا کہنے لگا۔

”کیا تم پورے دشواں کے ساتھ کہتے ہو کہ رات جو عورت اپنے پھول لینے آئی تھی اس نے اپنا نام لکشمی بتایا تھا؟“

میں نے کہا۔

”بالکل میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ کوئی خواب ہوتا تو مرتبان کو تو یہاں موجود ہونا چاہئے تھا۔“

”اس عورت نے کیا کہا تھا؟“ بوڑھے نے پوچھا۔

میں نے کہا۔

”اس نے دروازے پر دستک دی۔ میں جاگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ دوسری طرف سے اس نے کہا۔ میں جھانسی کی لکشمی ہوں میں اپنے پھول لینے آئی ہوں۔ میں ڈر کر چار پائی کے پیچھے چھپ گیا کیونکہ جھانسی کی لکشمی کو تو ہم شام کو جلا چکے ہیں۔ عورت نے دوبارہ کہا دروازہ کھولو۔ میں جھانسی کی لکشمی ہوں میں اپنے پھول لینے آئی ہوں۔ میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور میں نے

سامان کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ان دنوں کا تصور ذہن میں لاتا ہوں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ میں اتنے لمبے لمبے سفر بغیر ساز و سامان کے اور وہ بھی بغیر ٹکٹ کیسے کر لیا کرتا تھا۔ گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر رکی تو میں تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں چڑھ گیا۔ یہ گاڑی دلی جا رہی تھی۔ اس کی ایک بوگی کے اوپر بمبئی، جھانسی، دلی کی تختی لگی ہوئی تھی۔ ہڈی تھوڑی دیر کے لئے ہی رکی اور پھر چل پڑی۔ میری اس زمانے میں ایک عادت رہی تھی کہ میں کسی ایک ڈبے میں ٹک کر نہیں بیٹھتا تھا۔ دو تین سٹیشن گزر جاتے تو میں کسی دوسرے ڈبے میں چلا جاتا۔ یہ ضرور دیکھ لیتا تھا کہ یہ ڈبہ تھرڈ کلاس کا ہی ہے۔ یہاں سے بھی گاڑی چلی تو دو چار سٹیشن گزر جانے کے بعد میں تھرڈ کلاس کے ایک اور ڈبے میں آ گیا۔ یہاں بیٹھنے کو جگہ نہیں تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور باہر کا نظارہ کرتا اور کھیتوں، درختوں اور پہاڑوں، ٹیلوں کو پیچھے کی طرف جاتے دیکھتا رہا۔ وہاں سے دلی کافی دور تھا۔ کوئی بڑا سٹیشن آتا تو میں پلیٹ فارم پر اتر کر گھومنا پھرنا شروع کر دیتا۔



پیچھے بھی لگ جائے۔ میری جیب خالی تھی۔ مگر مجھے اس کی پروا نہ تھی۔ مجھے ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا تھا۔ میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے کا عادی تھا۔ مجھے صرف اتنا ہی کرنا تھا کہ وہاں سے بھاگ کر ریلوے سٹیشن پر پہنچوں اور جو پہلی گاڑی دلی کی طرف جا رہی ہو اس میں بیٹھ جاؤں۔ میں کمرے سے نکل آیا۔ ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں نہ تو بے دیو تھا اور نہ اس کا باپ ہی مجھے دکھائی دیا۔ موقع بڑا اچھا تھا۔ میں کھیتوں کی طرف چل دیا۔ سٹیشن کا راستہ مجھے معلوم تھا۔ میں جلدی جلدی چل رہا تھا لیکن میں نے طے کر رکھا تھا کہ اگر بے دیو یا اس کا باپ آ بھی گیا تو میں واپس جانے سے صاف انکار کر دوں گا۔

مگر میرے پیچھے کوئی نہ آیا۔ کھیتوں سے نکل کر میں چھوٹی کچی سڑک پر ہو گیا جو سیدھی ریلوے سٹیشن کو جاتی تھی۔ ریلوے سٹیشن پہنچ کر میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ دلی جانے والی گاڑی کب آئے گی۔ اس نے بتایا کہ ایک گاڑی ابھی ابھی نکل گئی ہے۔ اب ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دوسری گاڑی آئے گی۔ میں پلیٹ فارم پر ہی بیٹھ گیا۔ ٹکٹ میرے پاس نہیں تھا۔ مگر میں بے فکر ہو کر بیٹھا تھا۔ ٹکٹ چیکر نے آ کر ٹکٹ چیک بھی کی تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ مجھے سٹیشن سے باہر نکال دے گا۔ میں کچھ دیر بعد دوبارہ آ جاؤں گا۔ ان سارے پھروں سے میں اس کم عمری میں ہی گزر چکا تھا۔ مشکل صرف اس وقت پیش آتی تھی جب ٹرین میں ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرتا تھا۔ میری کم عمری کی وجہ سے آج تک کسی ٹکٹ چیکر نے مجھے ریلوے پولیس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ بس وہ مجھے ٹرین سے اتار دیتا تھا۔ اگر اس وقت ٹرین کسی سٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی تو میں پلیٹ فارم پر اتر کر ادھر ادھر ہو جاتا۔ ٹرین چلتی تو دوڑ کر اس کے آخری ڈبے میں سوار ہو جاتا تھا۔ بڑودہ لائن پر بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہوئے میں نے اس قسم کے ایڈوینچر کئی بار کئے تھے۔ مصیبت اس وقت پڑ جاتی تھی جب ٹکٹ چیکر مجھے رات کے وقت کسی ویران سے سٹیشن پر اتار دیتا تھا۔

اس وقت چونکہ دن تھا اسی لئے مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ چنانچہ میں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہا۔ میں نے کرتہ پاجامہ اور چمچل پہن رکھی تھی اور کوئی سامان میرے ساتھ نہیں تھا۔ پندرہ سولہ سال کی عمر تھی اس عمر میں میں کہاں سامان لے کر سفر کرتا پھرتا۔

رگھادی ٹھہرتی تو مجھے اس کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ ہری چھیل کے کیلوں کی ہلکی ہلکی مہک آیا کرتی تھی۔ یہاں کے ہری چھیل کے کیلے بڑے مشہور تھے۔

ان پر نسواری دھبوں کے نشان بالکل نہیں ہوتے تھے۔ بالکل سرسبز ہوتے تھے۔ مگر اندر سے بے حد میٹھے نرم اور خوشبودار ہوتے تھے۔ اسی طرح لکھنؤ کے سٹیشن پر مختلف عطریات اور پان کے قسم قسم کے قواموں کی خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھیں۔ لکھنؤ کا ریلوے سٹیشن اپنی نفاست، نزاکت اور خوبصورتی کی وجہ سے سارے ہندوستان میں مشہور تھا۔

اس کی عمارت لاہور کے ریلوے سٹیشن کی عمارت کی ہو بہو نقل تھی۔ اس کے پلیٹ فارم پر پان سگریٹ کے سٹال بھی ہوا کرتے تھے۔ پتہ نہیں اب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سٹال بڑے بے سنورے ہوتے تھے۔ یہاں ایک بہت بڑا آئینہ ضرور لگا ہوتا تھا۔ جس کے سامنے کھڑے ہو کر گاہک اپنے بال وغیرہ درست کیا کرتے تھے۔ پان سگریٹ کے سٹالوں پر اتنی خوشبوئیں اڑتی تھیں کہ آدمی کو محسوس ہونے لگتا کہ یہ پان سگریٹ کا نہیں بلکہ لکھنؤ کے مشہور عطر سازوں اصغر علی، محمد علی کے عطریات کا سٹال ہے۔

کلکتے جاتے ہوئے جھریا کا سٹیشن آتا تو اس کے پلیٹ فارم پر اتنے وقت مجھے پتھر کے کونوں کی ہلکی ہلکی بو ضرور محسوس ہوتی۔ جھریا میں کولے کی کانیں تھیں اور یہاں انجن پر پتھر کا کولہ لادا جاتا تھا۔ بسبئی کے سٹیشن پر مجھے ہمیشہ ایرانی ہونٹوں میں پی جانے والی چائے اور بارش کی خوشبو آتی تھی۔

ایک چائے اور اوپر سے بارش۔ بارش میں چائے۔ چائے میں بارش۔ پہلی بار جب میں آٹھویں جماعت سے بھاگ کر بسبئی سنٹرل کے سٹیشن پر پہنچا تھا تو مجھے بارش اور چائے کی اس خوشبو نے ریلوے سٹیشن سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا۔ اسی طرح سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کی طرف سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹے سے جنگلاتی ریلوے سٹیشن پر گاڑی رکی تو اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ اور سٹیشن کے سرخ مٹی والے پلیٹ فارم سے مٹی اور انناس کی خوشبو آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں انناس بیچنے والی سیلونی لڑکیاں آگئیں۔ انہوں نے کیلے کے سبز پتوں پر کٹے ہوئے انناس کے قتلے رکھے تھے اور آواز

کتابوں رسالوں کے سٹال پر جا کر رسالوں کی تصویریں دیکھتا۔ فسٹ کلاس کے ریفر۔ شمنٹ روم کے سامنے سے ضرور گزرتا کیونکہ وہاں سے اکثر چائے کی خوشبو آیا کرتی تھی جو مجھے بڑی پسند تھی۔ چائے آج کل بھی پاکستان میں بڑی معیاری ملتی ہے مگر اس زمانے میں لٹن کے کئی براڈ ہوتے تھے۔ ایک اور نچ پکچو چائے ہوا کرتی تھی۔ اس کی خوشبو مجھے اپنے ساتھ اڑا کر جنگلوں، سمندروں اور چائے کے ان دیکھے باغات کی طرف لے جاتی تھی۔

بڑے سٹیشنوں کے پلیٹ فارموں پر ان دنوں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ سٹیشن 1941/42ء کی بات کر رہا ہوں۔ حیرت کی بات ہے اور اس کا میں نے کافی مشاہدہ کیا ہے کہ اس زمانے میں ہر بڑے ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم کی فضا الگ ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر بیجے بڑودہ لائن پر ہر دوئی نام کا ایک سٹیشن آتا تھا۔ یہ چھوٹا سا شہر ہوا کرتا تھا اور یہاں کے لڈو بڑے مشہور تھے۔ اس سٹیشن کے پلیٹ فارم پر بڑی بوندی والے لڈو لگا کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوتی تھی۔ اس خوشبو میں گلاب کے عرق کی دھیمی دھیمی مہک بھی ہوتی تھی۔ جو ہر دوئی کے لڈوؤں میں ڈالا جاتا تھا۔

یہاں پھیری والے ہر دوئی کے لڈو لے لو ہر دوئی کے لڈو لے لو کی آواز لگا لگاتے پھرتے تھے۔ ان کے پاس مٹی کے کوزے ہوتے۔ ہر کوزے میں مالٹے کی ساڑھے دو لڈو ہوتے تھے۔ لڈوؤں پر سفید بورا چینی کی بڑی باریک سی تہہ جی ہوتی تھی جس میں سے لڈو کی بڑی بوندیاں زرد موتیوں کی طرح نظر آتی تھیں۔ اسی طرح بھوسال کے سٹیشن

والے کر دوں مگر تمہاری عمر پر ترس آتا ہے۔ بس یہی کر سکتا ہوں کہ جہاں گاڑی رکے
ہاں تمہیں نیچے اتار دوں گا۔“
بد قسمتی سے گاڑی کی رفتار ہلکی ہونے لگی اور تھوڑی دیر بعد گاڑی رات کے
دیرے میں ایک ویران جنگل میں رک گئی۔ شاید آگے کوئی سگنل نہیں گرا تھا یا لائن کی
دمت ہو رہی تھی۔

ٹی ٹی مجھے اٹھا کر ڈبے کے دروازے پر لے آیا۔ گاڑی نے سیٹی دی اور دوبارہ
ل پڑی۔ ٹی ٹی نے مجھے زبردستی ٹرین سے نیچے اتار دیا۔ میں ریلوے لائن کے پتھروں پر
بے پھل کر دوڑ جا کر۔ اگر میں کسی ہموار پلیٹ فارم پر ہوتا تو دوڑ کر ٹرین کے کسی ڈبے
پر دروازے کو پکڑ کر ٹرین میں سوار ہو سکتا تھا۔ دو تین بار میں ایسا کر چکا تھا۔ مگر وہاں کوئی
بٹ فارم نہیں تھا اور میں ریلوے لائن سے بھی نیچے ڈھلان پر تھا۔

رات کے اندھیرے میں کسی ڈبے کے دروازے کی آہنی ہتھی بھی نظر نہیں آ رہی
تھا۔ میرے دیکھتے دیکھتے ٹرین گزر گئی اور میں اس کے سب سے پچھلے ڈبے کی سرخ بتی
ادیکھا رہ گیا جو رات کے اندھیرے میں آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔

کچھ دیر تو میں حسرت و یاس کے عالم میں ریلوے لائن کے پاس کھڑا ٹرین کی
راختی کوٹکا ہوں سے ادھم ہوتے دیکھتا رہا۔ پھر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ اسی طرف
ماڑا جس طرف ٹرین گئی تھی۔

یہ مجھے علم ہو چکا تھا کہ آگے کسی بڑے شہر کا اسٹیشن آ رہا تھا۔ میں دل میں یہ امید
تھی کہ جلا جا رہا تھا کہ آگے جو بڑا شہر ہے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہر طرف رات کا سناٹا تھا۔ کوئی
انسانی نہیں دے رہی تھی۔

پہلے تو گھپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اندھیرے میں درختوں
ریلوے لائن کے دھندلے دھندلے خاکے نظر آنے لگے اور میں آہستہ آہستہ چلتا رہا۔
مانہ تو کہیں ریلوے لائن کی مرمت ہو رہی تھی اور نہ کسی سگنل کی بتی ہی نظر آ رہی تھی۔
خدا جانے ٹرین کیوں رک گئی تھی۔ شاید وہ صرف مجھے نیچے اتارنے کے لئے رکی تھی۔

دیکھ رہی تھیں۔ پائن اپیل سرفافا یونیورسٹی سٹوڈنٹ سٹراویری سویٹ سٹرا۔

یہ میرے ماضی کی آوازیں اور میرے ماضی کی خوشبوئیں ہیں جو میرے حال
ساتھ ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ ایک دن یہ ساری آوازیں، یہ ساری خوشبوئیں، یہ ساری
معلوم خوبصورت چہرے مجھے اور میرے ماضی اور میرے حال کو لے کر مستقبل کی نور
روشنیوں کی وادیوں میں اتر جائیں گی۔

ابھی تک میں یہ بیان کر رہا تھا کہ میں بغیر ٹکٹ کے تھا اور ایک ریل گاڑی
تھمڑ ڈھکاس کے ڈبے میں بیٹھا۔ سبھی سے دلی کی جانب سفر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ
میں ٹی ٹی نہ ہی آئے تو اچھا ہے۔ خواہ خواہ کی مشکل میں پھنس جاؤں گا۔

لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ آدھا دن ٹرین میں سفر کرتے گزر گیا۔ رات
گئی تو ایک اسٹیشن سے گاڑی چلی تو ٹی ٹی صاحب ہمارے ڈبے میں دوڑ کر چڑھ گئے۔
ہمیشہ دوڑ کر اس وقت ڈبے میں چڑھتے تھے جب ٹرین چل پڑتی تھی۔ شاید اس خیال
کہ بغیر ٹکٹ کا کوئی مسافر اگر ڈبے میں موجود ہے تو وہ ڈبے سے اتر نہ جائے۔

میں نے ٹی ٹی کو ڈبے میں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ آگے کوئی بڑا اسٹیشن آنے والا
اب یاد نہیں رہا کہ وہ کون سا اسٹیشن تھا۔ بہر حال ٹی ٹی کو دیکھ کر میرا دل ایک دو بار زور
دھڑکا پھر میں سنبھل گیا۔ ٹرین کی سپیڈ تیز ہو چکی تھی ورنہ میں کھڑکی میں سے باہر
لگا دیتا۔ مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتے کرتے وہ میرے پاس آ گیا۔ بولا۔

”چل بے لڑکے ٹکٹ دکھا۔“

میں نے اداکاری شروع کر دی۔ کبھی کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالنا
پاجامے کی جیبوں کو ٹٹولنا۔ اس زمانے میں ایسے چٹلون نما پاجامے ہوا کرتے تھے جن
جیبیں لگی ہوتی تھیں۔ ٹی ٹی فوراً سمجھ گیا کہ میں بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہوں۔ میں نے
”پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ میں نے اسی جیب میں رکھا تھا۔“

ٹی ٹی نے مجھے کان سے پکڑ کر کھڑا کیا اور بولا۔
”میں سب سمجھتا ہوں۔ جی تو چاہتا ہے اگلے اسٹیشن پر تمہیں ریلوے پل

مجھے نیچے اتارا اور آگے چل دی۔
خدا جانے میں کتنی دیر چلا ہوں گا کہ ایک ندی کا پل آ گیا۔ میں پل پر
گیا۔ سانپوں کا بھی مجھے ڈر لگا ہوا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ سانپ ریل گاڑی کے
کی آواز کے عاشق ہوتے ہیں اور برسات کی راتوں میں ریل کی پٹری پر لیٹ کر
آتی ہوئی گاڑیوں کے پہیوں کی تھر تھراہٹ کو محسوس کر کے مست ہو جاتے ہیں۔
قدموں کی آواز پر کوئی بھی سانپ گھبرا کر مجھے ڈس سکتا تھا۔ مگر خدا کا شکر ہے
اندھیرے میں کوئی سانپ ریلوے لائن پر لیٹا بھی ہوا تھا تو اس نے میری طرف توجہ
لیکن ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تھا۔

اس کے لہجے میں بڑی شفقت تھی۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم کھیتوں میں
گزر رہے تھے۔ شاید دیہات کے کھیت تھے کیونکہ چاولوں کی دھیمی دھیمی خوشبو کسی وقت
جاتی تھی۔ ایک دو میل جانے کے بعد ایک گاؤں کی دو تین بتیاں دکھائی دیں۔ یہ ایک
داسا گاؤں تھا جس کے مکانوں پر اندھیرا چھا رہا تھا وہ آدمی مجھے ایک پرانی حویلی میں
لایا۔ یہاں اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ ایک عورت نے دروازہ کھول کر نیند بھری آواز
اپنچھا۔
”کون ہوتم؟“

اس آدمی نے اپنا ہندوانہ نام بتایا جو میں بھول گیا ہوں۔ کہنے لگا۔
”پورب دادا سے کہو اس کا ایک مہمان آیا ہے۔“
اور اس کے ساتھ ہی اس نے لائین میرے چہرے کے قریب کر دی۔ عورت
مجھے گور کر دیکھا اور بولی۔
”اسے اندر لے آؤ۔“
دیہاتی بولا۔

”تم اسے اندر لے جا کر سلا دو۔ میں صبح پورب دادا سے مل لوں گا۔“
عورت نے مجھ سے کہا۔
”آ جاؤ۔ اندر آ جاؤ۔“
مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ مجھے علم
کیسے ہو سکتا تھا۔ عورت نے ڈیوڑھی کا دروازہ بند کر دیا۔ ڈیوڑھی میں دھیمی روشنی والی
ناروشنی تھی۔ لائین کی روشنی میں عورت کی آگے مڑی ہوئی ناک سے مجھے اس پر کسی
لٹکا لگانے لگا تھا مگر اس کا لہجہ بڑا شفقت بھرا تھا۔ کہنے لگی۔

”میرے ساتھ آؤ۔ اندر والے صحن میں چار پائی پر سو جانا۔ تم کہاں سے آرہے
وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر حویلی کے اندرونی صحن میں لے آئی جو چاروں طرف

جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے مجھے آواز دی۔
”کون ہو؟“
میں رک گیا۔ میں نے کہا۔
”گاڑی چھوٹ گئی تھی۔ پیدل اگلے سٹیشن پر جا رہا ہوں۔“
وہ آدمی لائین ہاتھ میں لئے اوپر میرے پاس آ گیا۔ اس کے دوسرے
لبا بانس تھا۔ دیہاتی آدمی تھا۔ کہنے لگا۔
”اگلا سٹیشن تو کوسوں دور ہے۔ راستے میں کوئی شیر چیتا مل گیا تو رات
چھوڑے گا۔“

میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوچھا۔
”پھر میں کیا کروں؟“
کہنے لگا۔
”میرے ساتھ آؤ۔ گاؤں قریب ہی ہے۔ وہاں رات گزار کر صبح چلے جا

میں چارپائی پر آکر بیٹھ گیا۔ حویلی کا ماحول بڑا پرسرار سا تھا۔ وہاں سوائے اس عورت کے مجھے کوئی دوسرا انسان ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ اب کالے رنگ کا دہلا پتلا آدمی جس نے سر پر نیلا رومال باندھا تھا، تھا صرف ایک صدری دور دھرتی پہنی ہوئی تھی۔ عورت کے ساتھ میرے سامنے آکر کھڑا ہوا اور میرا جائزہ لینے لگا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عورت نے مجھ سے کہا۔

”یہ شامو ہے۔ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ یہ تمہیں خود دلی جانے والی لاری پر بٹھا دے گا۔ جاؤ۔“

شامو کی سواری رنگ کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اسے اس کا شکار مل گیا ہو۔ کہنے لگا۔

”آ جاؤ بابو! آ جاؤ۔ تمہیں دلی پہنچائے دیتا ہوں۔“

میں اس کے ساتھ ہولیا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر ایک خستہ حال سی پرانی جیب کھڑی تھی جس کی چھت ترپال کی تھی۔ شامو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے ساتھ بٹھالیا۔ کہنے لگا۔

”بابو! پنجاب سے آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”ہاں۔ امرتسر سے۔“

”ہوں۔“ شامو بولا۔

”کوئی بات نہیں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔“

جیب کھیتوں کے درمیان بنے ہوئے کچے راستے پر گرد اڑاتی چلی جا رہی تھی۔ ٹھانے محسوس کیا کہ جیب گاؤں کی طرف جانے کی بجائے اسے ایک طرف چھوڑ کر اس سے آگے نکل گئی ہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے شامو سے پوچھا کہ لاری اڈا گاؤں میں نہیں ہے؟ اس نے کہا۔

”پورب دادا کا لاری اڈا گاؤں سے کچھ دور واقع ہے۔ ابھی پہنچ جائیں گے

سے اونچی اونچی قلعہ نما دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ ہمیں سے دلی جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ رکی۔ میں نیچے اتر کر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے ذرا دور چلا گیا تو گاڑی چل پڑی۔ دوڑ کر گاڑی پکڑنا چاہا مگر اس کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ میں اسے نہ پکڑ سکا۔ عورت بولی۔

”کوئی بات نہیں۔ پورب دادا کی لاریاں چلتی ہیں۔ وہ تمہیں صبح کی لاری بٹھا دے گا۔ تم دلی چلے جانا۔“

میں نے پوچھا۔

”دلی یہاں سے کتنی دور ہے؟“

عورت نے کہا۔

”زیادہ دور نہیں ہے۔ اب تم سو جاؤ۔ مجھے بھی نیند آرہی ہے۔“

وہ عورت چلی گئی۔ میں چارپائی پر لیٹ گیا۔ بہت تھکا ہوا تھا۔ فوراً ہی سو گیا۔ صبح اس عورت نے مجھے جگا کر کہا۔

”اٹھو۔ منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر لو۔“

غسل خانہ کونے میں بنا ہوا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھولیا۔ عورت مجھے روٹی لے گئی۔ وہاں چائے پک رہی تھی۔ ساتھ رات کی پکی ہوئی روٹیاں اور مکھن تھا۔ بہت بھوک لگ رہی تھی۔ خوب ناشتہ کیا۔ عورت مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد گھور کر دیکھا۔ میں نے اس سے پوچھا۔

”پورب دادا کی لاریاں کہاں سے چلتی ہیں؟ مجھے وہاں چھوڑ آؤ۔ میرے کلٹ کے پیسے ہیں۔“

عورت کے چہرے پر ایک پرسرار سا تبسم نمودار ہوا اور فوراً ہی غائب ہو گیا۔ تازہ روٹیاں پکا رہی تھی۔ کہنے لگی۔

”مجن والی چارپائی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ پورب دادا کا آدمی تھوڑی دیر میں آئے گا۔ اس کے ساتھ چلے جانا۔“

پورب دادا نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور پوچھا۔

”کیوں بے! کہاں سے آیا تھا؟“

میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

”پنجاب سے۔“

پورب دادا نے شامو کی طرف دیکھ کر کہا۔

”ارے شامو اسے کام پر لگا دے۔ جا۔“

میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا کہ میں دلی جانا چاہتا ہوں۔ مجھے کام کی

ضرورت نہیں ہے۔ اس پر پورب دادا نے مجھے اردو میں ایک موٹی سی گالی دی اور کہا۔

”اے تمہیں کام کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہوا۔ ہمیں تو کام کی ضرورت ہے۔“

اس سے پیشتر کہ میں کوئی جواب دیتا شامو مجھے بازو سے پکڑ کر ایک کوشٹری میں

لے آیا جہاں ایک آدمی چار پائی ڈالے بیٹھا تھا۔ شامو نے اس آدمی سے کہا۔

”دادا نے کہا ہے، اس کا رکھی بندھن کر دو۔“



وہاں۔“

جیب کھیتوں سے نکلی تو چھوٹے بڑے ٹیلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے سر

کہ پورب دادا کو گاؤں سے باہر لاری اڈا بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس وقت آسمان

بادل جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ ٹیلوں کا سلسلہ ختم ہوا تو درختوں اور جنگلی جھاڑیوں کا

ایک جنگل شروع ہو گیا۔

اس جنگل کے وسط میں کھلی جگہ تھی جہاں میں نے دیکھا کہ پندرہ بیس میری؟

کے لڑکے کلباڑیاں لے درخت کاٹ رہے تھے۔ چھ سات آدمی بندوقیں اٹھائے ان کا

گمرانی کر رہے تھے۔ ابھی تک مجھے ان لڑکوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے لوہے

کڑے نظر نہیں آئے تھے۔ میں یہی سمجھا کہ اردگرد کے قبضوں کے لڑکے ہیں جو یہاں محض

مزدوری کر رہے ہیں۔ شامو نے جیب سے اترتے ہوئے کہا۔

”آ جاؤ۔ تمہیں دلی جانے والی لاری پر سوار کرادوں۔“

وہاں درختوں کے نیچے کھیریل کی تین چار چھوٹی چھوٹی کوشٹریاں بنی ہوئی تھیں

ان میں ایک کوشٹی لمبی تھی اور فوجی بیرک کی طرح کی تھی۔ ایک موٹا چوڑا چکلا، بھارا

موٹھوں والا کالے رنگ کا آدمی موٹھے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ ایک آدمی اس

پاؤں میں بیٹھا اس کی پنڈلیاں دبا رہا تھا۔ سامنے تپائی پر کچھ پھل وغیرہ پڑا تھا۔ شامو

مجھ سے کہا۔

”یہ پورب دادا ہے۔ یہ تمہیں دلی پہنچا دے گا۔“

اس وقت میری چھٹی حس نے مجھے خبردار کر دیا۔ کم بخت چھٹی حس نے مجھے خبردار

کرتے ہوئے بڑی دیر کر دی تھی۔ اگر ایک روز پہلے یہ چھٹی حس مجھے خبردار کر دیتی تو

اس آدمی کے ساتھ کبھی نہ جاتا جو ایک رات پہلے مجھے ریلوے لائن پر ملا تھا۔ لیکن اب

ہو چکی تھی اور جو کچھ میرے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا وہ ہونے والا تھا۔

مجھے شامو نے پورب دادا کے سامنے پیش کر دیا۔

پورب دادا کی آنکھیں نسواری تھیں۔

میں چکرا گیا تھا۔ سہم گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بڑے ظالم جاہل قوم کے لوگ ہیں اور مجھے قید کر رہے ہیں۔ اب میں ان کے قبضے میں ہوں۔ میرے پاؤں میں لوہے کے دو کڑے ڈال دیئے گئے۔ ان کڑوں کے ساتھ گز ڈیڑھ گز کی ایک زنجیر بھی بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں قدم قدم چل تو سکتا تھا مگر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ شامو نے اس کوٹھڑی میں سے ایک کلبھاڑی اٹھا کر دیدی اور کہا۔

”چلو بے میرے ساتھ۔“

شامو مجھے کوٹھڑی سے نکال کر اس طرف بڑھا جہاں دس پندرہ لڑکے درختوں کی کٹائی کر رہے تھے۔ میں ٹھیک طرح سے چل نہیں سکتا تھا۔ مگر چلنے پر مجبور تھا۔ لوہے کے کڑے میرے پاؤں کو تکلیف دے رہے تھے۔ وہاں جو مسخ پہریدار لڑکوں کی نگرانی کر رہے تھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ انہوں نے مجھے بھی کام پر لگا دیا۔ میں نے امرتسر کے کڑوی کے نال پر مزدوروں کو لکڑیاں کاٹنے دیکھا تھا مگر خود کبھی کسی درخت پر کلبھاڑی نہیں چلائی تھی لیکن یہاں میں قیدی تھا۔ میں نے ذرا دیر کر دی تو پہلے سے ایک پہریدار نے مجھے گالی دیکر ایک تھپڑ مارا اور کہا۔

”دیکھتا کیا ہے بے! کام شروع کر۔“

میں نے مجبوراً درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ دوسرے لڑکوں نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ جسم کمزور ہو گئے تھے۔ چہروں پر فاقہ کشی کے آثار تھے۔

دوپہر تک میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ مشقت کرتا رہا۔ کسی لڑکے کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر غلطی سے کوئی لڑکا کسی لڑکے سے کوئی بات کرتا تو پہریدار اسے مار مار کر اس کا برا حال کر دیتے۔ دوپہر کو ہمیں کھانے کیلئے وال اور ہاسی روٹی دی گئی۔ اس کے بعد پھر ہمیں کام پر لگا دیا۔

شام تک ہم مشقت کرتے رہے۔ میرا برا حال تھا۔ سارا جسم تھکاوٹ سے چور چور ہو گیا تھا۔ رات کو ہمیں ایک لمبی بیرک میں گھاس پھوس پر ڈال دیا گیا۔ بارک میں

میں نے دیکھا کہ دیواروں پر لوہے کی زنجیریں اور مختلف سائز کے پاؤں میں ڈالنے والے آہنی کڑے یا بیڑیاں لٹک رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا اور وہاں سے بھاگنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ میری عقل کہہ رہی تھی کہ تم پھنس گئے ہو۔ تمہیں رات کے وقت لائین والے آدمی کے ساتھ کبھی نہیں جانا چاہئے تھا۔ اب تم بری طرح پھنس چکے ہو۔ اس آدمی نے چار پائی سے اٹھ کر میری ایک پنڈلی کو ہاتھ لگا کر دیکھا اور پھر دیوار پر لٹکے ہوئے لوہے کے دو کڑے اتار کر لے آیا۔ میں نے کچھ گھبراہٹ اور کچھ غصے کے ساتھ کہا۔

”یہ تم کیا کر رہے ہو؟“

شامو نے کہا۔

”ارے بابو! یہ کھوا لو ہار ہے۔ تمہارے پاؤں میں کڑا ڈال کر تمہارا راکھی بندھن کر رہا ہے۔ تم ذرا پہن کر تو دیکھو۔“

جونہی وہ آدمی میری طرف بڑھا میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اونچی آواز میں

کہا۔

”خبردار جو میرے پاؤں میں کڑا ڈالنے کی کوشش کی۔“

اس کے ساتھ ہی شامو نے اتنی زور سے مجھے ایک تھپڑ مارا کہ میں نیچے گر پڑا اور میرے ہونٹوں کے کنارے سے خون بہنے لگا۔ شامو مجھے گالیاں دینے لگا۔ اسی نے اپنے آدمی سے کہا۔

”اسے پکڑ کر ڈالو اس کے پاؤں میں بیڑیاں۔“

ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس لڑکے نے پہریداروں سے یہ بات سنی تھی۔

میں اس انکشاف پر بڑا پریشان ہوا۔ میں کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والا تھا۔ اگر ایک بار جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا دیا گیا تو پھر ساری زندگی وہاں سے رہائی نسیب نہیں ہوگی۔ سخت مشکل میں پھنس گیا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا مگر بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔

پاؤں میں بندھی ہوئی ری کی وجہ سے میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ تیسرے دن رات کے وقت وہاں ایک بہت بڑا ٹرک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں بارک سے نکال کر اس ٹرک میں جانوروں کی طرح ٹھونس دیا گیا۔ ٹرک کے اندر دونوں جانب دیوار کے ساتھ لوہے کی کہیں لگی ہوئی تھیں۔

ہمارے پاؤں کی رسیاں کھول کر ہمارے پاؤں میں لوہے کی زنجیریں ڈال کر زنجیروں کے کنڈے ٹرک کی کہوں میں پھنسا دیئے گئے۔ ٹرک چاروں طرف سے بند تھا۔ صرف دیواروں کے اوپر کچھ سوراخ رکھے گئے تھے جن میں سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ ٹرک کے اندر اس قدر جس تھا کہ ہم سب قیدی لڑکوں کا برا حال ہو رہا تھا۔

آخر ٹرک چل پڑا۔ ٹرک کے چلنے سے اندر تازہ ہوا آئی تو ہم سب کی جان میں جان آئی۔ ڈرائیور کی سیٹ کے عقب میں ایک چوکور کھڑکی تھی جس میں سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد جھانک کر قیدی لڑکوں کو دیکھ لیتا تھا۔ ساری رات ٹرک چلتا رہا۔ دن نکلا تو ٹرک سڑک سے ہٹ کر جنگل میں کسی جگہ کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں ہمیں ٹرک سے نکال کر ایک جگہ درختوں کے درمیان تھوڑا بہت چلایا پھر آیا گیا۔

چار سلاخ پہریدار ہمارے آگے پیچھے تھے۔ اس وقت ہمارے پاؤں کھلے تھے۔ مگر کسی میں اتنی ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ بھاگ سکتا۔ یہاں ہمیں چائے اور باسی روٹی کھانے کو دی گئی۔ ایک ندی پر ہمیں سخت پہرے میں نہلایا گیا۔ اس کے بعد ہم سب قیدی لڑکوں کے ایک ایک پاؤں میں ری بانڈھ کر ایک دوسرے سے اس طرح بانڈھ دیا گیا کہ ہم چل

صرف ایک لائین روشن تھی۔ دو پہریدار بندوقیں لئے بارک کے دونوں دروازوں پر بیٹھ پہرہ دے رہے تھے۔ تمام لڑکے اس قدر تھکن سے چور تھے کہ کسی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ سب گھاس پھوس پر گرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی سو گئے۔

مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ سارا بدن درد کر رہا تھا۔ ہونٹ جہاں سے پھٹ گیا وہاں بھی زخم میں درد ہو رہا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ میں کیوں اس آدمی کے ساتھ چل پڑا تھا۔ مگر اب پچھتانے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ صرف وہاں سے فرار کرنا ترکیبیں ہی سوچ سکتا تھا جو بظاہر بہت مشکل دکھائی دیتا تھا۔

ایک تو یہاں اس پاس کوئی آبادی نہیں تھی۔ سارا علاقہ ویران جنگلاتی تھا۔ ہمیں روز صبح اٹھا دیا جاتا۔ ایک ایک گلاس چائے کا ایک باسی روٹی کے ساتھ دیا جاتا۔ اس کے بعد ہمیں جانوروں کی طرح ہانک کر جہاں کٹائی ہو رہی تھی وہاں پہنچا دیا جاتا اور ہم درخت کاٹنے کی مشقت میں لگ جاتے۔ صبح پہریدار ہر وقت ہماری نگرانی کرتے رہتے۔

اسی طرح جب ایک ہفتہ گزر گیا تو ایک دن ہم سب کے پاؤں میں سے لوہے کے کڑے اتار دیئے گئے۔ جنگل کے تقریباً سارے سوکھے درخت ہم نے کاٹ ڈالے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاؤں میں رسیاں بانڈھ دی گئیں۔ رسیاں اس طرح بانڈھی گئی تھیں کہ ہم چل تو سکتے تھے مگر بھاگ نہیں سکتے تھے۔

دو دن تک ہم سے کوئی کام نہیں لیا گیا۔ ہمیں ندی پر لے جا کر نہلایا گیا۔ ہم سب لڑکوں کو جن کی مشقت اور کم خوراک نے پسلیاں نظر آنے لگی تھیں ایک ایک کرنا اور ایک ایک نیکر پہننے کو دی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیں کسی اور ہم کیلئے تیار کیا جا رہا ہے۔ آخر یہ راز بھی کھل گیا۔

معلوم ہوا کہ ہمیں وہاں سے ایک بڑے ٹرک میں ڈال کر بمبئی لے جایا جا رہا ہے جہاں ہمیں ایک اور ایجنٹ کے ہاتھوں فروخت کر دیا جائے گا اور وہ ایجنٹ ہمیں کسی طریقے سے بحری جہاز میں سوار کرا کر جنوبی افریقہ لے جائے گا جہاں ہمیں کسی سمنے جنگل کی کٹائی پر لگا دیا جائے گا۔ یہ بات مجھے ایک لڑکے نے سرگوشیوں میں بتائی تھی۔ اتفاقاً

پھر تو سکتے تھے مگر بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بندوق لئے ایک پہریدار ہر وہ ہمارے سر پر موجود ہوتا تھا۔

دو پہر کو ہمیں پتلی دال کے ساتھ دو دو روٹیاں کھانے کو دی گئیں۔ اسی طرح رات کو بھی ہمیں یہی کھانا دیا گیا جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو ہمیں واپس ٹرک کے مال مویشیوں کی طرح دکھیل کر ہمیں زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا گیا اور ٹرک چل پڑا۔ تین راتوں کے سفر سے ہم بھی پیچھے۔

ان لوگوں نے ٹرک بھیٹی کے ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک ویران جگہ کھڑا کیا تھا۔ یہاں دو آدمی آئے۔ انہوں نے ہمارا معائنہ کیا اور چلے گئے۔ یہاں ہمیں بتایا گیا کہ ہم جنوبی افریقہ جا رہے ہیں جہاں ہم محنت مزدوری کریں گے اور ہمیں بڑے کپڑے بھی ملیں گے اور ہر مہینے اتنی تنخواہ دی جائے گی کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی پیسے بھیج سکیں گے۔ ہمیں وہاں پوری آزادی ہوگی اور ہم شہر کی سیر بھی کر سکیں گے۔ یہ سب جھوٹے دلا سے دینے والی باتیں تھیں۔ ہم سب لڑکوں کو معلوم تھا کہ ہم ایک کنویں سے نکل کر دوسرے کنویں میں گر رہے ہیں۔

میرا دل یہ سوچ سوچ کر بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر میں بھی ان کے ساتھ جنوبی افریقہ چلا گیا تو پیچھے میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا تو برا حال ہو جائے گا۔ میں تو انہیں بتا بھی نہیں سکوں گا کہ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں۔ یہ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ میں کسی حادثے میں ہلاک ہو چکا ہوں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کہاں جاؤں۔ میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے مجھے اس قسم کی سنگین صورتحال کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ ہمیں سمندر کے کنارے ایک ویران بارک میں بند کر دیا گیا۔ ہمیں دوسرے ایجنٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ یہاں ہماری نگرانی کرنے والے نئے لوگ تھے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں۔ بڑے ایجنٹ نے ہم سب کو ایک تقریر کر کے خبردار کر دیا تھا کہ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے وہیں گولی مار دی جائے گی۔

بارک میں ہمارے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں۔ کسی لڑکے کے فرار

ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد سمندر کے کنارے ایک سیئر آئے گا جو ہمیں لے کر روانہ ہو جائے گا۔

میرے سامنے فرار ہونے کا صرف یہی ایک موقع تھا کہ جب تک سیئر میں سوار نہیں ہوتا یہاں سے کسی طرح فرار ہو جاؤں۔ ایک بار دوسرے لڑکوں کے ساتھ سیئر میں ٹپس دیا گیا تو پھر ساری زندگی اس عذاب سے نجات حاصل نہ کر سکوں گا۔ مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ فرار کس طرح ہوا جائے۔ دونوں پاؤں ڈیڑھ گز لمبی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے۔

زنجیر کے ساتھ چلنا مشکل تھا۔ بھاگ کیسے جاتا۔ اس وقت ابھی رات کا پہلا پہر تھا۔ باقی جتنے بھی لڑکے تھے سب ان لوگوں نے اپنے علاقے کے ادھر ادھر کے دیہات سے پڑے ہوئے تھے۔ کبھی غریب کسانوں اور محنت مزدوری کرنے والوں کے ان پڑھ لڑکے تھے۔ ان میں صرف میں ہی ایک پڑھا لکھا تھا۔

ان سب کے رویے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنی اس مصیبت کو قبول کر لیا تھا اور ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ فرار ہو سکیں۔ لیکن میں ہر حالت میں فرار ہونا چاہتا تھا لیکن فرار کی کوئی کارگر تدبیر بھائی نہیں دے رہی تھی۔ میرے پاس صرف چار پانچ لکھے ہی باقی تھے۔ اگر ان چار پانچ گھنٹوں میں یہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میرا سمندر پار جنوبی افریقہ کے جنگلوں سے نکل کر اپنے وطن واپس آنا مجھے ناممکن لگتا۔

میں سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا اور مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ باہر بھی خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں صرف کبھی کبھی سمندر کی ڈل کی آواز آ جاتی تھی۔ سارے لڑکے سو گئے تھے۔

مجھے ان کے ہلکے ہلکے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں جاگ رہا تھا اور بھاگنے کو بے چین تھا مگر میرے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ سے زنجیر کو لے کر دیکھا۔ یہ لوہے کی مضبوط زنجیر تھی اور اس ایک زنجیر کو تمام لڑکوں کے پاؤں میں

تھا۔ چاندنی رات میں مجھے بارک کی دیوار کے پاس ایک لڑکی کھڑی نظر آئی۔ میں اس کی طرف جاتے ڈر رہا تھا کیونکہ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ ترشنا ایک نارمل لڑکی نہیں ہے بلکہ واقعی ایک بدروح ہے۔ ترشنا نے مجھے ہچکچاتے دیکھا تو خود چل کر میرے پاس آ گئی۔ اس نے نیلے رنگ کی بڑی خوبصورت ریشمی ساڑھی پہن رکھی تھی اور بالوں میں سفید پھول سجے ہوئے تھے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے لباس میں ایسے پھولوں کی خوشبو آ رہی تھی جو میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یوں۔

”میرے ساتھ آ جاؤ۔“



سے گزار کر باندھ دیا گیا تھا۔ میں نے بارک کے دروازے کی طرف دیکھا۔ مسلح پہرہ لائین کی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ سٹول پر بالکل سیدھا ہو کر بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سوتے ہوئے لڑکوں پر نظر ڈال لیتا تھا۔ میں نے خدا سے دعا کی کہ یا اللہ پاک! میرے یہاں سے فرار ہونے کا غیب سے کوئی سبب پیدا کر دے۔ یہ دعا مانگنے کے چند لمحوں کے بعد مجھے اپنے کانوں میں کسی کی دھیمی سی آواز سنائی دی۔ پہلے میں سمجھا کہ میرے آس پاس سوتے ہوئے لڑکوں میں سے کوئی آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں نے ان پر نگاہ ڈالی۔ سب سو رہے تھے۔ دوسری بار پھر وہ دھیمی سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی آواز تھی۔ میں سن بھل گیا۔ میں لیٹا ہوا تھا مگر جاگ رہا تھا۔ تیسری بار عورت کی دھیمی آواز کے ساتھ مجھے اس کے الفاظ بھی صاف سنائی دیے۔ اس نے کہا۔

”اٹھو۔ باہر نکل آؤ۔ میں کھڑی ہوں۔“

میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ یہ سمجھ کر ڈر گیا کہ یہ کسی بھوت پریت کی آواز ہے۔ چونکہ پھر وہی مدھم آواز آئی۔

”ڈرو نہیں۔ میں کوئی چیزیل نہیں ہوں۔ میں ترشنا ہوں۔ تم نے میری آواز پہچانی؟ میں تمہیں یہاں سے نکلانے آئی ہوں۔“

میں بے اختیار ہو کر اٹھ بیٹھا۔ پھر فوراً خیال آیا کہ پہریدار نے دیکھ لیا تو وہ مجھے گالیاں بکنے لگے گا۔ ترشنا نے کان میں کہا۔

”پہریدار کا خیال نہ کرو۔ میں نے اسے گہری نیند سلا دیا ہے۔“

میں نے دروازے کی طرف دیکھا۔ لائین کی روشنی میں مسلح پہریدار سرخ ڈالے سو رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھا اور سوتے ہوئے لڑکوں کے درمیان احتیاط سے پاؤں اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا۔ پہریدار سچ بچ بڑی گہری نیند سو رہا تھا اور خراٹے بھی لے رہا تھا۔

میں اس کے قریب سے ہو کر بارک سے باہر نکل آیا۔ باہر آسمان پر چاند نکلا ہوا

بھی نہیں آیا تھا کہ تم کوئی بھنگی ہوئی روح ہو۔ تم نے بھی مجھ پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب تم نے مجھے جوگی کی پہاڑی والے مندر کی چڑیل سے بچایا تھا تو اس وقت بھی تم نے مجھ پر ظاہر نہیں کیا تھا کہ تم کوئی بھنگی ہوئی روح ہو۔ اب تم نے مجھے یہ سب کچھ کیسے بتا دیا؟“

ترشنا کہنے لگی۔

”اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہیں شمشان گھاٹ کے بوڑھے نے میرے بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں بتا دی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ میں جس کسی کو نظر آ جاؤں پھر میں اسے دوسرے دن آ کر مار ڈالتی ہوں جبکہ یہ جھوٹ ہے۔

میں ایسا نہیں کرتی۔ بس میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اب تم سے جب بھی بات ہوگی تو تم پر اپنی اصلیت ظاہر کر دوں گی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک بھنگی ہوئی روح ہوں مجھے چین اور سکون نصیب نہیں ہے لیکن میں شیطانی بدروح نہیں ہوں کیونکہ میں نے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ مجھے میرے گاؤں کے لوگوں نے پکڑ کر چتا پر لٹا کر جلا دیا تھا اور میں مر گئی تھی۔

میں نے کسی سے انتقام بھی نہیں لیا۔ میں مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کر کے بچے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے گناہوں کی سزا کچھ کم ہو جائے۔ میں نے بھی زندگی میں بڑے گناہ کئے ہیں اور یاد رکھو جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی کرتا ہے اس کی سزا مرنے کے بعد بھگتی پڑتی ہے اور جب تک ایک گناہ گار روح اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پاک صاف ہو جائے وہ آسمانوں کی پاکیزہ دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا اور اس دنیا کی فضاؤں میں ہی بھگتی رہتی ہے۔“

میں نے یونہی پوچھ لیا۔

”تمہیں میرا خیال کیوں آ گیا تھا؟“

ترشنا نے کہا۔

”اس لئے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے۔ میں نے جب پہلی بار تمہیں ریل گاڑی سے لکھا تھا تو تم پہلی نظر میں ہی مجھے اچھے لگے تھے۔ بس پھر تمہارا خیال مجھے کیوں نہ

ترشنا میرا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف چل پڑی۔ مجھے وہاں چار آدمی چاندنی رات میں نظر آئے جو راتگلیں لئے ٹہل رہے تھے۔ میں نے ترشنا کو اس طرف متوجہ کیا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔

”گھبراؤ نہیں ہم انہیں نظر نہیں آئیں گے۔“

اور واقعی ہم انہیں نظر نہ آئے۔ ہم ان کے درمیان سے ہو کر گزر گئے اور کسی ہماری طرف توجہ نہ کی۔ ترشنا نے کہا۔

”جب تک میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ رکھا ہے تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے۔ ہاتھ چھو دوں گی تو تم سب کو نظر آنے لگو گے۔“

میں نے پوچھا۔

”ترشنا! تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں سخت مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ بھنگی ہوئی بدروح ترشنا نے کہا۔

”جس دنیا میں ہم بھگتی ہوئی بدروحیں رہتی ہیں اس دنیا کا اپنا ایک نظام ہے اپنے کچھ اصول ہیں۔ کچھ قانون ہیں۔ جب ہمیں اجازت ملتی ہے تو ہم انسانوں کی دنیا میں آ جاتی ہیں۔ مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ تم بہت بڑی مصیبت میں ہو۔ بس میں اجازت لے کر تمہاری مدد کرنے آ گئی۔“

میں نے ترشنا سے کہا۔

”تم جب پہلی بار مجھے ریل گاڑی میں اپنے دادا کے ساتھ ملی تھیں تو مجھے کیا

وہ بولی۔

”ہمارے لئے کوئی شے دور یا نزدیک نہیں ہوتی۔ ہم تھوڑی دیر میں سٹیشن پہنچ نہیں گئے۔“

باتیں کرتے ہوئے اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ اور کہنے لگی۔

”اب ہم بہت جلد سٹیشن پر پہنچ جائیں گے۔“

مجھے نہیں پتہ کہ پھر کیا ہوا۔ ہم نے ایک بڑی سڑک عبور کی۔ اس کے بعد سامنے لے میدان میں داخل ہو گئے۔ اس میدان میں سے گزرے تو ہم بمبئی شہر کے روشنیوں جھلکاتے علاقے میں آ گئے تھے۔ ترشانا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہنے لگی۔

”اب لوگوں کو تم نظر آنے لگے ہو۔ میں نظر نہیں آ رہی۔ صرف تم مجھے دیکھ سکتے۔ دو سامنے بوری بندر کا سٹیشن ہے۔“

میں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ واقعی کچھ فاصلے پر بمبئی کا عظیم الشان بندر والا بوری بندر سٹیشن موجود تھا۔ اگرچہ اس وقت رات کے دس گیارہ بجے کا وقت ہو لیکن سڑکوں پر گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ صرف بسیں نہیں چل رہی تھیں۔ ہم بہت بڑے ہبے کو پار کر کے سٹیشن کے بڑے دروازے کے سامنے آ گئے۔ ترشانا نے میرا ہاتھ پکڑ کہنے لگی۔

”اب تم کسی کو نظر نہیں آ رہے۔ ہم بڑی آسانی سے گیٹ میں سے گزر جائیں گے۔“

گیٹ میں سے گزرنے کے بعد ہم پلیٹ فارم پر آ گئے۔ ترشانا نے میرا ہاتھ چھوڑ کہنے لگی۔

”تمہاری گاڑی اسی پلیٹ فارم پر سے جائے گی۔ تم یہاں بیچ پر بیٹھو میں سے لے ٹکٹ لے کر ابھی آتی ہوں۔“

ترشانا کی بھگی ہوئی روح مجھے ایک بیچ پر بٹھا کر چلی گئی۔

آتا۔“

مجھے ترشانا کی زبانی یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ اگر میں اسے چاہتا تھا تو وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ کوئی بھگی ہوئی روح ہے تو پھر کیا ہوا۔ محبت بھی ایک روحانی جذبہ ہی ہوتا ہے اور میں اپنی نوعمری کے جس حصے میں سے گزر رہا تھا اس وقت انسان کی روح پوری طرح بیدار ہوتی ہے۔

ترشانا مجھے ساتھ لے کر اس علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ جنگل اور سمندر ہمارے پیچھے رہ گیا تھا اور دور کچھ فاصلے پر بمبئی شہر کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں نے ترشانا سے کہا۔

”مجھے اپنے بہن بھائی اور ماں باپ بہت یاد آ رہے ہیں۔ میں ان کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں مگر میرے پاس ریل گاڑی کی ٹکٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اور میں اس دفعہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں پھر کوئی ٹی ٹی مجھے راستے میں نہ اتار دے۔“

ترشانا مسکرا رہی تھی۔ چاندنی رات میں اس کا چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا۔ کہنے لگی۔

”میں تمہیں ٹکٹ لے دوں گی۔ اس کی تم فکر نہ کرو۔“

میں نے اس سے کہا۔

”ابھی ساری رات پڑی ہے۔ دلی امرتسر کی طرف کو دن کے وقت ہی بمبئی سے

گاڑی جاتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھے ریلے سٹیشن کا راستہ بتا دو۔“

وہ کہنے لگی۔

”میں تمہارے ساتھ ریلوے سٹیشن پر جاؤں گی۔ مجھے تمہیں ٹکٹ لے کر بھی دینا ہے۔“

میں نے کہا۔

”بمبئی کا سٹیشن تو یہاں سے کافی دور ہوگا۔“

پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بولی۔
”تم مجھے یاد کرو گے نا؟“

میری عمر ہی جذبات کے شباب کی عمر تھی۔ میں اس کی محبت میں سرشار ہو رہا تھا۔ میں نے کہا۔

”میں تمہیں ہر وقت یاد کروں گا ترشانا۔“
وہ بڑی خوش ہوئی۔ کہنے لگی۔

”میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں۔ تم امرتسر میں رہتے ہو۔ مجھے معلوم ہے۔ امرتسر میں سیٹلا مندر کے پیچھے ایک مرگھٹ یعنی شمشان گھاٹ ہے یعنی وہ جگہ جہاں ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں۔ جب کبھی تمہیں میری یاد آئے اور تم مجھے ملنا چاہو تو اس مرگھٹ میں سورج غروب ہونے کے بعد آ جانا اور مجھے آہستہ سے تین بار آواز دینا۔ میں آ جاؤں گی۔“

ہم باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ ترشانا نے ٹرین کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
”تمہاری گاڑی آ گئی ہے۔ میرے ساتھ آؤ میں تمہیں خود فسنٹ کلاس میں بٹھاتی ہوں۔“

تھرڈ اور انٹر کلاس کے مسافر اپنا سامان لئے ٹرین میں سوار ہونے لگے تھے۔ فسنٹ کلاس کا ایک ڈبہ خالی پڑا تھا۔ ہم اس ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا۔
”اس سے پہلے میں نے فسنٹ کلاس میں کبھی سفر نہیں کیا۔“
ترشانا بولی۔

”تم آرام سے اپنے گھر پہنچو گے تو مجھے بڑی خوشی ہو گی۔“

پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور کہا۔
”تمہارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہوں گے۔“

میں نے کہا۔

میں اسے پلیٹ فارم کی روشنیوں میں گیٹ کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ پھر بات تھی میں اسے دیکھ رہا تھا لیکن دوسرا کوئی انسان اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ میری نظروں سے بھی اوجھل ہو گئی۔ میرا خیال ہے بمشکل نین منٹ گزرے ہوں گے کہ بڑا دور سے ترشنا آتی نظر آئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ریلوے ٹکٹ تھا۔ کہنے لگی۔

”یہ میں فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لائی ہوں۔ یہ بھئی سے امرتسر تک کا ٹکٹ ہے۔“
میں نے کہا۔

”تم فسنٹ کلاس کا ٹکٹ خواہ مخواہ لے آئی ہو میں تو ہمیشہ تھرڈ کلاس میں سفر کرتا ہوں۔“
وہ بولی۔

”لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اس دفعہ فسنٹ کلاس میں سفر کرو۔“
میں نے کہا۔

”میرا حلیہ اور میرا لباس تو بالکل تھرڈ کلاس کے مسافروں جیسا ہے۔ فسنٹ کلاس کے ڈبے میں بالکل اجنبی لگوں گا۔ کہیں ٹی ٹی مجھے پکڑ نہ لے کہ میں نے یہ ٹکٹ کہاں سے چرایا ہے۔“

ترشانا نے ذرا عصبیلی آواز میں کہا۔

”میں اس ٹی ٹی کو ایسا مزہ چکھا دوں گی کہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔“
میں نے کہا۔

”لیکن تم تو مجھ سے جدا ہو جاؤ گی۔“

وہ بولی۔

”اب میں تم سے جدا نہیں ہو سکتی۔ تم سے الگ ضرور ہو جایا کروں گی۔ تم سے جدا نہیں ہوں گی۔ مجھے تمہارا ہر وقت خیال رہے گا۔ تم جب بھی مجھے یاد کرو گے میں سے ملنے آ جاؤں گی۔“

کی طرف فرار ہونے کا پرگرام بنانا شروع کر دیا۔ تیاریاں تو مجھے کوئی کرنی نہیں تھیں۔ جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان ہی کپڑوں میں نکل جانا تھا۔ زیادہ سے زیادہ دانت صاف کرنے کے لئے ایک ٹوتھ برش جیب میں رکھ لیتا تھا۔ نیو تھیٹرز کی فلموں میں ایک ہیروئن آیا کرتی تھی جو مجھے بے حد اچھی لگتی تھی۔

اس کا فلمی نام جننا دیوی تھا۔ یہ لمبے قد کی دبلی پتلی لڑکی تھی جو اکثر خاموش رہتی تھی۔ کسی بھی فلم میں میں نے اسے زیادہ باتیں کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نیو تھیٹرز کی فلم ”زندگی“ تھی جی ریلیز ہوئی تھی جس میں جننا نے سہگل کے ساتھ ہیروئن کا کردار ادا کیا تھا۔ اس فلم میں جننا کے پراسرار خاموش کردار نے میرے جذبہ عشق کے لئے جلتی پرتیل کا کام کیا۔

میں نے سوچ رکھا تھا کہ کلکتے جا کر پہلا کام یہ کروں گا کہ جننا دیوی کے درشن کروں گا۔ ”زندگی“ فلم کا آخری سین ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ جب جننا سہگل میں دریا کنارے ایک جمپوزٹی میں آخری سانس لے رہی ہوتی ہے اور سہگل اس کے سر ہانے بیٹھا اسے لوری سنا رہا ہے۔

سو جا راج کماری! سو جا۔ جب وہ لوری گا چکتا ہے تو جننا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور سہگل دل گداز لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہتا ہے۔

”سو گئیں راج کماری! ہمیشہ کے لئے سو گئیں۔“

اور خاموشی سے اٹھ کر ناریل کے درختوں میں سے گزرتا دریا کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں نے ریلوے سٹیشن پر جا کر پتہ کیا کہ کلکتے کون کون سی گاڑی کس کس وقت جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک تو ہوڑہ ایکسپریس ہے جو صبح کے ساڑھے نو بجے چلتی ہے۔ دوسری گاڑی کلکتہ ایکسپریس ہے جو رات کے وقت آٹھ بجے پشاور سے آتی ہے اور ساڑھے آٹھ بجے امرتسر سے روانہ ہو جاتی ہے۔

میرے لئے رات کے آٹھ بجے والی گاڑی زیادہ موزوں اور محفوظ تھی کیونکہ اس وقت والد صاحب کے جاسوس مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ والد صاحب کے یہ جاسوس کوئی

”کوئی بات نہیں۔“

وہ بولی۔

”نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ کیا راستے میں تم بھوکے رہو گے؟“

اس نے اپنے ہاتھ کی ایک مٹھی میرے سامنے بند کی اور جب کھولی تو اس میں سوکے دونوٹ تھے۔ کہنے لگی۔

”یہ تم اپنے پاس رکھو۔“

دوسروں نے اس زمانے میں بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ فسٹ کلاس کے ہمارے والے ڈبے میں سوار ہوا تو ترشنا نے میرے کا کے قریب ہو کر کہا۔

”اچھا اب میں چلتی ہوں۔ پھر ملیں گے۔“

یہ کہہ کر وہ ڈبے سے اتر گئی۔ میں نے کھڑکی میں سے سر نکال کر باہر دیکھا ترشنا پلیٹ فارم پر کہیں بھی نظر نہ آئی۔ وہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میں تنہا رہ گیا ہوں۔ ترشنا سے واقعی مجھے محبت ہو گئی تھی۔

میں اسے محبت ہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں فسٹ کلاس میں سفر کرنا ہوئے اپنے شہر امرتسر پہنچ گیا۔ والد صاحب نے تھوڑی بہت پٹائی کی اور مجھے نویں جماعت میں داخل کروا دیا۔ مگر سکول میں میرا جی بالکل نہیں لگتا تھا۔

ایک بار پھر مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے زنجیریں ڈال دی گئی ہیں۔ میں زنجیروں کو توڑ کر ایک بار پھر فرار ہونے کے بارے میں سوچنے لگا۔

ترشنا نے مجھے جو دو سو روپے دیئے تھے ان میں سے صرف بیس روپے ہی خرچ ہوئے تھے۔ باقی سارے پیسے میرے پاس ہی تھے۔ جو میں نے اپنی چھوٹی سی الماری کے کتابوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دفعہ بغیر ٹکٹ سفر نہیں چاہتا تھا۔

مجھے بنگال کے جنگل اور کلکتے کی بارشیں بہت یاد آ رہی تھیں چنانچہ میں نے

”بالکل نہیں۔ یہ میرے اپنے پیسے ہیں۔“

وہ بولا۔

”تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آگئے ہیں؟“

میں نے کہا۔

”پرسوں میں کپنی باغ کی سیر کر رہا تھا کہ ایک جگہ کسی کا بیڑہ گرا ہوا دیکھا۔ اٹھا

رکھوا تو اس میں ایک سو اسی روپے تھے۔ میں نے بیڑہ وہیں پھینک دیا اور پیسے اپنے

پاس رکھ لئے۔“



پیشہ در جاسوس نہیں تھے۔ اور میرے پیچھے ہر وقت میری جاسوسی نہیں کرتے تھے۔ اصل میں والد صاحب کے جاننے والوں کا حلقہ بڑا وسیع تھا۔ ان میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے چنانچہ ریلوے سٹیشن پر بھی والد صاحب کے دوست موجود تھے۔ یہ لوگ مجھے دیکھتے ہی بچو جاتے کہ میں گھر سے فرار ہو رہا ہوں۔ میری شہرت بھی ایسی ہی تھی چنانچہ وہ مجھے سٹیشن پر ہی روک لیتے تھے۔ رات کے وقت ریلوے سٹیشن پر ان لوگوں سے بچ کر اٹھا جاسکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے رات کی گاڑی پر فرار ہونے کا پروگرام طے کر لیا۔

ایک دن پہلے میں نے اپنے جوتوں کو پالش کیا۔ اپنا رد مال بھی دھو کر استری کر لیا۔ دوسرے دن مجھے امرتسر سے بھاگنا تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ کل میں سکول نہیں جاؤں گا اور حساب کے ماسٹر صاحب میرا کان نہیں مروڑیں گے۔ حساب میں بے حد نکما تھا۔ حساب کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔

حساب کے پیریڈ میں ماسٹر صاحب بغیر یہ سوچے کہ اس طالب علم پر میری حد سے بڑھی ہوئی اور چنگ آمیز سرزنش کا کیا اثر پڑے گا۔ سب طالب علموں کے سامنے میری بے عزتی کر دیا کرتے تھے۔ اور مجھے میرے نام سے نہیں بلکہ کھوٹا پیسہ کہہ کر بلاتے تھے جو مجھے سخت ناگوار گزارتا تھا۔ گھر سے بھاگنے کا میں نے سوائے اپنے چھوٹے آرٹسٹ بھائی مقصود کے اور کسی سے ذکر نہیں کیا۔ اس کو میں نے اس لئے رازدار بنا لیا تھا کہ وہ بھی سکول اور گھر سے بھاگ جانے کے پروگرام بنایا کرتا تھا۔ مگر بھاگ کبھی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں اس بار نکلتے جا رہا ہوں اور نینو تھیٹر زکی ہیرڈن جنمنا دیوی سے بھی ملوں گا تو وہ بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگا۔

”تمہارے پاس ریل گاڑی کا کرایہ ہے؟“

میں نے اسے بتا دیا کہ میرے پاس ڈیڑھ سو سے زیادہ روپے موجود ہیں۔

اس نے مشتبہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور پوچھا۔

”تم نے کہیں چوری تو نہیں کی۔“

میں نے کہا۔

ہمارے پیچھے لگ جائے گا اور پھر والد صاحب کو خبر کر دے گا اور میں کلکتے نہیں جا سکوں گا۔“

آرٹسٹ بھائی بولا۔

”ٹھیک ہے پھر تم اکیلے ہی چلے جانا۔“

میں نے قمیص پاجامہ پہن رکھا تھا۔ پاجامہ پتلون ٹائپ کا تھا جس کی دو جیبیں تھیں۔ ایک جیب میں میں نے ٹوتھ برش رکھ لیا اور قمیص کی جیب میں ایک سو اسی روپے کاغذ میں لپیٹ کر رکھ لئے۔

گاڑی یعنی کلکتہ ایکسپریس رات کے ساڑھے آٹھ بجے چھوٹی تھی۔ میں ساڑھے سات بجے ہی گھر سے نکل کر کچھ دیر تک کمپنی باغ میں پھرتا رہا۔ پھر سٹیشن پر آ گیا۔ سٹیشن کی ایک جانب کھڑے ہو کر میں نے بڑی ہوشیاری سے جائزہ لیا کہ وہاں کوئی اپنا حملہ دار یا واقف تو نہیں ہے۔ مجھے کوئی ایسا آدمی دکھائی نہ دیا میں اوپر سے ہو کر بنگ وینڈو پر آ گیا۔ امرتسر سے کلکتے تک کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور تیز تیز چلتا گیٹ میں سے گزر کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر آتے ہی میں آخری سرے پر جا کر ایک بیچ پر بیٹھ گیا۔ وہاں اردگرد کوئی آدمی نہیں تھا۔ جب گاڑی کے آنے میں پانچ سات منٹ رہ گئے تو میں اٹھ کر وہیں بیچ کے پیچھے ٹپلنے لگا۔

پلیٹ فارم پر بہت بڑی گھڑی لگی ہوتی تھی۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اسے دیکھ

لیتا تھا۔

لاہور کی طرف سے جب کلکتہ ایکسپریس شور مچاتی پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میں پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹرین رکی تو میں تھرڈ کلاس کا ڈبہ تلاش کرنے لگا۔ مسافروں کا کافی رش تھا۔ آخر میں تھرڈ کلاس کا ایک ڈبہ نظر آ گیا اور سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے ڈبے کے دوسرے دروازے کے پاس جا کر فرش پر ہی بیٹھ گیا اور ٹرین کے چلنے کی دعائیں مانگنے لگا۔ میں نے اپنا چہرہ دروازے کی طرف کر رکھا تھا تاکہ اگر کوئی گھڑی میں سے جھانک کر اندر دیکھے تو میں اسے نظر نہ آؤں۔ یہی دھڑکا لگا تھا کہ پیچھے سے کوئی آواز نہ دے دے کہ

میں آرٹسٹ بھائی کو کرشنا کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آرٹسٹ بھائی مجھ سے دو ڈھائی سال ہی چھوٹا تھا اور ہماری آپس میں بڑی دوستی تھی۔ ہم دونوں کا مزاج بگڑا ایک ہی تھا۔ بارش اور نیو تھیٹرز کے گانے اور فلم چتر لیکھا کے گیت میری طرح اسے بگڑا بہت پسند تھے۔ وہ دائرہ میں جنگوں اور سمندروں کی تصویریں بھی بنایا کرتا تھا۔ تصویر بنا کر انہیں لپیٹ کر اپنے لکڑی کے صندوق میں رکھ دیتا تھا۔ سوائے میرے کسی کو دکھاتا نہیں تھا۔ کسی کے سامنے تصویر بھی نہیں بناتا تھا۔ تصویر بناتے وقت اگر کوئی اس کے پاس آ کر تصویر دیکھنے لگتا تھا تو آرٹسٹ بھائی کا چہرہ غصے میں لال ہو جاتا تھا اور وہ سخت لہجے میں تصویر دیکھنے والے کو جھڑک دیتا تھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا۔

”یار چتر لیکھا کی فلم بھی کلکتے میں ہی بنی تھی۔ اس فلم میں رام دلاری نے بڑا زبردست گانے گائے ہیں۔ اگر ہو سکے تو کلکتے میں رام دلاری کو ضرور ملنا۔“

میں نے کہا۔

”سب سے پہلے تو میں جمنا دیوی سے ملوں گا۔ اس کے بعد کوئی دوسرا کا

کروں گا۔“

آرٹسٹ بھائی نے کہا۔

”میں سٹیشن پر تمہارے ساتھ چلوں گا۔“

میں نے اسے کہا۔

”اگر ہم دونوں ساتھ ساتھ ریلوے سٹیشن پر گئے تو کوئی نہ کوئی جاسوس نہ

کہاں جا رہے ہوتے؟

بھی ہوا اور خوش بھی ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا۔

”گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟“

میں نے کہا۔

”ہاں۔“

کہنے لگا۔

”میرے ابو کو نہ بتانا۔ کہہ دینا میں زکریا سٹریٹ والے رشتے داروں کے ساتھ

آیا ہوں۔“

چنانچہ جب جے جے کے والد صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی

بتایا۔ وہ اس سے پہلے بھی مجھے زکریا سٹریٹ میں اپنے پھوپھا زاد کی دکان پر دیکھ چکے تھے۔

ویسے بھی جے جے کے والد صاحب اپنے کاروبار میں اس قدر الجھے رہتے تھے کہ انہیں

کاروبار کے سوا کسی دوسری بات کا کم ہی ہوش ہوتا تھا۔ شام کو میں اور جے جے تال جھیل کی

طرف سیر کرنے نکل گئے۔ جے جے نے پوچھا۔

”سکول سے چھٹی لے کر آئے ہو کیا؟“

میں نے کہا۔

”یہی سمجھ لو۔“

کہنے لگا۔

”تمہیں اپنی پڑھائی کا حرج نہیں کرنا چاہئے۔“

میں نے کہا۔

”یاد رہے تو مجھے نصیحتیں نہ کرو۔“

بولا۔

”میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس لئے تمہیں کہہ رہا تھا۔ آگے تمہاری مرضی ہے۔“

اس بار کب تک آوارہ گردی کا ارادہ ہے؟“

میں نے کہا۔

خدا خدا کر کے انجن نے سیٹی دی۔ گاڑی نے سیٹی بجائی اور گاڑی پلیٹ فارم سے کھسکا شروع ہو گئی۔ جب ٹرین امرتسر کے ریلوے یارڈ سے بھی گزر گئی اور شریف پور سے اور رام باغ والے پھاٹک بھی نکل گئے اور ٹرین نے بھی تھوڑی سپیڈ پکڑ لی تو میں سیدھا ہر کر بیٹھ گیا۔ ڈبے کا جائزہ لیا۔ ڈبہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ایک سیٹ پر دو دو مسافر بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپر برتھ پر بھی مسافر لیٹے ہوئے تھے۔ جب ٹرین رات کے اندھیرے میں کہنی باغ اور چالیس کنوؤں والے پھاٹک سے بھی آگے نکل گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں کلکتے کی بارشیں، کلکتے کے جنگل اور جناد پوی کو دیکھ سکوں گا۔

میں کلکتے پہنچ گیا۔

اس وقت کلکتے میں بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سٹیشن پر اترتے ہی مجھے فضا میں انناس اور چائے کی خوشبو آئی۔ میں سٹیشن سے باہر نکل کر ایک جگہ سا بنان کے نیچے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ مجھے کہاں جانا چاہئے۔ یہ میرا کلکتے میں چوتھا پھیرا تھا۔ شہر کی سڑکیں میرے لئے اجنبی نہیں تھیں۔ زکریا سٹریٹ میں میرے لوہ گڑھ والے پھوپھا کے بیٹے سلیمان کی قالین بانی اور شالوں کو چرخ چڑھانے کی دکان تھی۔ اس کے پاس جاتے ہوئے میں اس لئے گھبراتا تھا کہ وہ پیچھے گھر والوں کو خبر کر دے گا اور گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آ کر مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ میرا دوسرا ٹھکانہ امرتسر کے اپنے ایک دوست جے جے کا فلیٹ تھا۔ جے جے کے والد صاحب خشک میوے کا برنس کرتے تھے۔ جے جے میرے ساتھ آٹھویں جماعت میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے والد صاحب اسے کلکتے لے گئے اور وہیں کسی سکول میں اسے داخل کرا دیا۔ جے جے دبلا پتلا گورے رنگ کا شرمیلا سالک تھا۔ پڑھائی میں بڑا تیز ہوا کرتا تھا۔ گھر میں ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ میں نے سوچا کہ پہلے جے جے کے فلیٹ پر ہی جانا چاہئے۔

میں نے ایک رکشہ پکڑا اور کلکتے کی بارش میں بھیکتے بازاروں میں سے گزرتا ہوا جے جے کے فلیٹ والی بلڈنگ کے باہر پہنچ گیا۔ جے جے گھر پر ہی تھا۔ مجھے دیکھ کر حیران

”اس دفعہ میں چٹاگانگ کے سمندری جنگلوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔“

جے جے بولا۔

”اس طرف مت جانا۔ ابو کا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ادھر جادو ٹونہ کرنے والے بیراگی ہوتے ہیں اور جنگلوں میں ایسے ایسے زہریلے سانپ ہوتے ہیں جو اچھل کر آدمی کے ماتھے پر ڈستے ہیں۔“

میں ہنسنے لگا۔

”ایسے سانپ تو ہر جنگل میں ہوتے ہیں بلکہ شہروں میں بھی ہوتے ہیں۔ باقی رہی جادو ٹونے والی بات۔ تو میں جادو ٹونہ کو نہیں مانتا۔“

جے جے نے کہا۔

”پھر بھی میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ چٹاگانگ کے جنگلوں کی طرف نہ

جاؤ۔“

میں نے جے جے کو بتایا کہ میں تو وہاں جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں ضد کا پکا ہوں اور ایک بار میر دل میں کسی طرف جانے کا خیال آ جائے تو میں اس کی طرف ضرور جاتا ہوں۔ اپنی اسی ضد کی وجہ سے مجھے زندگی میں فائدہ بھی بڑا ہوا اور نقصان بھی بہت پہنچا ہے۔ جے جے نے پوچھا۔

”چٹاگانگ جا کر رہو گے کہاں؟“

میں نے کہا۔

”کسی چھوٹے سے ہوٹل میں دو ایک روز کے لئے ٹھہر جاؤں گا۔ میرے پاس

اس بار تھوڑے پیسے ہیں۔ اس کے بعد وہاں کے جنگلوں کی طرف نکل جاؤں گا۔“

جے جے نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگا۔

”معلوم نہیں تمہارے اندر کس خانہ بدوش کی روح سائی ہوئی ہے۔“

تین دن کلکتے میں جے جے کے ہاں رہنے کے بعد ایک روز میں بریل گاڑی

میں سوار ہو کر چٹاگانگ روانہ ہو گیا۔ کافی لمبا سفر تھا۔ چٹاگانگ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ اس

زمانے میں چٹاگانگ اتنا ترقی یافتہ شہر نہیں تھا۔ سڑکیں صاف ستھری اور اونچی نیچی تھیں۔ کلکتے کے مقابلے میں یہاں ٹریفک کا رش بالکل نہیں تھا۔ بازار کشادہ تھے اور سڑکوں کی دونوں جانب پختہ فٹ پاتھوں پر ناریل اور سنبل کے کھنے درخت بچکے ہوئے تھے۔

میں نے ریلوے اسٹیشن ہی سے ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کا پتہ معلوم کر لیا تھا۔ چنانچہ اسی ہوٹل میں ایک کمرہ لے لیا۔ رات کا کھانا کھا کر بازار کی سیر کرنے نکل آیا۔ پارش بند ہو چکی تھی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ ریسٹورانوں میں بنگالی گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ کچھ دیر گھومنے پھرنے کے بعد میں ہوٹل میں واپس آ گیا۔ رات کو جلدی سو گیا۔ صبح کافی دن چڑھے آنکھ کھلی۔ نیچے آ کر چائے وغیرہ پی۔ ہوٹل کا مالک ایک سکھ سردار جی تھا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا۔

”کہاں سے آئے ہو لڑکے؟“

میں نے جب امرتسر کا نام لیا تو خوش ہو کر بولا۔

”تم تو ہمارے گوروؤں کی مگری کے رہنے والے ہو۔ ادھر کیا لینے آئے ہو؟“

میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ مجھے اس طرف کے جنگلات دیکھنے کا بہت

شوق ہے اور یہی شوق مجھے یہاں کھینچ لایا۔“

سردار بڑا حیران ہوا۔ کہنے لگا۔

”اوائے تمہاری اپنی عمر ہی کتنی ہے اور تم جنگلوں کی سیر کرنے جا رہے ہو۔ تمہیں

معلوم ہے یہاں کے جنگل کتنے خطرناک ہیں؟“

میں نے کہا۔

”جی سردار جی! چاہے کچھ بھی ہو۔ میں گھر سے یہی ارادہ لے کر نکلا ہوں اور

اس علاقے کے جنگل دیکھ کر ہی واپس جاؤں گا۔“

جب سردار کو یقین ہو گیا کہ میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں اور ہر حالت میں اپنی

ضد پوری کر کے رہوں گا تو کہنے لگا۔

”تم ہمارے گوروؤں کی مگری کے رہنے والے ہو۔ میں نہیں چاہوں گا کہ تمہیں

”دوڑ لے سانپ رہتے ہیں۔ میری مانو اور ایک دو دن یہاں رہ کر واپس چلے جاؤ۔“
میں نے کہا۔

”سردار جی! اب میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں۔ کم از کم ایک آدھ دن ہی
بچے جنگل کی سیر کر لینے دیں۔ پھر واپس چلا جاؤں گا۔“
بشن سنگھ کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

”اس وقت تو دن ڈھل رہا ہے۔ کل صبح تمہیں ایک آدمی کے حوالے کر دوں گا۔
نہیں جنگل کی سیر کرا دے گا۔“

شام ہوئی تو سردار بشن سنگھ دو جنگلی مرغیاں شکار کر کے لے آیا۔ نوکر نے انہیں
باہ ساتھ چاول اور سلا دیا تھا۔ کھانے کے بعد میری چارپائی بانس کے بنے ہوئے ایک
دبڑے کے باہر برآمدے میں ڈال دی گئی۔ کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے الا دروٹوں کو
گیا۔ سردار بشن سنگھ نے بتایا کہ یہ آگ رات کو اس لئے روشن رکھی جاتی ہے کہ کوئی درندہ
رکارخ نہ کرے۔

رات ہوئی تو جنگل میں گہری خاموشی چھا گئی۔ آدھی رات کے وقت جبکہ میں
جاگ رہا تھا دور سے شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ بنگالی نوکر نے مجھے آکر کہا۔
”بابوشیر بول رہا ہے۔ کوئی پتہ نہیں ادھر آ جائے۔ چارپائی اندر کر لو۔“

میں چارپائی جھونپڑی کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر تک شیر کے
بچنے کی گونج سنائی دیتی رہی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ جانے کس وقت میں سو گیا۔ صبح اٹھا تو
اذن نکل آیا تھا۔ میں اٹھ کر درختوں کے نیچے پھرنے لگا۔ جہاں گھاس اور جھاڑیوں
اور درختوں کی چھاؤں نہیں تھی وہاں جھاڑیوں کے پتے اور گھاس شبنم میں شرابور تھی۔
کس میں قسم قسم کے چھوٹے بڑے پھول کھلے ہوئے تھے۔ دھوپ کی سنہری کرنیں
نل کی شاخوں میں سے ترچھی ہو کر آ رہی تھیں۔ کئی درختوں پر ابھی تک چڑیاں اور
سے بول رہے تھے۔ فضا پاکیزہ اور شفاف تھی۔ ہوا بھی شبنم میں بھیکسی ہوئی تھی۔ بعض
سانسے اونچے تھے کہ سراٹھا کر دیکھنے سے بھی پورے نظر نہیں آتے تھے۔

کوئی نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ کاکس بازار کے اندرونی جنگل میں میرا ایک دوست
سنگھ ٹھیکیدار رہتا ہے۔ وہ درختوں کی کٹائی اور چرائی کا کاروبار کرتا ہے۔ یہ درختوں کی
کاسینز ہے۔ آج کل وہ وہیں پر ہے۔ میں تمہیں اس کے نام خط لکھ دوں گا۔ تم اس
پاس چلے جاؤ۔ وہاں رہ کر تم ارد گرد کے جنگلوں کی سیر کر سکو گے۔“

سردار جی نے مجھے بڑا اچھا موقع بہم پہنچا دیا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا۔
چٹا گانگ میں دو دن سیر کرنے کے بعد میں کاکس بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ سردار
مجھے اپنے دوست بشن سنگھ کے نام ایک خط لکھ کر دے دیا تھا۔ کاکس بازار وہاں سے
دور واقع تھا۔ ایک چھوٹے سے جنگلی سٹیشن تک میں نے چھوٹی لائن کی ریل گاڑی
سفر کیا۔ اس کے بعد ایک کھڑکھڑاتی ہوئی مسافروں سے بھری بس میں بیٹھ کر کاکس
پہنچا۔ سردار جی نے مجھے پورا نقشہ بنا کر بتا دیا تھا کہ کہاں کہاں سے مجھے جانا ہوگا۔
نقشے کے مطابق ایک تیل گاڑی پر سفر کرتا جنگل میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں بشن سنگھ ٹھیکہ
آرامشیں کٹائی کا کام کر رہی تھیں۔ علاقے کے مزدور بھی کام میں لگے تھے۔ مگر
ایک مزدور سے بشن سنگھ کا پوچھا تو اس نے لکڑی اور بانس کے بنے ہوئے ایک کوا
طرف اشارہ کیا۔ لکڑی اور بانس کا یہ کونج نما کوارٹر زمین سے کوئی چار فٹ بلند ایک
بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں کوارٹر کے برآمدے میں سردار بشن سنگھ کے سامنے بانس
صوفی پر بیٹھا تھا اور بشن سنگھ وہ خط پڑھ رہا تھا جو مجھے چٹا گانگ والے سردار جی
تھا۔ خط پڑھ کر بشن سنگھ نے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا اور بولا۔

”کیا تم جنگل میں شکار کرنا چاہتے ہو؟“

میں نے کہا۔

”جی نہیں۔ میں صرف جنگلوں کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔“

بشن سنگھ کہنے لگا۔

”بھئی واہ۔ یہ جنگل کوئی لاہور کا چڑیا گھر نہیں ہے کہ تم اس کی سیر کر
گے۔ یہ تو سندھ بن کے جنوبی جنگل ہیں۔ یہاں دنیا کے سب سے زیادہ خونخوار

دوپہر کے کھانے کے بعد سردار جی نے ایک دبلا پتلا بنگالی میرے ساتھ کر

کہنے لگے۔

”یہ بھلوا ہے۔ یہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر جنگل کی سیر کرائے گا۔ میں نے ا

سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ تم بھی جنگل میں زیادہ دور جانے کی کوشش نہ کرنا۔“

بنگالی ملازم جس کا نام بھلوا تھا میرے آگے آگے چل پڑا۔ اس کے ہاتھ

ایک نیزہ تھا۔ جب ہم کٹائی کے علاقے سے نکل کر ایک دوسرے جنگل میں داخل ہو

میں نے بھلوا سے پوچھا۔

”بھلوا! میں نے سنا ہے بنگال میں جادو ٹونہ کرنے والے پیرا کی ملا

ہوتے ہیں۔ کیا یہ سچ ہے؟“

بھلوا بولا۔

”پیرا کی لوگ بہت کم جادو ٹونہ کرتے ہیں لیکن یہاں کے سپیرے

زیر دست جادو ٹونہ کرتے ہیں۔ بعض سپیروں کے پاس ایسی ناگنیں ہیں جو دن کے

سانپ کی شکل میں پٹاری میں بند رہتی ہیں اور رات کو عورت بن جاتی ہیں۔“



میں نے سوال کیا۔

”تمہیں بھاگنے کی کیا ضرورت تھی۔ کیا وہ سانپ کی شکل میں تھی؟“

”نہیں،“ بھلوا بولا۔

”وہ عورت کی شکل میں تھی مگر میں اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت اصل

لہ سانپ ہے۔ ناگن ہے۔ بھاگا اس لئے تھا کہ یہ ناگن عورتیں رات کے وقت اپنے

کار کی تلاش میں نکلتی ہیں۔ ان کا شکار جنگل میں بھولے بسکے مرد ہوتے ہیں۔ یہ پہلے انہیں

لہ باتوں میں الجھاتی ہیں۔ جب مرد کو ایک خاص نشہ سا ہو جاتا ہے تو یہ ناگن عورت

مانپ بن کر اسے ڈس دیتی ہے اور جہاں ڈستی ہے وہاں سے آدمی کا تہی بھر کر خون پیتی

لہا اور غائب ہو جاتی ہیں۔“

زباں صاف نظر آ رہی تھیں۔ جسم پر گھٹنوں تک صرف ایک دھوئی پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بری طرف گھور کر دیکھا اور بھلوا سے بنگالی میں باتیں کرنے لگا۔ پھر ٹوٹی پھوٹی اردو میں سے مخاطب ہوا۔

”ناگن دیوی یونہی کسی کو اپنے درشن نہیں دیتی۔ اس کے لئے تمہیں میرے اذکارہ کر چلے کاٹنا ہو گا۔ کیا تم اس کے لئے تیار ہو؟“

میں نے پوچھا۔

”یہ چلے کس قسم کا ہے؟“

سپیرا بولا۔

”تمہیں تین راتیں ایک ندی کے کنارے آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہو گا اور یہ منتر میں پڑھنا ہو گا۔ اے ناگن دیوی! مجھے اپنے درشن دے۔ چوتھی رات کو ناگن دیوی ہیں درشن دے گی اور پہلے سانپ کی شکل میں ہو گی اور پھنکار مارے گی۔ اس کی پھنکار آنکھیں کھول دو گے۔ جب تمہاری اور سانپ کی آنکھیں چار ہوں گی تو ناگن نوراًت کی شکل اختیار کر لے گی اور تم سے کہے گی۔ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس وقت تم جو کچھ مانگو ناگن وہ تمہیں پیش کر دے گی۔“

یہ بہت بڑا لالچ تھا۔ میں اس لالچ میں آ گیا۔ میں نے کہا۔

”میں چلے کاٹنے پر تیار ہوں۔“

سپیرا نے کہا۔

”ایک بار پھر سوچ لو۔ اگر تم نے چلے اذکارہ چھوڑا دیا اور بھاگ گئے تو جہاں بھی گئے ناگن وہاں آ کر تمہیں ڈس دے گی۔“

میں نے کہا۔

”میں ہر حالت میں چلے پورا کروں گا۔ میں آج رات کو ہی چلے شروع کرنے پر ہوں۔“

بشن سنگھ کے بنگالی نوکر نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے کہا۔

بھلوانے جو داستان سنائی تھی اس سے میں بڑا متاثر ہوا تھا اور میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں بھی کسی ایسی عورت سے ملوں جو اصل میں سانپ ہو مگر لوگوں سے بدلہ لینے کے لئے روت کی صورت میں چل پھر رہی ہو۔ میں نے بھلوا سے کہا۔

”بھلوا۔ کیا تم مجھے کسی ایسے سپیرے سے ملا سکتے ہو جس کے قبضے میں اس قسم کی ناگن ہو؟“

ہم جنگل کی ایک پگ ڈنڈی پر جا رہے تھے۔ ہمارے دونوں جانب اونچی اونچی جھاڑیوں میں سرخ پھول کھلے ہوئے تھے۔ بھلوانے کہا۔

”میں وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا۔ ایک سپیرے کو میں جانتا ہوں۔ اس کے پاس ناگن عورت کو سانپ اور سانپ سے عورت بنانے کا منتر آتا ہے۔ میں آج اس سے بات کروں گا۔ پھر تمہیں اس سے ملو ادوں گا۔“

میری ساری توجہ اب اسی سپیرے کی طرف ہو گئی تھی جسے بھلوانے مجھے ملوانا اور جس کے قبضے میں ایک ایسی ناگن تھی جو رات کو عورت کی شکل اختیار کر لیتی تھی۔ میں نے جنگل کی تھوڑی سی سیر کی اور بھلوا سے کہا۔

”بس اب واپس چلتے ہیں۔“

ویسے بھی سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس وقت جنگل خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہم بشن سنگھ کے ڈیرے پر آ گئے۔ دوسرے دن بھلوا میرے پاس آیا اور بڑی رازداری سے کہنے لگا۔

”میں نے سپیرے سے بات کر لی ہے۔ ایک گھنٹے بعد میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گا۔“

ایک گھنٹہ میں نے بڑی بے چینی سے گزارا۔ اس کے بعد بھلوا کے ساتھ سپیرے سے ملنے کے لئے چل پڑا۔ اس کا جھونپڑا بشن سنگھ کے ڈیرے سے جنوب کی جانب دوکل دور جنگل میں واقع تھا۔

عجیب ڈراؤنی شکل کا یہ سپیرا تھا۔ کالا کلونا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں اور جسم کی

کے کنارے ایک درخت کے نیچے مجھے بٹھا دیا اور بولا۔
 ”یہاں ساری رات بیٹھ کر تم چلہ کرو گے۔ جب درختوں پر بولنے والے
 پرندے خاموش ہو جائیں تو تم آنکھیں بند کر کے دل میں یہ منتر تھوڑی تھوڑی دیر بعد
 دہراتے رہنا۔ اے ناگن دیوی! مجھے درشن دے۔ میں صبح کو آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔“
 مجھے جنگل میں ندی کے کنارے اکیلا بٹھا کر سپیرا چلا گیا۔

اس کے جانے کے بعد میں نے اوپر درخت کی جانب دیکھا۔ درخت پر
 پرندے شور مچا رہے تھے۔ میں نے اٹھ کر ندی کا پانی پیا۔ بڑا صاف اور میٹھا پانی تھا۔ اس
 کے بعد درخت کے نیچے چوڑی مار کر بیٹھ گیا۔ تھوڑا بہت کھانا میں سپیرے کے جھونپڑے
 میں ہی کھا کر آیا تھا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ کب پرندے خاموش ہوتے ہیں۔

کوئی ایک گھنٹے کے بعد پرندے خاموش ہو گئے اور اس طرح خاموش ہوئے
 جیسے سارے کے سارے ایک دم بے ہوش ہو گئے ہوں۔ جنگل کی فضا پر ایک ڈراؤنا سناٹا چھا
 گیا۔ مجھے ڈر لگنے لگا۔ کسی وقت لگتا کہ کوئی دبے پاؤں میرے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ میں
 ہونک کر پیچھے دیکھتا۔ وہاں کوئی نظر نہ آتا۔ کسی وقت لگتا کہ مجھے سانپ کی سیٹی کی آواز آ
 رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آواز خاموش ہو جاتی۔ اب مجھے چلا شروع کرنا تھا چنانچہ میں نے
 آنکھیں بند کر لیں اور دل میں یہ جملہ دہرایا۔

اے ناگن دیوی! مجھے درشن دے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل نے کہا۔
 لاجول ولاقوہ یہ تم کیا بک رہے ہو۔ تم مسلمان کی اولاد ہو۔ یہ کفر کیوں بکنے لگے۔ میں نے
 آنکھیں کھول دیں۔ دل نے کہا اٹھ کر واپس چلے جاؤ لیکن داغ نے کہا۔ ناگن عورت کو
 دیکھنے کا یہ موقع پھر ہاتھ نہیں آئے گا۔ جس طرح سے بھی ہو چلہ پورا کر لو۔ میں نے
 آنکھیں بند کر لیں اور وہی جملہ دہرایا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے میری
 طرف بڑھ رہا ہے۔“

کاکس بازار اور چٹاگانگ کے جنوب مشرقی جنگلوں کا سلسلہ مشرق میں سندربن
 اور جنوب میں اساکان کے پہاڑی سلسلوں کے آگے تھائی لینڈ کی سرحدوں تک پھیلتا چلا

”بھلوا! میں ابھی سے سپیرے بابا کے پاس رہوں گا اور رات کو چلہ شروع کر
 دوں گا۔ تم سردار جی سے جا کر کہہ دینا کہ میں تین دنوں کے بعد واپس چٹاگانگ چلا گیا
 ہوں۔“

بھلوا میری دلچسپی اور شوق کو دیکھتے ہوئے راضی ہو گیا۔ کہنے لگا۔
 ”بابو! ایک بار چلہ شروع کیا تو اسے پورا کرنا۔ نہیں تو زندہ نہ بچو گے۔ ہاں
 تمہیں ڈھونڈ نکالے گی اور ڈس کر ہلاک کر ڈالے گی۔“
 میں نے کہا۔

”میں جانتا ہوں۔“
 اس کے بعد بھلوا چلا گیا۔ میں سپیرے بابا کے پاس ہی بیٹھا رہا۔ سپیرا جی
 میرے شوق کو دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ کہنے لگا۔
 ”تم بڑے بہادر لڑکے ہو۔ آج شام کو میں تمہیں وہاں لے چلوں گا جہاں بیٹھ کر
 تم چلہ شروع کرو گے۔“

میں شام تک سپیرے کے پاس ہی رہا۔ سپیرا تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے
 جھونپڑے کے باہر بٹھا کر جنگل میں چلا گیا۔ کہنے لگا۔ میں سانپ پکڑنے جا رہا ہوں۔
 ایک گھنٹے بعد واپس آیا تو اس نے ایک ہاتھ میں سانپ پکڑ رکھا تھا۔ سانپ کو اس نے دم
 سے پکڑا ہوا تھا اور اسے اٹھا کر چلا آ رہا تھا۔ جھونپڑی میں آتے ہی اس نے سانپ کو پانڈا
 میں بند کر دیا۔ کہنے لگا۔

”یہ بڑا زہریلا سانپ ہے۔ مجھے جنگل سے اس کی بو آگئی تھی۔ یہ سانپ کسی کا
 سپیرے کے پاس ہوتا ہے۔ جس کے پاس یہ سانپ ہو اس کے اندر بہت طاقت آ جاتی
 ہے۔“

جب شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو سپیرا مجھے لے کر وہاں سے کچھ دور جنگل میں
 ایک ندی کے پاس آ گیا۔ ندی کا پانی بڑے سکون سے بہ رہا تھا۔ چھوٹی سی ندی تھی۔ اس
 کے اوپر درخت جھکے ہوئے تھے۔ درختوں پر پرندے بول رہے تھے۔ سپیرے نے ندی

بھی ایک اتنی ہی جوڑی نہ تھی جس میں ہم خوب چھلانگیں لگایا کرتے تھے۔ موسم گرما تھا۔ آسمان پر بادل تھے۔ میرا جی ندی میں چھلانگ لگانے کو چاہا لیکن یہ سوچ کر ڈر گیا کہ کہیں ندی میں کوئی سانپ نہ تیر رہا ہو۔

بنگال کے ان جنگلوں میں دوسرے مہلک حشرات الارض کے علاوہ سینکڑوں قسم کے سانپ بھی ہوتے ہیں۔ ندی کا پانی اس طرح بہ رہا تھا کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی شفاف سطح پر گرے ہوئے پتے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ پانی بہ رہا ہے۔ بڑی خاموشی تھی۔ کسی درخت پر کوئی پرندہ تک نہیں بول رہا تھا۔ فضا درختوں اور قسم قسم کی جنگلی بیلوں اور مرطوب زمین کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ جہاں ندی پر درختوں نے چھت ڈال رکھی تھی وہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔

بڑا پر اسرار ماحول تھا۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ایسے لگا جیسے کوئی جھاڑیوں میں چلا آ رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ ضرور کوئی جنگلی بچھو وغیرہ ہے۔ میں جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا اور جس طرف سے آہٹ سنائی دی تھی اس طرف دیکھنے لگا۔

یہ جھاڑیاں ندی کے اس کنارے پر تھیں جس طرف میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے جھاڑیوں میں سے دو آدمیوں اور ایک عورت کو دیکھا۔ دونوں آدمی عورت کو بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس طرف لا رہے تھے جس طرف ایک درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جھاڑی کی شاخوں میں سے مجھے باہر کا منظر برابر نظر آ رہا تھا۔

دونوں آدمی عورت کو گھسیٹتے ہوئے میرے قریب سے گزرے تو میں نے دیکھا۔ عورت ایک لڑکی تھی جس کی عمر اٹھارہ انیس سال کی ہوگی۔ اس کا رنگ گہرا سونا لولا تھا۔ اس نے نسواری رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی اور اس کے بال کھلے تھے۔ وہ بے حد خوفزدہ تھی اور بنگالی زبان میں کچھ بولتی جا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہ آدمی لڑکی کو کہیں سے اغوا کر کے لائے ہیں اور اب اسے جنگل میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے جا رہے

گیا ہے۔ یہ لاکھوں سال پرانے جنگل اتنے گھنے، گنجان اور دشوار گزار ہیں کہ جنگلی درختوں کو بھی گزرنے کے لئے راستہ نہیں دیتے۔ ان جنگلوں میں دن کے وقت بھی اندھیرا چھا رہتا ہے۔ یہ جنگل قدرت کی ہیبت اور جلال کے مظہر ہیں۔ ان جنگلوں میں سے اردگرد کے دیہات کے لوگ بھی گزرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

پرانے تجربہ کار شکاری بھی ان جنگلوں کی طرف نہیں آتے۔ میں زندگی میں صرف ایک بار ہی ان جنگلوں میں غلطی سے نکل آیا تھا اور مجھ پر یہاں کے دہشت ناک ماحول نے خوف سا طاری کر دیا تھا اور میں جن قدموں سے چل کر وہاں آیا تھا انہیں قدموں سے واپس چلا گیا تھا۔ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں میں کاسر بازار سے کافی دور ایک جنگل میں ٹھیکیدار سردار بشن سنگھ کے ہاں ٹھہرا تھا۔

مجھے بنگال کے جنگل اور ان جنگلوں کی بارش دیکھنے کی خواہش امرتسر سے کھینچ کر وہاں لے آئی تھی۔ میری زندگی کی بڑی قیمتی خواہش تھی لیکن جو کوئی سنتا وہ مجھے اتنا سمجھتا تھا۔ یہاں تک کہ جب سردار بشن سنگھ کو معلوم ہوا کہ میں اتنی دور صرف جنگل اور جنگلوں کی بارشیں دیکھنے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ۔

”تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ جنگل کوئی کلکتے کے وکٹوریہ گارڈن یا تاج محل نہیں ہیں۔ کہ تم انہیں دیکھنے گھر سے نکل پڑے ہو۔“

مجھے یاد ہے میں نے سردار صاحب سے کہا تھا۔

”یہ جنگل میرے لئے وکٹوریہ گارڈن اور تاج محل سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔“

سردار صاحب کا وہاں لکڑی کی کٹائی کا ٹھیکہ تھا۔ میں روزانہ کے کوارٹر سے جنگل کی سیر کو نکل جاتا تھا۔ انہوں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کر رکھی تھی کہ میں جنگل میں زیادہ آگے نہ جاؤں۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ میں جنگل کی سیر کر رہا تھا۔ سیر کرتے کرتے میں جنگل میں ڈرا آگے نکل گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی ندی کو دیکھا جو درختوں کے درمیان سے ہو کر بہ رہی تھی۔

درختوں کی شاخوں نے ندی پر چھت سی ڈال رکھی تھی۔ امرتسر کے کہنی باغ میں

اس عورت کو مصیبت میں مبتلا دیکھا ہے تو اس کی ضرور مدد کروں۔ آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ ایک جملہ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا شروع دن ہی سے میری زندگی کا اصول رہا تھا اور اس نے میری زندگی کے تمام ایڈونچرز میں بڑا نمایاں کام انجام دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جملہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں کبھی گھر سے بھاگ بھاگ کر نہ نکلتا اور جتنے خطرناک سفر اور ایڈونچرز میں نے اس نوجوانی کی عمر میں کئے ہیں شاید کبھی نہ کرتا اور اس قابل نہ ہوتا کہ آج اپنے آپ کو اپنے سنسنی خیز ایڈونچرز کے سچے واقعات سنا سکتا۔ قدرت نے مجھے کہانیاں سنانے کے لئے پیدا کیا تھا اور وہ مجھ سے وہی کام لے رہی تھی جس کے لئے اس نے مجھے پیدا کیا تھا۔

جب مجھے یقین ہو گیا کہ دونوں آدمی اس علاقے سے نکل گئے ہیں تو میں جھاڑیوں میں سے نکلا اور ٹیلے کے پاس کوٹھڑی کے دروازے پر آکر رک گیا اور دروازے کی ایک درز میں سے اندر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کوٹھڑی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا اور لڑکی کے رونے اور سسکیاں بھرنے کی دہلی آواز آرہی تھی۔ مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں دونوں آدمی واپس نہ آجائیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں قریب ہی گئے ہوں۔ میں نے دروازے ہاتھ سے آہستہ سے ٹھک ٹھک کر کے اردو میں کہا۔

”تم کون ہو؟“



میری عمر بھی سولہ سترہ سال کی ہوگی۔ اس عمر میں ہی مجھے ہیرو بننے کا بڑا شوق تھا اور میں بغیر سوچے سمجھے خطروں کو مول لے لیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر کا ہیرو بیدار ہو گیا اور میں نے ان آدمیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی کو بری طرح گھسیٹ رہے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے کندھے سے بندوق لنگ رہی تھی۔ وہ بنگالی زبان میں لڑکی کو غصے میں کچھ کہتے جا رہے تھے۔ ظاہر ہے اسے گالیاں دے رہے ہوں گے۔ میں تھوڑا فاصلہ ڈال کر جنگل میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ درختوں، جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلے کے پاس پہنچ کر رک گئے۔ انہوں نے بد نصیب لڑکی کو زمین پر گرا کر اس کے دونوں ہاتھ رسی سے پیچھے باندھ دیئے اور اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور شاید گالیاں دیتے ٹیلے کی طرف بڑھے۔ ٹیلے کی ڈھلان کے پاس ایک کوٹھڑی سی تھی۔ انہوں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کر لڑکی کو اندر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے باہر تالا لگا دیا۔ تالا لگانے کے بعد وہ کچھ دیر کوٹھڑی کے باہر کھڑے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کرتے رہے پھر واپس جس طرف سے آئے تھے اسی طرف چل پڑے۔ میں انہیں آتا دیکھ کر ایک جگہ درختوں اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ دونوں آدمی آپس میں بنگلہ زبان میں باتیں کرتے میرے قریب سے گزر گئے۔ جب وہ کافی دور چلے گئے تو میں سوچنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہئے۔

ایک خیال یہ بھی آیا کہ مجھے اس بک بک میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ پتہ نہیں یہ لوگ قاتل قسم کے جرائم پیشہ لوگ ہیں اور لڑکی بھی ہو سکتا ہے ان ہی کے طبقے کی طوائف ٹائپ کی عورت ہوگی۔ میں خواجواہ کی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں لیکن میرے نوجوانی کے گرم خون نے جوش مارا اور دل نے کہا کہ یہ عورت ہو سکتا ہے کسی غریب ماں باپ کی بیٹی ہو اور یہ جرائم پیشہ لوگ اسے اغواء کر کے لائے ہیں اور اسے ضرور شہر میں لے جا کر کسی قحبہ خانے میں فروخت کر دیں گے۔

اب اس لڑکی کی ساری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میرا انسانی فرض ہے کہ میں نے

میں نے کہا۔

”وہ اس طرف چلے گئے ہیں۔ میں تمہیں دوسری طرف سے ایک جگہ لے

ہاؤں گا۔ جہاں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔“

لڑکی میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اسے اسی راستے سے واپس لے آیا جس راستے سے میں اس جنگل میں داخل ہوا تھا۔ یہ دس پندرہ منٹ کا راستہ تھا لیکن ہر لمحہ مجھے یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں دونوں ڈاکو کسی طرف سے نکل کر سامنے نہ آجائیں۔ ان میں سے ایک کے پاس بندوق بھی تھی۔ میں تیز تیز چل رہا تھا۔ لڑکی مجھ سے زیادہ تیز چل رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں چپل تھی۔ جو کلکتہ شہر میں عام طور پر عورتیں پہنتی تھیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ لڑکی کلکتے یا چنایا گانگ کے شہر کی رہنے والی ہے۔

اس کے ماتھے پر کیسری رنگ کی بندیا تھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لڑکی ہندو ہے۔ میں اسے سردار بشن سنگھ کے کوارٹر میں لے آیا۔ سردار صاحب برآمدے کے باہر کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ میری طرف دیکھتے ہی رہ گئے۔ میں نے قریب جا کر سردار صاحب سے کہا۔

”اس لڑکی کو دو آدمی اغوا کر کے لائے تھے۔ انہوں نے اسے ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا تھا۔ میں اسے کوٹھڑی سے نکال کر لے آیا ہوں۔“

سردار بشن سنگھ نے میرے چہرے سے نظریں ہٹا کر لڑکی کو غور سے دیکھا اور مجھے ہنجابی میں کہا۔

”یہ کیا نئی مصیبت پکڑ کر لے آئے ہو۔ تم اپنے ساتھ مجھے بھی ضرور پھنساؤ گے۔“

میں نے کہا۔

”سردار جی! یہ لڑکی مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہے۔ میں اسے اس کے گھر

پہنچانا چاہتا ہوں۔“

سردار جی نے لڑکی سے پوچھا۔

کوٹھڑی کے اندر سے لڑکی کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ ایک لمحے کے لئے اندر بالکل خاموشی چھا گئی۔ میں نے جلدی سے کہا۔

”میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ گھبراؤ نہیں۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہ

لوگ کون تھے؟“

کوٹھڑی کے اندر سے لڑکی نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جو کچھ کہا۔ میں اس کا مفہوم یہاں سلیس اردو میں لکھ رہا ہوں۔

”بھگوان کے لئے مجھے باہر نکالو۔ میں تم کو سب کچھ بتا دوں گی۔“

میں نے کہا۔

”گھبراؤ نہیں۔ تالا لگا ہوا ہے۔ میں تالا توڑ رہا ہوں۔“

میں نے ذرا قریب ہی سے ایک پتھر اٹھایا اور تالے پر زور سے دو تین بار مارا تو تالا ٹوٹ گیا۔ میں نے کنڈی کھول کر دروازہ کھول دیا۔ لڑکی بڑی سہی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ کھول دیئے۔ لڑکی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اسے کہا۔

”میرے ساتھ آ جاؤ۔“

لڑکی مجھے اپنا نجات دہندہ سمجھ کر جلدی سے کوٹھڑی سے باہر نکل آئی۔ اس نے

خوفزدہ آواز میں مجھ سے پوچھا۔

”وہ لوگ کہاں ہیں۔“

”تمہارا نام کیا ہے۔ تم کون ہو؟“

لڑکی نے اسی ٹوٹی پھوٹی بنگہ نما اردو میں کہا۔ جس کا میں سلیس اردو میں یہاں ترجمہ کرتا ہوں۔

”میرا نام کملاوتی ہے۔ میں کلکتے کے درگا میا کے مندر کے پجاری کی بیٹی ہوں۔ میں صبح صبح مندر کے پیچھے ندی پر اشان کرنے نکلتی تھی کہ دو آدمیوں نے مجھے پکڑ کر میرے منہ میں کپڑا اٹھوس کر مجھے بے بس کر کے ایک گاڑی میں ڈالا اور شہر سے باہر ایک مکان میں لے جا کر بند کر دیا۔ رات کو انہوں نے مجھے مکان سے نکال کر ایک گاڑی میں باندھ کر ڈال دیا اور بندوق میری گردن کے ساتھ لگا کر مجھے راتوں رات ایک جنگل میں لے آئے۔ مجھے جنگل میں انہوں نے دو دن رکھا اور ایک رات کو وہاں سے بھی نکالا اور ایک گاڑی میں ڈال دیا۔

ساری رات گاڑی چلتی رہی۔ صبح کو پھر اس جنگل میں آگئی۔ وہاں تین اور آدمی مل گئے۔ مجھے ایک رات جنگل میں انہوں نے باندھ کر رکھا اور دوسرے دن جنگل میں ایک کوٹھڑی میں لا کر بند کر دیا۔ وہاں سے مجھے یہ بابو جی نکال کر یہاں لائے ہیں۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ مجھے کلکتے میرے پتاجی کے پاس پہنچا دو۔ پتاجی کا نہ جانے کیا حال ہو رہا ہوگا؟“

کملاوتی کی آواز بھرا مٹی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ سردار جی پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔

”سن اوکا کا۔ میں اس بک بک میں نہیں آؤں گا۔ تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو کلکتے اس کے باپ کے پاس لے جاؤ۔ میرا کسی کو بتانا ہی نہیں کہ یہ میرے ڈیرے پر آئی تھی۔ کل میرا ٹرک نال لے کر کاسر بازار جا رہا ہے۔ وہاں تک اسے لے کر چلے جانا۔ وہاں سے تمہیں چٹا گانگ جانے والی بس مل جائے گی۔ چٹا گانگ سے ٹرین میں بیٹھ کر کلکتے چلے جانا۔“

پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا۔

”اس کوارٹر کے اندر جا کر چار پائی پر بیٹھ جاؤ۔ تمہیں دو وقت کا کھانا مل جائے۔ پہل صبح تک خبردار کوارٹر سے باہر نہ نکلتا۔“

اس کے بعد ایک بار پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا۔

”کا کا تم میرے سامنے والے کوارٹر میں چلے جاؤ۔ تم یہاں کسی سے لڑکی کے بارے میں بات نہیں کرو گے۔ اور لڑکی کے کوارٹر میں بھی نہیں جاؤ گے۔ چلو چھستی کرو۔ جاؤ میرے کوارٹر میں۔“

میں سردار جی کے کوارٹر کے کمرے میں اور لڑکی سردار جی کے دوسرے کوارٹر میں چلی گئی۔ نہ میں کوارٹر سے باہر نکلا نہ لڑکی کوارٹر سے باہر نکلی۔ دوپہر اور رات کا کھانا میں نے بھی کوارٹر کے اندر ہی کھایا۔ رات کو وہیں سو گیا۔ سردار جی باہر دیر تک بیٹھے پہرہ دیتے رہے۔ پھر وہ میرے کمرے میں آئے اور کہنے لگے۔

”خبردار! اگر تم نے لڑکی کے کوارٹر کا رخ کیا۔“

میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ بات سردار جی نے مجھے کیوں کہی تھی۔ میرے دماغ میں یہ خیال تک نہیں آیا تھا کہ میں رات کے وقت لڑکی کے کوارٹر میں جاؤں گا۔ رات گزر گئی۔ صبح چائے وغیرہ مجھے اور لڑکی۔ دونوں کو سردار جی کے نوکر نے اپنے اپنے کوارٹر میں لٹا دی۔ گیارہ بجے کے قریب سردار جی کا ٹرک آ گیا۔ ایک بچے کھانا وغیرہ کھانے کے بعد سردار جی نے لڑکی کو کوارٹر میں سے نکالا۔ مجھے اور لڑکی کو ٹرک کی اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بٹھا دیا اور پنجابی میں کہا۔

”یہ ڈرائیور بنگالی ہے۔ یہ پنجابی نہیں سمجھتا اس لئے میں تمہیں پنجابی میں کہہ رہا ہوں۔ لڑکی کے بارے میں اس سے راستے میں کوئی بات نہ کرنا۔ یہ پوچھے بھی تو اسے ہماڑ کر چپ کر دینا کہ تم کون ہوتے ہو لڑکی کے بارے میں پوچھنے والے۔“ پھر انہوں نے صدری کی جیب میں سے بوٹہ نکالا۔ اسے کھول کر اس میں سے سو سو روپے کے دونوٹ نکال کر مجھے دیئے اور کہا۔

”یہ رکھو۔ یہ راستے میں تمہارے کام آئیں گے۔“

میں نے انہیں خود ایسا دیکھا ہے۔ بنگال کی عورتوں کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ریل کی طرح اپنے خاوند سے چٹ جاتی ہیں۔ خاوند چاہے انہیں جتنا بھی مارے پیٹے وہ ہنسے کبھی الگ نہیں ہوتیں۔ سلہٹ میں مجھے ایک پنجابی عیسائی ڈرائیور ملا تھا۔ اس کی عمر ماہیت پچاس سال کے اوپر ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بنگال میں کب آیا ہے۔

”میں برس کا تھا کہ کام کی تلاش میں کلکتے سے آیا۔ یہاں ایک بنگالی لڑکی سے رہ گیا۔ ہم نے شادی کر لی۔ تب سے لے کر آج تک بنگال میں ہی ہوں۔ کئی بار بیوی سے الگ ہونا چاہا مگر وہ مجھ سے ایسی چٹتی ہوئی تھی کہ الگ ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں اسے ہاتھ مار کھاتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور مجھ سے چٹتی جاتی تھی۔ میں تو کہتا ہوں بھولہ بنگال کا جادو کہتے ہیں وہ ہی عورت بنگال کا جادو ہے۔ یہ عورتیں آدمی پر خاص رہ پنجابی پر جادو کر دیتی ہیں۔“

کملادتی کی اداس اداس آنکھیں بھی مجھ پر اپنا تھوڑا تھوڑا جادو کر رہی تھیں۔ مگر اس کے جادو کا اثر اس لئے زیادہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں پہلے ہی سے ایک جادوگرنی ہلسم کا اسیر تھا۔ چٹا گانگ سے کلکتے تک کا سفر کافی لمبا سفر ہے۔

رات کے ساڑھے گیارہ بجے چٹا گانگ سے ٹرین روانہ ہوئی۔ میں نے کملادتی کو ہاتھ دے کر اپنے ساتھ بٹھایا۔ میں نے ڈبے کوٹنے والی سیٹ سنبھال لی تھی۔ کوٹنے میں کملادتی کو بٹھا دیا اور خود کھڑکی کی طرف ہو کر گیا۔ گویا میں نے ڈبے کے دوسرے مسافروں اور کملادتی کے درمیان اپنے آپ کو حائل لیا تھا۔ نظمدی کا تقاضا بھی یہی تھا۔

ٹرین کے چلنے کے کچھ دیر بعد کملادتی کو نیند آ گئی اور وہ دیوار سے سر ٹیک کر سو گئی۔ لیکن بار بار اس کا سر نیچے کو ہو جاتا تھا اور وہ چونک کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ بے چاری نے کب کی جاگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے لیٹنے کے لئے سیٹ پر جگا بنا دی اور اسے لیا۔ ساری رات وہ سوئی رہی۔ دن کے وقت یاد نہیں کون سا اسٹیشن آیا تو میں نے اسے

اس کے بعد سردار جی آرا مشین کے پاس جا کر لکڑی کی چرائی کا معاوضہ کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ٹرک چیری ہوئی لکڑیوں کا مال لے کر چل پڑا۔ کاسز بازار وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ دو گھنٹے بعد ہم وہاں پہنچ گئے۔ میں نے لڑکی کملادتی کو ساتھ لیا اور بس کے اڈے پر آ گیا۔ یہاں ایک گھنٹے کے انتظار کے بعد ہمیں چٹا گانگ جانے والی بس مل گئی اور ہم چٹا گانگ پہنچ گئے۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ سب سے پہلے ہم ریلوے اسٹیشن پر گئے۔ معلوم ہوا کہ کلکتے جانے والی گاڑی رات کے گیارہ بجے چلے گی۔ اتنی دیر تک ہم نے وہیں پلیٹ فارم پر ہی بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔

کملادتی اب مجھ سے تھوڑی کھل گئی تھی۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ میں واقعی اسے اس کے باپ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں پنجاب کا رہنے والا ہوں تو بنگال میں کیسے آیا ہوں۔ میں نے اسے یہی کہا کہ بس بنگال دیکھنے کے شوق میں آ گیا تھا۔ کاسز بازار میں سردار جی ہمارے والد کے ملنے والے تھے۔ میں ان کے پاس آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ کملادتی تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد چپ ہو جاتی اور یوں پلیٹ فارم پر ادھر ادھر دیکھنے لگتی جیسے اسے کسی چیز کی تلاش ہو۔

درمیانی شکل و صورت کی بھولی بھالی سی لڑکی تھی۔ اس کا لباس میلا ہو گیا ہوا تھا۔ بالوں میں اس نے مجھ سے چھوٹی کنگھی لے کر ایک دو بار اپنے بالوں کو درست کر کے پیچے جوڑا بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھیں بڑی اداس اور خاموش خاموش تھیں۔ جس طرح کہ تقریباً ہر دوسری تیسری عورت کی آنکھیں ہوتی تھیں۔ میری نو عمری کے زمانے میں تو بنگالی عورتوں کی آنکھیں ایسی ہی ہوا کرتی تھیں۔ اب وہاں کا ماحول بھی بھارت کے دوسرے بڑے شہروں کی لڑکیوں کی طرح بڑا بدل گیا ہوگا۔

اب تو بھارت میں عورتوں کے لباس بھی فیشن شو ہوتے ہیں اور لڑکیاں ہم عریاں لباس میں بازاروں اور شاپنگ سنٹروں میں عام چلتی پھرتی ہیں۔ آزادی سے پہلے بنگال کا واحد صوبہ ایسا تھا جہاں عورتوں کی اکثریت بڑی خاموش خاموش اور وقار شعار مشہور

میں کلکتے کئی بار آیا تھا لیکن کلکتہ اتنا بڑا شہر ہے کہ میں اتنی آوارہ گردی کرنے کے بعد اس شہر کا صرف ایک حصہ ہی دیکھ سکا تھا۔ ابھی تین حصے شہر باقی تھا۔ کملاوتی کو لے کر رکشا کلکتے کے ان تیسرے حصوں میں سے گزر رہا تھا جو میرے لئے اجنبی تھے۔ پھر دریا کنارہ آ گیا لیکن دریا کافی فاصلے پر تھا اور سڑک اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی۔ پھر رکشا سربزگھا س والے میدان کے پہلو سے ہوتا ہوا ایک چھوٹی سی بستی میں آ گیا جہاں نے پرانے دو دو تین تین منزلہ ڈھلوان چھتوں والے مکان تھے۔ اس بستی کے باہر ایک درختوں کے اوپر مجھے کیسری رنگ کا نکوننا جھنڈا لہراتا دکھائی دیا۔ کملاوتی نے رکشا وہاں لڑ دیا۔ کہنے لگی۔

”وہ میرے پتاجی کا مندر ہے۔“

اور اس کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا مکان مندر کے پیچھے وہ دوڑ کر اپنے مکان کی طرف گئی تو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ مکان پر تالا پڑا ہوا



جگا دیا۔ ہم نے ڈبے میں بیٹھے بیٹھے ناشتہ وغیرہ کیا۔ مٹی کے آنخوروں میں چائے پی۔ کملاوتی کھڑکی سے باہر نہیں دیکھتی تھی۔ ڈبے میں بھی وہ دوسرے مسافروں سے دہ چھا کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا۔

”فکر نہ کرو۔ یہاں وہ لوگ نہیں آئیں گے۔“

کملاوتی کا رنگ زرد سا پڑ گیا۔ کہنے لگی۔

”بھگوان کے لئے ان کا ذکر نہ کرو۔“

وہ ان لوگوں سے سخت ڈری ہوئی تھی۔ خدا جانے ان درندوں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کس قسم کا وحشیانہ سلوک کیا تھا کہ ان کے ذکر سے کملاوتی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس زمانے میں ریل کے کرائے زیادہ نہیں ہوتے تھے یا یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں روپے کی بڑی قیمت تھی۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا اپنی والدہ کے ساتھ لاہور اپنی بڑا ہمشیرہ کے ہاں آیا کرتا تھا۔ اس وقت مجھے یاد ہے امرتسر سے لاہور کا ریل گاڑی کا واہنی کرایہ نو آنے ہوتا تھا۔ امرتسر سے بمبئی تک ریل گاڑی کا تھرو ڈکلاس کا کرایہ اگر میں بھرا نہیں تو بارہ تیرہ روپے ہوا کرتا تھا۔

یہ ذکر میں اس لئے لے بیٹھا ہوں کہ کلکتہ پہنچنے کے بعد بھی میرے پاس سردا صاحب کے دیئے ہوئے پیسوں میں سے کافی روپے باقی بچ گئے تھے۔ ہماری ٹرین کلکتے کے سیالده کے سٹیشن پر رکی تھی۔ میں نے کملاوتی سے پوچھا۔

”تمہارے پتاجی کا مندر کہاں ہے؟“

اس نے کسی علاقے کا نام بتایا جو مجھے یاد نہیں رہا۔ پھر کہنے لگی۔

”میں رکشا والے کو بتا دوں گی۔“

میں نے ایک خالی رکشے کو روکا۔ کملاوتی نے بیگالی زبان میں اسے درگا دیا کے مندر کا ایڈریس بتایا اور ہم رکشے میں سوار ہو گئے۔ کلکتے شہر کی سڑکوں پر بھی اس زمانے میں ابھی ٹریفک کا سیلاب نہیں آیا تھا۔ سڑکوں پر کاریں ضرور چلتی تھیں مگر ان کا اتنا جوم نہیں تھا جو آج کل نظر آتا ہے۔

دیو داس زندگی کے آخری سانس لے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے۔

”یہ تیرے دو کوس کب ہوں گے۔“

گاڑی بان پوچھتا ہے۔

”کیا کہا بابو جی۔“

سہگل کہتا ہے۔

”کچھ نہیں بھائی۔ جلدی چلو۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔“

گاڑی بان گانے لگتا ہے۔

نہ	پی	کی	نگریا	آئے	ہے
نہ	چمن	کر	بجوا	پائے	ہے
رات	اندھیری	رستہ	دور		
تھک	کر	ہوا	مسافر	چور	
دھیرے	دھیرے	تیرا	جیون		
دبک	بجھتا	جائے	ہے		
نہ	پی	کی	نگریا	آئے	ہے

یہ گیت آرزو لکھنوی نے لکھا تھا۔ یہ غالباً 39-1938ء کا زمانہ تھا۔ وہ زمانہ

دعائی بلندیوں کا زمانہ تھا۔ خاص طور پر نیو تھیٹر کی فلمیں انسان کے دل میں گداز پیدا

کرتی تھیں۔ انسان ان فلموں سے نیک زندگی بسر کرنے کا سبق سیکھتا تھا۔

یہ فلمیں تصنع اور جنسی ہیجان سے پاک ہوتی تھیں۔ آرزو لکھنوی اور کیدار شرما ان

فلموں کے گیت نگار تھے۔ کیدار شرما نے نیو تھیٹر کی دو ایک ابتدائی فلموں کے گیت لکھے۔

لیکن آرزو لکھنوی نیو تھیٹر کے لئے مستقل طور پر گیت لکھتے رہے اور اس وقت نیو تھیٹر سے

ناکام ساتھ چھوٹا جب نیو تھیٹر کی فلم کہنی ہی ختم ہو گئی۔

آرزو صاحب اس کے بعد بمبئی آ گئے جہاں مجھے ان سے ملاقات کا شرف

مل ہوا۔ اس ملاقات کا ذکر میں تفصیل سے اپنے ایک مضمون میں کر چکا ہوں۔

معلوم ہوا کہ کملاوتی کا باپ کلکتہ چھوڑ کر بردوان چلا گیا ہے۔ کملاوتی نے آ

بھری آنکھیں پونچھتے ہوئے بتایا کہ بردوان میں اس کی پھوپھو رہتی ہے۔ بتاچی اس

ہاں گئے ہوں گے۔ سوائے اس کے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ وہاں سے واپس سیالہ بچا

پر آگئے اور بردوان جانے والی گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔

کملاوتی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا

اس کا باپ اس کی پھوپھو کے ہاں ہی ہوگا۔ اسے فکر تھی کہ بتاچی کہیں وہاں سے بھی کسی

طرف نہ نکل گئے ہوں۔ کہنے لگی۔

”وہ میرے بغیر زندہ نہیں رہیں گے۔ انہیں مجھ سے بڑا پیار ہے۔ میر

غائب ہو جانے سے انہیں بے حد صدمہ ہوا ہوگا۔“

بردوان سٹیشن کے نام سے مجھے نیو تھیٹر کی فلم دیو داس کا وہ منظر یاد آ گیا جب

کا ہیرو دیو داس (سہگل) اپنی محبوبہ پاروتی (جننا) سے آخری بار ملاقات کرنے نکلے۔

بردوان جاتا ہے۔ وہ ایک تیل گاڑی میں بیٹھا ہے۔ شام کا وقت ہے۔ تیل گاڑی کے

لائٹن جل رہی ہے۔ تیل گاڑی ایک جنگل میں سے گزر رہی ہے۔ دیو داس گاڑی بان

پوچھتا ہے۔

”کیوں بھائی! بردوان کب آئے گا؟“

گاڑی بان کہتا ہے۔

”بس دو کوس رہ گئے ہیں۔“

یہ لکھنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس وقت میں اس بنگالی لڑکی کے بارے میں نہیں بلکہ بردوان کے نام سے دیوداس کی ہیروئن پاروتی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کتنی پاکیزہ محبتیں تھیں ان لوگوں کی۔ کتنی روحانی بلندیاں ہوتی تھیں ان کرداروں کے چہروں اور ان کی باتوں میں۔ وہ سارے کا سارا غیر مادی اور روحانیت کا دور تھا۔ ہر شے اپنی اصل حقیقت پر قائم تھی۔

کسی اخلاقی قدر کو زوال نہیں آیا تھا۔ کوئی پھول اپنی حقیقی خوشبو سے محروم نہیں ہوا تھا۔ کسی پھول پر کیمیکلز نہیں چھڑکا جاتا تھا۔ کیمیکلز کی بلا ابھی زمین کی گہرائیوں میں دفن تھی۔

میں اپنے خوبصورت خیالوں سے اس وقت چونکا جب بردوان جانے والی گاڑی آگئی۔ میں بنگالی لڑکی کے ساتھ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ بردوان کا شیٹن آیا تو ہم ٹرین سے اتر کر لڑکی کی پھوپھو کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔

میں شوق بھری نگاہوں سے بردوان کی سڑک کے ایک ایک درخت کو دیکھ رہا تھا۔ کیا خبر ان درختوں کے نیچے سے دیوداس فلم کے ہیرو کی تیل گاڑی گزری ہو۔ اب میں اس بنگالی لڑکی سے بے نیاز ہو گیا تھا۔ میں نے دل میں طے کر لیا تھا کہ اسے اس کی پھوپھو کے پاس پہنچا کر میں واپس نکلتے جاؤں گا اور نینو تھیٹرز کے سٹوڈیوز میں کسی طریقے سے سہنگل صاحب اور مس جمنادیوی سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ملاقات نہ ہو سکی تو وہ ہی سے دیکھ کر اپنے شوق کی تسکین کر لوں گا۔

خوش قسمتی سے بنگالی لڑکی کا پجاری باپ اپنی بہن کے گھر پر مل گیا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے مل کر شدت جذبات سے بے اختیار رو پڑے۔ پجاری میرا شکر بہا کر رہا تھا اور میں وہاں سے بھاگ کر شیٹن پہنچنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ آخر مجھے موقع مل گیا اور میں کوئی بہانہ بنا کر ان سے جدا ہو گیا اور سیدھا بردوان کے ریلوے شیٹن پر آ کر بیٹھ گیا اور کلکتہ کی طرف جانے والی ریل گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ بردوان سے آگے بڑا شیٹن آسن سول ہے۔

آسن سول صوبہ بنگال کا آخری بڑا شہر ہے۔ اس کے آگے بہار کا صوبہ شروع ہو جاتا ہے۔ آسن سول جنکشن ہے۔ یہاں سے آگے ریلوے لائن دو شاخوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک ریلوے لائن بنارس کان پور سے ہو کر لکھنؤ جاتی ہے اور دوسری لائن بنارس سے پٹنہ گیا اور گورکھپور سے ہوتی ہوئی لکھنؤ سے جا کر مل جاتی ہے۔

اس طرح بردوان کے شیٹن پر دو اطراف سے ریل گاڑیاں آتی ہیں اور یہاں ریل گاڑیوں کی آمد و رفت صبح سے رات گئے تک لگی رہتی ہے۔ اس زمانے میں بھی بردوان ایک اہم شیٹن تھا اور اب تو سنا ہے کہ بہت بڑا شہر بن گیا ہے۔

چنانچہ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور کلکتہ جانے والی ٹرین آگئی۔ اس ٹرین نے مجھے تیسرے پہرے کلکتے پہنچایا۔ اب یہ سوال میرے سامنے تھا کہ میں کلکتے میں کس جگہ بسرا کروں۔ میرے پاس کافی پیسے تھے۔ مگر اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کسی ہوٹل میں زیادہ دن تک قیام کر سکوں۔ میں خانہ بدوش سیلانی بلکہ آوارہ گرد قسم کا نوجوان تھا اور ہوٹل میں ٹھہرنا ویسے بھی میری طاقت سے باہر تھا۔

کلکتے میں میرے دو ہی ٹھکانے تھے۔ ایک ٹھکانہ ذکر یا سٹریٹ کے امرتسری کشمیری شال بانوں، پٹ گروں اور شال مرچنٹس میں ہمارے لوہ گڑھ والے پھوپھا کا مکان تھا۔ وہاں یہ مصیبت تھی کہ وہ لوگ مجھے دیکھتے ہی پکڑ کر بٹھا لیتے تھے اور پیچھے امرتسر میں والد صاحب کو تار دے دیتے تھے کہ امید کو ہم نے پکڑ لیا ہے۔ کسی آدمی کو بھیج کر اسے منگوا لیں۔

ایک دو بار میرے ساتھ ایسا ہو چکا تھا چنانچہ وہاں جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کلکتے میں میرا دوسرا ٹھکانہ میرے دوست جان محمد کا گھر تھا۔ یہ گھر نہیں تھا بلکہ ڈیرہ کمرے کا ایک بوسیدہ سافلیٹ تھا جو لوہڑ چیت پور روڈ پر سراج بلڈنگ کی دوسری منزل پر واقع تھا۔ جان محمد کے انکل کا کلکتے میں سلولائڈ کا کاروبار تھا اور جان اپنے انکل کی جانب سے وہاں نگران کار مقرر تھا۔

ظاہر ہے میں نے جان محمد کے پاس ہی جانے کا فیصلہ کیا لیکن یہ معلوم نہیں تھا

جن شخص کے فلیٹ پر مجھے بسرا کرنا ہے وہ وہاں موجود ہے یا کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔
میں بلڈنگ کے اندر سے بیڑھیاں چڑھ کر جان کے فلیٹ پر آیا تو دیکھا کہ فلیٹ
دروازہ کھلا ہے اور جان محمد سلولائیڈ کی شیشیں گن رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر اس نے کام چھوڑ
دیا اور اٹھ کر ملا۔

”تم کب آئے؟“

میں نے کہا۔

”بس ہاؤز شیشیں سے سیدھا تمہارے پاس آ رہا ہوں۔“

”گھر سے بھاگ کر آئے ہوتا؟“ اس نے پوچھا۔

میں نے کہا۔

”بھاگ کر ہی آسکتا تھا ویسے مجھے کون کلکتے آنے دیتا ہے۔“

جان شیٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور بولا۔

”بیٹھ جاؤ۔ میرے ساتھ سلولائیڈ کی شیشیں گنو۔“

اور اس نے پچاس ساٹھ کے قریب شیشیں نکال کر میرے آگے رکھ دیں۔ میں

بھی بیٹھ گیا اور شیشیں گننے میں لگ گیا۔ جب میں نے ساری شیشیں گن لیں تو اسے بتا دیا

کہ یہ اتنی ہیں۔ جان نے اپنی گنی ہوئی شیٹوں میں انہیں جمع کر کے ایک کاپی پر لکھ لیا اور

کاپی ایک طرف رکھ کر بولا۔

”دکھو میں تمہارے لئے چائے منگواتا ہوں۔“

اس نے اپنے بنگالی ملازم کو آواز دے کر بلایا اور کہا کہ بار والے سے دو چائے

اور بند کھن لے آؤ۔ آج اتنی مدت گزر جانے کے بعد وہ چائے اور بند کھن یاد آتے ہیں تو

دل تھام کر رہ جاتا ہوں۔ ایسی سچی اور پاکیزہ لذتیں قیام پاکستان کے بعد کراچی میں

نصیب ہوئیں۔ وہ بھی تھوڑی مدت کے لئے اس کے بعد نہ کس چائے میں وہ خوشبو رہی

اور نہ بند کھن میں وہ لذت دیکھی۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی چیزوں کی اصلیت غائب

ہوتی گئی اور ملاوٹ شروع ہو گئی۔

کہ وہ کلکتے میں ہی ہے یا کاروباری دوروں کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گیا ہوا ہے۔ یہ
لوئر چٹ پور روڈ اس کے فلیٹ پر جا کر معلوم ہو سکتا تھا چنانچہ میں نے ایک چوراہے سے
ٹرام پکڑی اور لوئر چٹ پور روڈ کے سراج بلڈنگ والے چوک میں آ کر اتر گیا۔ سامنے
سراج بلڈنگ تھی۔

یہ بڑی پرانی بلڈنگ تھی اور اس کے محرابی دروازے کی ڈیوڑھی میں سے ہو کر
اوپر دوسری منزل کو راستہ جاتا تھا۔ محرابی دروازے کے باہر ایک جانب مٹھائی کی دکان تھی
اور دوسری طرف پان سگریٹ والے بنگالی کی دکان تھی جہاں ریڈیو پر ہر وقت بنگالی گانے
بجتے رہتے تھے۔

پان سگریٹ کی اس دکان پر میں نے پہلی دفعہ رابندر ناتھ ٹیگور کے رابندر سنگیت
کے علاوہ مشہور مسلمان بنگالی شاعر نذر الاسلام کا نذر کیتی کا سنگیت سنا تھا۔ کلکتے کے بنگالی
مسلمانوں میں نذر الاسلام کے انقلابی گیت بے حد مقبول تھے۔

نذر الاسلام کی نظموں میں اسلام کی عظمت اور جذبہ جہاد کا ذکر نمایاں تھا۔ اس کی
نظمیں بڑی پر جوش اور جذبات انگیز تھیں۔ رابندر ناتھ ٹیگور کی شاعری اگر پرسکون لہروں
کے ساتھ بہتی ندی تھی تو قاضی نذر الاسلام کی شاعری طوفانی سمندر کی بھری ہوئی موجیں
تھیں۔ میرے امرتسری اور محلے دار دوست جان محمد کو بنگالی آتی تھی۔ وہ مجھے نذر الاسلام کی
نظموں کا ترجمہ کر کے سنایا کرتا تھا۔

سراج بلڈنگ کے باہر پان سگریٹ والی دکان کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ
پسند تھی وہ دکان کی فضا میں پھیلی ہوئی پان کے تمباکو اور توام کی خوشبو تھی۔ میں تمباکو والا پان
نہیں کھاتا تھا مگر مجھے اس کی خوشبو بڑی اچھی لگتی تھی۔ میں اکثر اس دکان پر پانسٹک شوٹا
تینچی کا ایک سگریٹ لے کر صرف وہاں کی خوشبو کے لئے دیر تک کھڑا رہتا اور مجھے لگتا جیسے
خوشبو میں مجھ سے ہمکلام ہیں۔

اس وقت بھی جب میں ٹرام سے اتر کر پان کی دکان کے قریب سے گزرا تو ان
خوشبوؤں نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی مگر مجھے اس وقت یہ معلوم کرنے کی جلدی تھی کہ

”تم ایسا کیوں نہیں کرتے۔“

میں نے پوچھا۔

”کیسے کیوں نہیں کرتا۔“

جان بولا۔

”خوابہ قبر بٹ تمہارا رشتے دار ہے نا؟ وہی جن کی امجدیہ ہوٹل کے پاس

نیری شالوں کی دکان ہے۔“

میں نے کہا۔

”ہاں۔ کیوں۔“

جان نے کہا۔

”اس کی فلم ایکٹروں سے بڑی واقفیت ہے۔ تم اس کو کہو۔ وہ تمہیں ان سب

پٹروں سے ملا دے گا۔“

خوابہ قمر الدین بٹ کو میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہمارا بڑا قریبی رشتے دار تھا۔

میں ایک بڑی اچھی بات تھی کہ وہ کلکتہ میں مقیم ہمارے دوسرے رشتے داروں سے بہت

نق تھا۔ وہ کھانے پینے والا آدمی تھا۔ خوبصورت گورا چٹنا تھا۔ عمر پچاس کے قریب تھی

ان تیس سال کا لگتا تھا۔ بڑا خوش خوراک اور خوش لباس تھا۔ ہمیشہ چابی کے لٹھے کی شلوار

لٹھ پونڈ کی دو گھوڑا بوسکی کی قمیص اور فلیکس پمپ شوز پہنتا تھا۔

ہاتھوں میں قیمتی پتھروں والی سونے چاندی کی انگوٹھیاں اور گلے میں سونے کی

یک زنجیری ہوتی۔ کریون اے کے سگریٹ پیتا تھا جس کا گول ڈبہ ہر وقت اس کے ہاتھ

ماتھتا تھا۔ شراب کا عادی نہیں تھا لیکن محفل لگ جائے تو خوب پیتا تھا۔ اس میں جو

رے حساب سے سب سے اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی میں گھر سے بھاگ کر کلکتہ

ناور وہ مجھے مل جاتا تو ہرگز ہرگز مجھے پکڑ کر بٹھاتا نہیں تھا اور نہ میرے گھر امرتسر کوئی خط

ماتا تھا کہ میں نے برخوردار کو پکڑ کر بٹھا لیا ہے۔ کوئی بھروسے کا آدمی بھیج کر اسے منگوا

ما۔ بلکہ جب پہلی بار میں گھر سے بھاگ کر کلکتہ آیا تو وہ مون لائٹ سینما کے پاس مجھے

جان محمد مجھ سے عمر میں تین چار سال بڑا تھا۔ وہ سگریٹ کی بجائے بیڑی پڑ

تھا۔ اس زمانے میں پان کا یکہ مار کہ بیڑی بڑی مشہور تھی۔ جان بھیا بیڑی پیتا تھا۔ مگر

نے بھی سگریٹ چھوڑ کر بیڑی پینی شروع کر دی۔ مگر میرا مزاج بیڑی کے موافق نہیں تھا

خاص طور پر مجھے اس کی بو بہت ناپسند تھی۔ چنانچہ میں نے ایک ہفتے تک تو اسے گوارا کیا

پھر بیڑی چھوڑ دی۔ میں نے جان سے کہا کہ میں ماسٹر کے ایل سہگل، نواب بیگ ملک اور

جننا دیوی ہیرون سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا۔

”ان سے ملنا مشکل ہے۔ تمہیں کوئی سٹوڈیو کے اندر نہیں جانے دے گا۔“

میں نے کہا۔

”میں سٹوڈیو کے اندر نہیں جاؤں گا۔ جب وہ باہر نکلیں گے تو انہیں مل لوں گا۔“

وہ کہنے لگا۔

”وہ کار میں ہوں گے اور بڑی تیزی سے نکل جائیں گے۔ تم انہیں دیکھتے

جاؤ گے۔“

میں نے کہا۔

”ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھ کر کار روک لیں۔“

جان بڑا ہنسا۔ کہنے لگا۔

”کیوں؟ تم ان کے چاچے لگتے ہو کہ تمہارے لئے وہ کار روک لیں گے

ارے ان لوگوں کو چھوڑو۔ یہ فلموں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ عام زندگی میں کچھ بڑ

ہوتے۔ مجھے دیکھ لو۔ میں بھی ان کی فلمیں شوق سے دیکھتا ہوں۔ مگر میرا دل کبھی ان سے

ملنے کو نہیں چاہا حالانکہ سٹوڈیو یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔“

میں نے کہا۔

”یار! تم مجھے اتنا بتا دو کہ نیو تھیٹر کا سٹوڈیو کہاں ہے۔ باقی میں جانوں اور یہ

کام۔“

پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا۔

مل گیا۔ دیکھتے ہی پوچھنے لگا۔

”گھر سے بھاگ کر آئے ہو؟“

میں نے ڈر کے مارے کہہ دیا۔

”ہاں لالہ جی۔“

وہ بڑا خوش ہوا اور میری پیٹھ ٹھونک کر بولا۔

”شاباش! کشمیریوں کے پتروں کو ایسا ہی ہونا چاہئے۔ پیسے چوری کر کے تو نہیں

لئے تھے؟“

میں نے کہا۔

”جی نہیں۔“

☆.....☆.....☆

کہنے لگا ”بس چوری کبھی نہ کرنا۔ بہنوں کا گلہ توڑ کر چاہے پیسے نکال لیتا۔ کہاں

ٹھہرے ہو؟“

میں نے اسے جان محمد کا بتایا تو کہنے لگا۔

”کھانا کھایا ہے تم نے؟“

میں نے کہا ”جی ہاں۔“

بولتا ”یہاں کیا کر رہے ہو؟ فلم دیکھنے آئے ہو؟ فلم دیکھنی ہے تو چتر لیکھا جا کر

دیکھو۔ اس میں کیدار شرما ایک نئی گانے والی لڑکی لایا ہے۔ کپے گانے کی استاد ہے۔ میں

کہتا ہوں ایسا گلا پھیرتی ہے کہ آدی حیران رہ جاتا ہے۔“

اس نے جیب سے مجھے دس روپے نکال کر دیئے اور کہا۔

”جاؤ سینما میں جا کر دیکھو۔ چتر لیکھا فلم دیکھیں گی ہے۔ بارہواں ہفتہ جا رہا

ہے۔“

کلکتے میں فلم چتر لیکھا جس سینما گھر میں لگی ہوئی تھی میں اس کا نام بھول گیا

ہوں۔ ڈیہوڑی سکوائر سے ذرا آگے میرا خیال ہے کہ یہ سینما ہاؤس تھا۔ اس کا ہال زیادہ بڑا

نہیں تھا۔ اس کی تین گیلریاں تھیں جو نصف دائرے کی شکل میں تھیں۔ سنا ہے کہ تھیٹر کے

زمانے میں وہاں میڈن تھیٹرز کے کھیل ہوا کرتے تھے۔ جب جان نے مجھے خواجہ قمر بٹ

سے ملنے کو کہا تو میں نے سوچا کہ وہ تو بڑا اچھا رشتے دار ہے وہ مجھے ضرور سہاگل اور جمناسے

ملوادے گا۔ میں خواجہ قمر بٹ کی دکان پر جاتے ہوئے گھبراتا تھا کہ وہ امجدیہ ہوٹل کے پاس

ڈکریا سٹریٹ میں ہے اور وہاں مجھے میرے دوسرے رشتے داروں میں سے کسی نے دیکھ لیا

میں نے کہا۔ ”ابھی میں نے فلم نہیں دیکھی۔ ابھی میں آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ مجھے نیو تھیٹرز کے سٹوڈیو میں ماسٹر سہنگ اور مس جمناسے ملا دیں۔ جان کہتا تھا آپ کی ان سب ایکٹروں سے بڑی واقفیت ہے۔“
خواجه صاحب نے کریون اے کا کش لگایا اور بولے۔

”اوائے وہ لوگ تو میرے بڑے یار ہیں۔ کوئی بات نہیں۔ میں کل تمہیں سٹوڈیو لے چلوں گا۔ تم اس وقت یہاں ہوئیں گے آ جانا۔ یہ لوگ سٹوڈیو میں شام کے بعد ہی آتے ہیں۔ تمہیں سب سے ملاؤں گا۔“

میں بڑا خوش خوش سراج بلڈنگ میں واپس آ گیا اور جان کو سب بتا دیا۔ وہ بھی لٹا ہوا اور کہنے لگا۔

”میں نے کہا تھا تا یہ کام خواجه صاحب ہی کر سکتے ہیں۔“

اگلے روز میں شام ہوتے ہی احمدیہ ہوٹل پہنچ گیا۔ خواجه صاحب وعدے کے مطابق وہاں اپنے کچھ بے تکلف دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بڑی دیر بعد میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے۔

”چلو میرے آوارہ گرد راج کمار!“ اس زمانے میں بلکہ اس زمانے سے ذرا پہلے میرے بچپن کی بات ہے ایک فلم پرل ٹاکیز میں لگی تھی جس کا نام تھا ”آوارہ راج“۔

مجھے اتنا یاد ہے یہ فلم میں نے پرل ٹاکیز میں دیکھی تھی۔ اس میں شاہو معا ہو کہ ہیرو کا کام کیا تھا۔ شاہو معا ہو کہ اس وقت چھوٹا تھا۔

یہ فلم بڑی چلی تھی اور بڑی مشہور ہوئی تھی۔ میں سولہ سترہ سال کا ہو گیا تھا اور قمر بٹ کو یہ فلم ابھی تک یاد تھی۔ اس زمانے کی فلمیں بڑی سادہ ہوتی تھیں۔ فلم میں کام کرنے والی کسی بھی عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ لباس سے باہر نکلا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ سادہ ہتھے اور سیدھی سادھی فلمی کہانیاں ہوتی تھیں۔ کسی میں دیہات کے سکول ماسٹر کی کہانی نہ تھی، کسی میں بہن بھائی کی محبت کی کہانی ہوتی تھی اور کسی میں باپ کی بیٹی سے محبت کا

تو وہ مجھے ضرور پکڑ لیں گے۔ مجھے یاد ہے یہ لوگ مجھے اس طرح ایک دم پکڑ لیتے تھے جس طرح کھیں ڈال کر چوری کا مرغا پکڑا جاتا ہے۔ یہ اپنی طرف سے میرے خیر خواہ تھے اور ان کا خیال تھا کہ میں اگر اسی طرح گھر سے بھاگتا رہا تو بگڑ جاؤں گا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جن کو بگڑنا ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بگڑ جاتے ہیں۔

خواجه قمر بٹ سے ملنا اب ضروری ہو گیا تھا۔

ایک دن میں شام کے وقت اپنے آپ کو چھپا کر چلتا ہوا احمدیہ ہوٹل کے قریب پہنچا تو اتفاق سے خواجه صاحب ہوٹل میں بیٹھے چائے کا کپ سامنے رکھے سگریٹ کا کش لگا رہے تھے۔ میں جلدی سے ہوٹل کے اندر چلا گیا اور سلام کر کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ بڑی محبت سے لگا ہوا زرد رنگ کا بناری پان ایک تھالی میں ان کے سامنے پڑا تھا۔ خواجه صاحب مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور پہلا سوال ہی یہی کیا۔

”گھر سے بھاگ کر آئے ہوتا؟“

میں نے بھی بڑے فخر سے کہا۔

”جی ہاں لالہ جی!“

”شباباش! کھانا کھا لیا ہے؟“

وہ کھانے کا ضرور پوچھتے تھے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ میں اپنے دوست جان محمد کے ہاں سراج بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ خواجه قمر الدین نے بڑے سلیقے سے پان کو تھالی میں پڑے پڑے ایک ہی ہاتھ کی انگلیوں سے لپیٹ کر منہ میں ڈالا اور انگلیوں پر لگا ہوا کھانا اپنے بائیں کان کے اوپر گرے ہوئے بالوں سے پونچھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔

”ہیبیوں کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو۔“

میں نے کہا۔ ”جی نہیں لالہ جی! آپ نے مجھے جو فلم دیکھنے کیلئے پیسے دیئے تھے وہ میرے پاس ہیں۔“

”چتر لیکھا دیکھی فلم؟ اب مجھے یاد آ گیا ہے۔ جس عورت نے اس فلم میں کپے گانے گائے ہیں اس کا نام رام دلاری ہے۔ تم جاؤ جاؤ بھگوان بے ڈالے گانے میں کیسا گلا پھیرتی ہے۔“

سنا تھا۔ ٹرین بمبئی کی طرف اڑی جا رہی تھی اور میں یہی سوچ رہا تھا۔
بمبئی میں کسی کے ہاں ٹھہرنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ بمبئی کی فضا بڑی کاروباری قسم کی
نہی۔ متوسط طبقے کا ہر آدمی اپنی جگہ مجبور تھا اور دو تین دن سے زیادہ کسی کو اپنے ہاں مہمان
رکھنے کی سکت نہیں رکھتا تھا۔ اس شہر کا کوئی اپنا کچھل بیک گراؤنڈ نہیں تھا جس طرح کہ
کلکتے کے پیچھے پورا بنگلہ لٹریچر اور بنگلہ میوزک اور بنگلہ کچھل تھا۔
بمبئی اب تو صوبہ مہاراشٹر میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے
اس زمانے میں یعنی 39-1938ء میں یہ شہر گجرات کا ٹھنڈا واڑ کے زیر اثر تھا اور گجراتی عام
بولی جاتی تھی۔ ویسے بمبئی میں اینگلو انڈین پارس، مراٹھے، بنگالی، پنجابی اور مدراسی لوگ بھی
دلوں سے آباد چلے آ رہے تھے۔

اس شہر کو کاسموپولیٹن شہر کہا جاتا تھا کہ وہاں کا کچھ ملا جلا تھا۔ بمبئی کے بارے میں
مشہور ہے کہ یہ شہر جدوجہد کا شہر ہے اور یہاں کاروباری اور خاص طور پر فلمی دنیا میں بطور
اداکار، رائٹر یا پروڈیوسر کے کوئی مقام حاصل کرنے کیلئے بڑی سخت جدوجہد کرنی پڑتی ہے
فالتے کرنے پڑتے ہیں، فٹ پاتھ پر سونا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ آدمی
اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔

اس کا تجربہ مجھے ہو چکا تھا۔ جب پہلی بار میں فلم کا ہیرو بننے گھر سے بھاگ کر
بمبئی گیا تھا تو اس وقت میری عمر تیرہ چودہ سال کی ہو گی مجھے وہاں فالتے بھی آگئے تھے اور
میں کئی راتیں فٹ پاتھ پر بھی سویا تھا۔ پہلے تو مجھے فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے سخت شرم آئی
تھی مگر جب مجھ پر نیند نے شدید غلبہ کیا اور میں نے سینکڑوں لوگوں کو صاف ستھرے چکیلے
فٹ پاتھ پر قطاروں کی صورت میں سوتے ہوئے دیکھا تو میں بھی ایک جگہ فٹ پاتھ پر
لیٹ گیا۔ اس رات ثابت ہو گیا کہ اصل چیز نیند ہوتی ہے بستر نہیں۔ اگر نیند آ رہی ہو تو
آدمی فٹ پاتھ پر بھی سو جاتا ہے۔ اگر نیندیں اڑ چکی ہوں تو پھر ریشمی پتھونے پر بھی آدمی
ماری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔
میرے بچپن کے استاد مجھے کہا کرتے تھے کہ خدا سے نیند مانگنا بستر کبھی نہ

قصہ ہوتا تھا۔ صرف وادیا مووی ٹون کی "ہنر والی" قسم کی بعض فلمیں ایسی ہوتی تھیں کہ
میں عورت ذرا کھل کر ڈانس کرتی تھی۔ یقین کریں اس ڈانس کو دیکھ کر بھی ذہن میں کامیابی
واہیات خیال پیدا نہیں ہوتا تھا۔

شاید یہ اس زمانے کی فضا کا اثر بھی تھا۔ اس زمانے کی فضا میں روحانیت رہا
ہوئی تھی۔ خواجہ قمر الدین بٹ مجھے ساتھ لے کر نیو تھیٹرز کے سٹوڈیوز میں پہنچ گئے۔ گر
کے چوکیدار سے لے کر سٹوڈیو کے ملازموں تک ہر کوئی خواجہ صاحب سے علیک سلک
تھا۔ آفس میں جا کر معلوم ہوا کہ سہگل اور جتنا دیوی دونوں کسی فلم کی شوٹنگ کرنے آ رہے
کے علاقے میں گئے ہوئے ہیں۔

میں سہگل اور جتنا دیوی سے ملنے کی حسرت دل میں لیے سراج بلڈنگ آ کر
اب میں ان لوگوں کی کلکتے واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے ایک
اخبار میں یہ خبر پڑھی کہ نیو تھیٹرز کا فلمی یونٹ شوٹنگ کے بعد آسام سے واپس آ گیا
لیکن جتنا دیوی کچھ روز ابھی دارجلنگ میں قیام کریں گی اور ماسٹر سہگل اپنی فلمی مصروفی
کے سلسلے میں بمبئی چلے گئے ہیں، جہاں وہ اپنے کالج روڈ والے فلیٹ میں قیام کریں گے
اب میرا دل کلکتے میں نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنے دوست جان سے کہا کہ
سہگل سے ملنے بمبئی جا رہا ہوں۔ اس نے کہا تمہاری مرضی۔ چنانچہ میں ایک روز ٹرین
سوار ہو کر بمبئی روانہ ہو گیا۔ بمبئی میں میرا ایک ٹھکانہ ہو سکتا تھا۔ یہ ٹھکانہ لاہور والے اثر
صاحب کا آٹو سٹور تھا جو لیکٹنن روڈ پر واقع تھا اور جہاں میں پہلی مرتبہ گھر سے بھاگ کر
تھا تو اشرف صاحب نے مجھ سے ذکر کیے بغیر میرے گھر خط لکھ دیا تھا کہ آپ کا
میرے پاس ٹھہرا ہوا ہے کسی کو بھیج کر اسے لے جائیں۔

اشرف صاحب نے بڑا نیکی کا کام کیا تھا مگر میرا ایڈوچر برباد ہو گیا تھا
والے بمبئی پہنچ کر مجھے واپس امرتسر لے گئے تھے اور مجھے بڑی مار پڑی تھی۔ اس وجہ
میں اشرف صاحب کے آٹو سٹور کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چپکے
میرے گھر خط لکھ دیں گے اور میں پکڑا جاؤں گا۔ دوسری کونسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں میں

میں اس کے ساتھ چل پڑا۔

رام بھروسے ہوئیں کا نام اور اس کی بوسیدہ عمارت کی شکل صورت آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ ہوئیں بہمنی کے کسی گنجان آبادی والے علاقے میں واقع تھا۔ مجھے اس علاقے کا نام نہ اس وقت معلوم تھا نہ آج معلوم ہے۔ دو منزلہ پرانی عمارت تھی جس کے نیچے ایک دکان نما دفتر میں ایک لالہ جی رجسٹر لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے رجسٹر میں میرا نام اور میرے شہر کا نام اور ایڈریس لکھا، پانچ روپے لیے اور چابی دے کر کہا۔

اوپر چڑھ کر بائیں ہاتھ باجو والا مالا ہے۔“

مالا یعنی کمرہ ایک چھوٹی سی کوشٹری تھی جس میں ایک چار پائی پر گندا سا بستر بچھا ہوا تھا، کیا کرتا؟ مجبوراً اور بڑی مشکل سے میں نے وہاں ایک رات بسر کی اور دوسرے دن رام بھروسے کو چھوڑ کر میں اللہ کے بھروسے پر ایک سڑک کے فٹ ہاتھ پر چل پڑا۔ ذہن مرف بھی سوچ رہا تھا کہ کہاں ٹھہرا جا سکتا ہے۔

اچانک مجھے چرنی روڈ والے نیک دل حکیم صاحب کا خیال آ گیا۔ بہمنی میں یک دفعہ فاقے کی حالت میں، میں حکیم صاحب کا بورڈ دیکھ کر ان کے پاس چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا اور مجھے اپنے لوہے کے چٹو میں دو انیاں کوٹنے پر ملازم می رکھ لیا تھا۔ میں دکان کے باہر بیٹھ کر دو انیاں کوٹتا، ڈیوڑھی والے نکلے کے پاس بیٹھ کر انی بوتلیں دھو کر صاف کرتا۔ اگر دو انیوں کی بوتلوں اور ڈبوں پر کوئی لیبل اکھڑ گیا تو اسے لوند سے چپکاتا۔ حکیم صاحب نے دکان کے ایک چھوٹے کمرے کو اخبار بینی کی لائبریری تبدیل کر رکھا تھا۔ یہاں ایک بڑا سا بیضوی میز بچھا تھا جس کے گرد لوہے کی پرانی رسیاں لگی تھیں۔ محلے کے بڑے بوڑھے شام کو یہاں آ کر اخبار وغیرہ پڑھا کرتے تھے۔ جی کبھی حکیم صاحب کے مطب میں مسلم لیگ کا کوئی لیڈر بھی آتا تھا۔ حکیم صاحب انہیں کس طور پر لائبریری دکھاتے تھے۔ اس روز لائبریری کی صفائی بھی مجھے کرنی پڑتی تھی۔ اس کو میں اسی لائبریری کے بیضوی میز پر سوتا تھا۔ مجھے ایک میلا سا سرہانہ اور چادر ملی تھی جسے میں صبح لپیٹ کر لائبریری کی ایک الماری میں رکھ دیتا تھا۔ حکیم صاحب کا

مانگنا۔ میں نے اپنے پہلے سفر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ بہمنی بڑا طوطا چشم شہر ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک بہت بارونق سڑک پر چلتے چلتے مجھے پیاس لگی تو میں نے سوڈا واٹر کی ایک دکان پر جا کر پانی مانگا تو دکاندار نے کہا۔

”پانی نہیں ہے..... سوڈا واٹر ہے۔“

مجھے اس کا یہ جملہ پورے کا پورا ابھی تک یاد ہے۔ اب یہ پتہ نہیں وہاں کیا حال ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں اس زمانے میں بہمنی میں کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کو کھانے پینے کو بھی مل جائے گا اور سونے کیلئے جگہ بھی مل جائے گی۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو فاقہ کرنا ہوگا اور فٹ ہاتھ پر سونا ہوگا۔

بعض شہر غریب پرور ہوتے ہیں جیسا کہ ہمارا لاہور شہر ہے۔ اس زمانے میں بہمنی غریب پرور نہیں تھا، بڑا سنگدل شہر تھا۔ لیکن روڈ والے آٹو سٹور کے مالک اشرف صاحب ایسے نیک دل لوگ بہمنی میں خال خال ہی ملتے تھے۔

کلکتے سے چلی ہوئی ریل گاڑی بہمنی شہر کے مضافات میں داخل ہو چکی تھی اور مجھے ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ میں بہمنی میں کہاں ٹھہروں گا۔ میرے پاس اتنے پیسے ضرور تھے کہ میں کسی معمولی سے ہوئیں میں تین چار دن تک ٹھہر سکتا تھا، لیکن میں یہ پیسے بہمنی کے دوسرے اخراجات کیلئے بچا کر رکھنا چاہتا تھا۔

ٹرین بہمنی کے بڑے سٹیشن بوری بندر پہنچ گئی اور میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ آخر یہی سوچا کہ ایک دن کسی تھرڈ کلاس ہوئیں میں ٹھہر جاتا ہوں اس کے بعد کوئی جگہ ٹالان کروں گا۔ سٹیشن پر ہوٹلوں کے ایجنٹ موجود ہوتے تھے۔ دوسرے مسافروں کی طرا انہوں نے مجھے بھی اکیلا جان کر گھیر لیا۔ کوئی اپنے ہوئیں کی تعریف میں کچھ کہتا کوئی کچھ آخر ایک آدمی نے کہا۔

”رام بھروسے ہوئیں میں چلو بابو۔ پانچ روپے کرایہ ہوگا۔ کھانا پینا بھی بڑا سنا

مل جائے گا۔“

آرڈر تھا کہ چھت کا پنکھا رات کے دس بجے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ بمبئی میں بارشیں بہت ہوتی ہیں اور وہاں کا موسم گرمیوں میں اکثر خوشگوار رہتا ہے اور رات کو چونکہ سمندر کی طرف سے ہوا چلتی ہے اس لیے رات کو سچے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ مگر میرے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ بعض اخبار کے کیڑے دیر تک بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے تھے اور میں چادر اور سر ہانہ لیے ایک طرف بیٹھا ان کا انتظار کرتا رہتا تھا کہ کب وہ اخبار مطالعہ ختم کر کے لائبریری کی جان چھوڑیں اور میں میز پر چادر بچھا کر سوؤں۔ میں دن بھر کی مشقت کا بڑا تھکا ہوا ہوتا تھا اور کونے میں بیٹھے بیٹھے اونگھنے لگتا تھا۔ میں دس بجے بجائے رات کے نو بجے ہی چھت کا پنکھا بند کر دیتا مگر دو ایک بوڑھے بند بچھے میں بھی بیٹھے اخبار پڑھتے رہتے تھے۔ میں دل میں دعائیں مانگتا کہ بجلی چلی جائے مگر یہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور بجلی سال میں کبھی کبھار ہی جاتی تھی۔



گیارہ سوا گیارہ بجے اخبار کے بوڑھے کیڑے عینک اتار کر اسے جیب میں لے۔ بڑی آہستہ آہستہ اخبار کو تہہ کر کے ایک طرف رکھتے۔ اخبار کو رکھتے رکھتے بھی وہ مانی کوئی نہ کوئی خبر پڑھتے جاتے تھے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا۔ جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگاتا اور میز پر سر ہانہ رکھ کر بس میز پر گر پڑتا۔

مکے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہتا کہ میں کب سویا تھا۔

میں کوئی تین چار سال کے بعد حکیم صاحب کے پاس جا رہا تھا۔

دل میں بار بار ایک ہی دعا مانگ رہا تھا کہ خدا کرے حکیم صاحب زندہ رہیں۔ حکیم صاحب زندہ تھے مگر پہلے سے زیادہ بوڑھے اور کمزور ہو گئے تھے۔ عینک ناک پر ہاور نیچے ڈھلک آئی تھی اور آنکھوں کے حلقے زیادہ گہرے ہو گئے تھے۔ اب خیال آتا کہ حکیم صاحب شاید کوئی کشتہ وغیرہ کھاتے تھے۔ آدی بڑے شریف اور خوش اخلاق۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ انہیں میرا نام بھی یاد تھا۔ کہنے لگے۔

”ارے! تم تو بڑے ہو گئے ہو۔ اب بھی گھر سے بھاگ کر بمبئی ایکٹرن بننے آئے

میں نے کہا۔ ”نہیں حکیم صاحب میں نے ایکٹرن بننے کا خیال دل سے نکال دیا

سب میں ایک ایکٹرن سے ملنے آیا ہوں۔“

”اچھا؟“ حکیم صاحب نے عینک کے اوپر سے میری طرف گھور کر پوچھا۔

”ہاں ہے وہ ایکٹرن؟ ضرور موتی لعل ہوگا۔“

میں نے اپنا اٹیچی کیس لائبریری والے کمرے کی الماری میں رکھ دیا۔ لائبریری کی حالت پہلے سے زیادہ خستہ ہو گئی تھی۔ لوہے کی کرسیوں کا روغن اتر چکا تھا اور درمیان میں جو میز بچھی تھی اس کا رنگ بھی اڑنے لگا تھا۔ میں نے حکیم صاحب سے کہا۔

”میں سہگل صاحب کے فلیٹ پر ان سے ملنے جا رہا ہوں وہ کالج روڈ پر رہتے ہیں۔“

حکیم صاحب بولے۔ ”ارے تمہیں معلوم ہے کہ کالج روڈ کہاں ہے؟“

میں نے کہا۔ ”اب یاد نہیں رہا۔“

کہنے لگے۔ ”نکٹ لے کر لوکل ٹرین پر بیٹھ جانا اور موتنگا سٹیشن پر اتر جانا۔ کالج روڈ موتنگا سٹیشن کی دوسری طرف ہے۔“

جب میں جانے لگا تو بولے۔

”ارے کیوں در بدری کرنے جا رہے ہو۔ یہ ایکٹر لوگ ہر ایرے غیرے کو نہیں ملا کرتے۔“

میں نے کہا۔ ”نہیں حکیم صاحب! میں نے سہگل کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ بڑا سادہ طبیعت والا ہے اور ہر کسی سے مل لیتا ہے۔“

حکیم صاحب عینک کوناک کے اوپر چڑھاتے ہوئے بولے۔

”اچھا بھائی چلا جا جا کر دیکھ لے۔ پیسے ہیں نکٹ کے تمہارے پاس؟“

میں نے کہا۔ ”جی ہاں ہیں۔“

میں چرنی روڈ سے سیدھا ایک لوکل سٹیشن پر آیا۔ نکٹ لیا اور موتنگا کی طرف جانے والی لوکل ٹرین میں بیٹھ گیا۔ لوکل ٹرین بھی بمبئی کی ایک خاص چیز ہوا کرتی تھی۔ یہ بمبئی شہر کے شاید آس پاس دائرے کی شکل میں چلتی تھی اور بمبئی کے بڑے بڑے اور مشہور علاقوں سے گزر کر جہاں سے چلتی تھی وہیں واپس آ جاتی تھی۔ لوکل ٹرین کا ایک اپنا کلچر تھا۔ اس ٹرین میں تھوڑی دور کی سواریاں بیٹھتی تھیں۔ یہ ساری سواریاں شہر کی ہوتی تھیں۔ ان میں کوئی شہر سے باہر کسی دوسرے شہر کو جانے والا مسافر نہیں ہوتا تھا۔ اس میں سٹیشن بھی

اس زمانے میں موتی لعل بطور ہیرو سب سے مشہور تھا۔ میں نے کہا۔ ”نہیں میں ماسٹر سہگل سے ملنے آیا ہوں۔“ حکیم صاحب بولے۔ ”ارے وہ تو کلکتے میں ہے۔“

میں نے کہا۔ ”میں کلکتے سے ہی آیا ہوں۔ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ارا سہگل آج کل بمبئی میں ہے۔“

حکیم صاحب نے افسوس کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے کہا۔

”ارے کیوں اپنی عمر برباد کر رہا ہے۔ یہ وقت تمہارے پڑھنے کا ہے کوئی؟ سیکھنے کا ہے۔ کب تک یہ آوارہ گردیاں کرتا رہے گا۔“

میں نے کہا۔ ”حکیم صاحب میں نویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں۔ سکول با چھٹیاں تھیں اس لیے سیر کرنے نکل پڑا۔“

حکیم صاحب کہنے لگے۔ ”اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی کام وغیرہ تو ہے۔ دو ملازم پہلے سے کام کر رہے ہیں۔ چار چھ دن رہنا ہے تو یہاں رہ لیتا۔ گھر میں پکنا ہے ہمارے ساتھ تم بھی کھا لیا کرنا اور ہاں بھائی رات کو لائبریری میں ہی سونا پڑ گا۔“

میرے ساتھ ایک چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا۔ آج کل تو بڑے سوٹ کیس کو بھی ان کیس کہتے ہیں۔ ان دنوں اٹیچی کیس بریف کیس سائز کا ہوا کرتا تھا جس میں دنیا جہاں چیزیں آ جاتی تھیں۔ میرے اٹیچی کیس میں دو جوڑے کپڑوں کے، دو تھپتھپے برش، شین کا سامان، میری تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھ آتی جس کی میں فوراً شیو کر دیا کرتا تھا۔ اس علاوہ ایک چھوٹی قمیچی، ایک چھوٹی نوٹ بک اور پنسل، کنگھی اور ایک رات کو لگانے کی آہوتی تھی جس کا نام مرکولا نیز ڈوکیس تھا۔

اس کی رات کی رانی ایسی خوشبو مجھے بڑی پسند تھی۔ ویسے تو میں کوئی کریم پاؤ وغیرہ نہیں لگاتا تھا مگر یہ کریم تھوڑی سی رات کو ضرور لگا کر سوتا تھا۔ ساری رات مجھے ال دھیمی دھیمی خوشبو آتی رہتی تھی۔ بس اس سے زیادہ مجھے اس کریم سے اور کچھ نہیں چاہتا

سگریٹ تھا۔ بالکل ہمارے کے۔ نوکی طرح۔ فلم ڈائریکٹر اے آر کاردار کے دیرینہ
 فنی ایم صادق صاحب کو بمبئی میں نے یہی سگریٹ پیتے دیکھا تھا۔ بڑے کم گو اور
 اندہ حراج فلم ڈائریکٹر تھے۔ ایک بار میں گھر سے بھاگ کر ایکٹر بننے کے شوق میں ان
 کے پاس بھی چلا گیا تھا۔ بمبئی میں ان کا فلیٹ میرن ڈرائیو کی ایک بلڈنگ میں دوسری یا
 بری منزل پر تھا۔ مجھے انہوں نے کھانا کھلایا تھا اور دوسرے دن اپنے ساتھ کاردار شوڈیو
 لے بھی لے گئے تھے۔ پھر انہوں نے سمجھایا کہ مجھے ابھی تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے اس
 کے بعد بمبئی آ کر ان سے ملوں۔ مجھے یاد ہے انہوں نے مجھے انیس روپے بمبئی سے امرتسر
 لے کر ریل کے کرایہ وغیرہ کیلئے دیئے تھے اور میں بوری بندر کے سٹیشن سے رات کے نو بجے
 بن میں بیٹھ کر امرتسر چلا آیا تھا۔

بمبئی کی لوکل ٹرینیں بجلی کے ذریعے چلتی تھیں اور ان کی سپیڈ بڑی تیز ہوتی تھی۔
 لمپٹن کی ہر کھڑکی میں لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی تھیں۔ شاید اس لیے کہ اگر ٹرین میں
 لگ جائے تو لوگ باہر نہ نکل سکیں۔

لوکل ٹرین ریلوے لائن کے آس پاس گھرے پڑے رومی کاغذوں کو اڑاتی بڑی
 بزرگداری سے شہر کی اونچی اونچی بلڈنگوں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ جب ٹرین موٹنگا
 کے سٹیشن پر رکی تو میں اتر گیا۔ سڑھیوں والا ریلوے پل عبور کر کے سٹیشن کی دوسری طرف آ
 گیا۔ ایک آدمی سے کالج روڈ کا پوچھا۔ اس نے کونٹیوں کے درمیان سے گزرتی چھوٹی
 سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس سڑک پر چل پڑا۔ کچھ دور جا کر ایک آدمی سے پوچھا
 کہ یہاں سہگل صاحب کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس نے ایک عمارت کی طرف اشارہ کر
 کے کہا۔

”اس بلڈنگ میں سہگل ٹھہرتا ہے۔ جا کر معلوم کر لو۔“

میں نے جا کر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سہگل شوٹنگ کیلئے کشمیر گیا ہوا ہے ایک مہینے
 بعد آئے گا۔ میں نے کہا ایسے سہگل کی ایسی کی تیس۔ ایرانی ہوٹل میں چل کے چائے کا
 ایک کوپ پوچھا چار مینار کا سگریٹ لگاؤ پکڑو پنجاب میل اور چلو امرتسر کے کھنٹی باغ میں۔

تھیں اور آسنے سامنے کے دروازوں کے درمیان لوہے کے راڈ بھی لگے ہوتے تھے جنہیں
 پکڑ کر مسافر کھڑے رہتے تھے اور اگلے سٹیشن پر اتر جاتے تھے۔ اس ٹرین میں سامان رکھ
 اور سونے والی کوئی برتھ نہیں ہوتی تھی۔ اس ٹرین میں تقریباً دوسرے تیسرے سٹیشن پر
 کوئی نہ کوئی دوایاں گولیاں اور سردرد کی دوائی بیچنے والا سوار ہو جاتا تھا اور جب تک اگا
 سٹیشن آتا تھا وہ اپنی تقریر بھی کر لیتا تھا اور اپنی دوائی کی تمام خاصیتیں بتا کر دس بارہ آس
 کی گولیاں فروخت کر کے دوسرے تیسرے سٹیشن پر اتر بھی جاتا تھا۔ لوکل ٹرین میں
 موسیوں بیچنے والی مرہٹہ عورتیں بھی آتی تھیں۔ وہ کسی نہ کسی سٹیشن سے ٹرین میں سوار ہو کر
 موسیوں کا ٹوکرا نیچے رکھ کر موسیوں بیچتی تھیں۔ یہ موسیوں بمبئی کی خاص سوغات تھی۔ ان
 کا رنگ سبز اور چھلکا پتلا ہوتا تھا اور بڑی مشکل سے چھیلی جاتی تھیں۔

یہ بالکل کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور بڑی میٹھی ہوتی تھیں۔ موسیوں بیچنے والی
 مرہٹہ عورتوں کی آنکھیں بھی کیسری رنگ کی ہوتی تھیں اور ماتھے پر اسی رنگ کا تلک لگا ہوا
 تھا۔ ناک میں بڑی سی نتھ ہوتی اور تیل میں بے ہوئے بالوں کو کھینچ کر پیچھے جوڑا کیا ہوا
 تھا۔ جوڑے میں چاہے باسی ہی سہی لیکن سفید پھولوں کا ایک آدھ ہار ضرور سجا ہوتا تھا۔ یہ
 سانولے اور گہرے سانولے رنگ کی بڑی محنت کش بلکہ جفاکش عورتیں تھیں۔ مجھے ان
 مرہٹہ عورتوں کی ساڑھیوں کے رنگ اور جوڑے میں لگے ہوئے سفید پھول بڑے اچھے
 لگتے تھے۔ مہاراشٹر کی خواتین کی ساڑھی دور سے پہچانی جاتی ہے۔ ان ساڑھیوں کے رنگ
 بڑے شوخ ہوتے ہیں۔ سبز سرخ ساڑھی پر نیلے یا سیاہ رنگ کا بارڈر ہوتا تھا۔ موسیوں بیچنے
 والی مرہٹہ عورتوں کا ساڑھی باندھنے کا بھی اپنا خاص انداز ہوتا تھا۔ ساڑھی باندھنے کے
 اپنے اس انداز کی وجہ سے مرہٹہ عورت ہزاروں عورتوں میں صاف پہچانی جاتی ہے۔ بعض
 موسیوں بیچنے والی عورتیں سگریٹ بھی بیچتی تھیں اور ان کے ٹوکروے میں پیلے ہاتھی یا چار
 مینار سگریٹ کی ڈبی بھی نظر آ جاتی تھی۔ پان تو اکثر عورتیں کھاتی تھیں۔ بمبئی میں اس
 زمانے میں چار مینار اور پیلا ہاتھی عوام کے مقبول سگریٹ تھے۔ چار مینار کی ڈبی پر حیدر آباد
 دکن کی عمارت چار مینار کی تصویر ہوتی تھی۔ پیلا ہاتھی ڈرائیو سگریٹ تھا مگر چار مینار بڑا

پلین پر کی تو ایک ٹی ٹی ہمارے ڈبے میں آ گیا۔ پتہ نہیں کون سا شیٹن تھا جیسے ہی ٹی ٹی
برے قریب سے ہو کر آگے گیا میں بڑے آرام سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ پلیٹ فارم پر
ڑتے ہی ٹرین کے آخری ڈبے کی طرف چل پڑا۔ میں تیز تیز چل رہا تھا کیونکہ وہ کوئی
چوہا شیٹن تھا اور ٹرین نے وہاں زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔ تھرڈ کلاس کا ایک ڈبہ نظر آیا میں
اس میں سوار ہو گیا اور دروازے میں کھڑا رہا اور پیچھے دیکھتا رہا کہ ٹی ٹی نیچے اترتا ہے یا
نہیں۔ پنجاب شروع ہو گیا تھا۔ مجھے بڑا حوصلہ تھا کہ اب امرتسر زیادہ دور نہیں ہے۔ ٹرین
تھوڑی دیر کے بعد ہی چل پڑی۔ میں پھر بھی دروازے میں کھڑا پیچھے دیکھتا رہا۔ جب
ٹرین شیٹن سے نکل گئی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ٹی ٹی نیچے نہیں اترے گا۔ بعض ٹی ٹی یہ
کرتے تھے کہ چلتی ٹرین میں ایک ڈبے سے دوسرے ڈبے میں سوار ہو جاتے تھے میں دیر
تک دروازے میں ہی کھڑا رہا۔ ٹرین نے بھی کافی سپیڈ پکڑ لی تھی۔ میں دروازے کے
قریب ہی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اگلا شیٹن لدھیانہ تھا۔ یہ کافی بڑا جنکشن تھا۔ جیسے ہی ٹرین
رک میں جلدی سے پلیٹ فارم پر اتر گیا اور چل پھر کر ٹرین کا جائزہ لینے لگا۔ میں نے دور
سے اس ڈبے میں نگاہ ڈالی جس ڈبے میں ٹی ٹی داخل ہوا تھا۔ وہ دروازے میں سے باہر
نکل کر چل رہا تھا۔ میں ایک طرف ہو گیا کیونکہ کبھی کبھی ٹی ٹی پلیٹ فارم پر چلتے پھرتے بھی
کسی مسافر کا ٹکٹ چیک کر لیا کرتے تھے۔ مگر ایسا وہ اس وقت کرتے تھے جب انہیں کسی
مسافر پر شک ہو جائے کہ یہ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہے۔

ٹی ٹی پلیٹ فارم کے گیٹ کی طرف چلا گیا شاید اسے لدھیانہ سے کسی دوسری
ٹرین میں واپس ولی جانا تھا۔ لدھیانہ بڑا شیٹن تھا۔ یہاں ٹرین زیادہ دیر رکتی تھی۔ میں
کتابوں کے سٹال پر رسالے وغیرہ دیکھنے لگا لیکن ٹی ٹی کو میں نے اپنی نگاہ میں رکھا ہوا تھا۔
وہ پلیٹ فارم کے گیٹ پر دوسرے ٹکٹ چیکر سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔
جب تک انجن نے سیٹی نہیں بجائی میں کتابوں رسالوں کے سٹال پر ہی کھڑا رہا۔ تھرڈ کلاس
کے ایک ڈبے کو میں نے تاڑ لیا تھا جب ٹرین کھسنے لگی تو میں بھی ڈبے کے ساتھ ساتھ چلنے
لگا۔ لیکن ٹی ٹی کو برابر دیکھ رہا تھا کہ کہیں یہ دوڑ کر ٹرین میں سوار تو نہیں ہوتا مگر وہ گیٹ پر

میں نے ایسا ہی کیا۔ کالج روڈ سے نکل کر ایک ایرانی ہوٹل میں بیٹھ کر چائے کا ایک کوب پیا
چار مینار کا سگریٹ لگایا اور لوکل ٹرین پکڑ کر سیدھا حکیم صاحب کے ہاں آ گیا۔ حکیم
صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا۔

”ارے مل آئے سہگل سے؟“

میں نے کہا۔ ”جی ہاں مل آیا ہوں۔ اب واپس پنجاب جا رہا ہوں۔“

حکیم صاحب مجھے حسب عادت نصیحتیں کرنے لگے کہ اب گھر جا کر ساری توجہ
سکول کی پڑھائی کی طرف دینا یہ عمر پھر ہاتھ نہ آئے گی وغیرہ وغیرہ۔ میں نے پیوں کا
جائزہ لیا۔ میرے پاس پندرہ سولہ روپے ہی باقی رہ گئے تھے۔ بمبئی سے امرتسر تک ٹرین
میں تھرڈ کلاس کا کرایہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ پہلے چودہ پندرہ روپے ہوتا تھا اب انیس روپے کے
قریب ہو گیا تھا۔ میرے پاس کرایہ پورا نہیں تھا۔ حکیم صاحب سے کچھ روپے لینا میرا
طبیعت نے گوارا نہ کیا۔ پہلے سوچا کہ بغیر ٹکٹ کے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں جو ہو گا دیکھ
جائے گا۔ پھر خیال آیا کہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ بمبئی سے امرتسر تک بڑا
لمبا سفر ہے۔ راستے میں کسی بھی جگہ ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرنے آ سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ
بمبئی سے دلی کا ٹکٹ لے لیتا ہوں اور دلی سے امرتسر بغیر ٹکٹ کے بیٹھ جاؤں گا۔ چنانچہ
میں نے ایسا ہی کیا۔ بوری بندر سے رات کے نو بجے پنجاب میل چلتی تھی۔ یہ بمبئی سے
پشاور تک جاتی تھی۔ میں نے دلی تک کا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لیا اور پنجاب میل میں بیٹھ گیا۔
ٹرین چلی تو شکر ادا کیا کہ بمبئی کی فلمی دنیا کی بک بک سے نکل رہا ہوں۔ دلی پہنچ کر انا
بات کا بڑا افسوس ہوا کہ راستے میں کسی جگہ کوئی ٹی ٹی ٹکٹ چیک کرنے نہیں آیا تھا۔ اب
آگے مجھے بغیر ٹکٹ سفر کرنا تھا۔ اس کام میں میں بڑا ماہر تھا اور مجھے یہ پسند بھی بہت تھا۔
ایک پلیٹ فارم پر لاہور جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ پنجاب میل کے چھوٹے کے آدھ
گھنٹہ بعد چلتی تھی۔ میں ٹکٹ کے بغیر ہی اس کے تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ
گیا۔ میں دروازے کی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ اگر ٹی ٹی کسی شیٹن پر اندر آ جائے تو
میں آنکھ پچا کر دروازے میں سے باہر نکل جاؤں۔ ٹرین ساری رات چلتی رہی۔ صبح اٹک

ہی بیٹھا رہا۔ میں دوڑ کر ڈبے میں چڑھ گیا۔

ٹرین کا اگلا سٹاپ جالندھر تھا۔ جالندھر سے بھی ایک ٹی ٹی ٹرین میں سوار کیا۔ وہ انٹر کلاس کے ڈبے میں چڑھا تھا، میرا ڈبہ تھرڈ کلاس کا تھا اور اس سے دو تین ڈبے چھوڑ کر تھا۔ امرتسر تک میری ٹی ٹی سے ہی آنکھ مجھولی ہوتی رہی اور ٹی ٹی کے ساتھ ساتھ میں بھی ڈبے بدلتا رہا۔ جب مانانوالہ سٹیشن گزر گیا اور ٹرین امرتسر کی حدود میں داخل ہو گئی میں دلیر ہو گیا۔ اب میں کسی بھی جگہ ٹرین سے اتر کر پیدل بھی امرتسر جا سکتا تھا۔ ٹرین بے رفتاری سے کھیتوں میں سے گزر رہی تھی۔ پھر چالیس کھوہ بھی گزر گئے اور ایک طرف امرتسر کے باغات اور دوسری طرف شریف پورے کی آبادی شروع ہو گئی۔ یہاں کبھی کبھی آؤٹ اسٹیشن ڈاؤن نہیں ہوتا تھا تو ٹرین شریف پورے کے پاس رک جاتی تھی۔ میں دعا مانگا کہ ٹرین آؤٹ اسٹیشن پر رک جائے اور میں یہیں اتر کر شریف پورے کے ریلوے سٹیشن سے ہوتا ہوا اپنے محلے میں چلا جاؤں۔



ہمارا محلہ شریف پورے کے قریب ہی تھا مگر ٹرین وہاں نہ رکی۔ سیدھی پلیٹ فارم پر جا کر رکی۔ میں ڈبے کے دوسرے دروازے میں سے ریلوے لائن پر اتر گیا اور دوسری جانب کی ریلوے لائن پار کر کے دوسرے پلیٹ فارم پر چڑھ کر ریلوے یارڈ کی طرف جلدی جلدی چلنے لگا۔ ریلوے یارڈ میں سے گزر کر سامنے والی دیوار کے ساتھ ساتھ رگوبرج کی طرف رخ کر لیا میرے ساتھ جو چھوٹا سا اٹیچی کیس تھا یہ اس بات کی علامت تھی کہ میں ٹرین سے اتر اہوں۔ یہ اٹیچی کیس مجھے پھنسا سکتا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ میں لگانے کی بجائے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور یوں بے نیازی سے سیٹی بجاتا چلنے لگا جیسے میں یونہی سیر کرتا ہوا ریلوے یارڈ میں آ گیا ہوں۔

میری قسمت اچھی تھی کہ کسی نے مجھ سے ٹکٹ کا نہ پوچھا۔ وہاں ایک جگہ آنے جانے والے لوگوں نے یاریلوے کے آدمیوں نے دیوار توڑ کر ایک شکاف ڈال رکھا تھا۔ میں جلدی سے اس میں سے گزر کر باہر گول باغ والی سڑک پر نکل آیا۔ سڑک پر آنے کے بعد میں نے اطمینان کا سانس لیا اور گول باغ میں داخل ہو گیا۔ وہاں سے سکندر گیٹ میں سے گزر کر ہال بازار میں آ گیا۔ اب میں اپنے محلے میں تھا۔ گھر پہنچ کر والد صاحب نے جو طبیعت صاف کی اس کا میں کافی حد تک عادی ہو چکا تھا۔ والدہ اور بہنیں تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں مگر والد صاحب نے کوچوان والا سا غٹا پکڑ لیا اور میرے گرد ہو گئے۔

میں سر بازوں میں دے کر بڑے آرام سے مار کھاتا رہا۔ میرا جسم والد صاحب کے سامنے پر لگ گیا تھا مجھ پر اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ کھٹے ڈیرھ کھٹے کے بعد میں

ایسی وجہ سے مجھے ان کا نام بھی یاد رہ گیا ہے۔ وہ کلاس میں داخل ہوتے تو ہر طرف اڑتی چھا جاتی تھی اور لڑکے مودب ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ وہ بھی لڑکوں سے بڑی شفقت اٹھانے لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں کوئی بید وغیرہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کبھی انہیں کسی بے کوسرا دیتے نہیں دیکھا تھا۔ سوچتا ہوں یہ لوگ یہ چہرے کہاں چلے گئے کہاں غائب ہوئے۔ کیا وہ پھر کبھی نظر نہیں آئیں گے؟ کیا اس حیات ارضی سے آگے خیابان عقبی میں نال و غراب کا کوئی بہار آفریں چمن ایسا ہے کہ جہاں ہم ان مسکراتے ہوئے نورانی چہروں کو پھر سے دیکھ سکیں گے؟

کچھ کچھ میں آتا ہے بہت کچھ کچھ میں نہیں آتا۔

گھر میں اگر میرا کوئی ہدم و ہم خیال تھا تو وہ میرا چھوٹا بھائی مقصود تھا۔ جس کا نام آرٹسٹ بھائی کے نام سے اکثر ذکر کیا کرتا ہوں۔ مگر وہ خود والد صاحب کے زیر عتاب رہتا تھا کیونکہ اسے مصوری کا شوق تھا اور بقول والد صاحب کے وہ کوئی مفید ہنر سیکھنے یا کوئی ذرا کرنے کی بجائے رنگ روغن سے بیکار قسم کی تصویریں اور سینریاں بناتا رہتا تھا۔ مگر وہ اکثر اور غصیلے مزاج کا تھا اور گالیاں بہت دیتا تھا۔ گھر میں سوائے میرے وہ کسی سے بدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا۔ ڈرائنگ بورڈ پر بڑا سا گتہ یا ڈرائنگ کاغذ لگا کر وہ پینسل سے کوئی کچھ یا دائرہ کر میں کوئی سینری بناتا رہتا تھا۔ میری طرح اور ناندان کے دوسرے کشمیری لڑکوں کی طرح آرٹسٹ بھائی کو کھانے پینے اور عمدہ کپڑے پہننے کا بھی کوئی شوق نہیں تھا۔ گھر میں جس وقت جو کچھ ملتا کھا لیتا تھا۔ حیرانی کی بات ہے کہ میں یاد کرتا ہوں تو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے اسے گھر میں یا باہر کبھی کھانا کھاتے دیکھا ہو۔ مجھے بالکل نہیں پتہ کہ وہ چیچ سے چاول کھاتا تھا یا ہاتھ سے کھاتا تھا۔ لباس میں وہ صرف سفید کرتہ اور تنگ موری کا پاجامہ پہنتا تھا۔ ہمیشہ ہاتھ کے سفید فلیٹ شو لینی ربڑ کے بوٹ پہنتا تھا۔ ان بوٹوں کو وہ ہر تیسرے چوتھے روز سفید رنگ گھول کر لگاتا۔ صحن میں گملوں کے پاس اس کے پالش کئے ہوئے کیلے بوٹ اور تسمے دھوپ میں پڑے ہوتے تھے۔ بے تیز اور نازک مزاج تھا۔ ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا تھا۔ تصویر بنا رہا ہوتا تو سوائے

کچھ ہی باغ میں پھر رہا تھا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اب اپنے گھر میں آ گیا ہوں۔ ایک ایک درخت مجھ سے میرا حال پوچھ رہا تھا۔ کسی ایک درخت نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ ان آوارہ گردیوں میں اپنی قیمتی عمر کیوں برباد کر رہے ہو۔ یہ عمر تمہارے پڑھنے کی ہے، تعلیم حاصل کرنے کی ہے۔ سب درخت جانتے تھے کہ جو تعلیم حاصل کرنے کیلئے قدرت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ تعلیم مجھے درخت دے رہے تھے۔ کچھ ہی باغ میرا اسکول تھا، میرا کالج تھا، میری یونیورسٹی تھی۔ ہر درخت میرے لیے استاد کی حیثیت رکھتا تھا۔ کچھ ہی باغ کے یہ درخت ان درختوں کے درمیان سکون سے بننے والی نہر اور نہر کے کنارے ناشپاتی اور آلو پے کے باغ مجھے وہ تعلیم دے رہے تھے جو مجھے دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی سکول، کوئی استاد نہیں دے سکتا تھا۔ یہ میرے وہ استاد تھے وہ پروفیسر تھے جن سے لیکچر سنانی نہیں دیتے تھے، جن کی کتابیں دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ لیکن ہر کتاب کا مفہوم ہر درخت کی شاخ پر ہر شاخ کے پھول پھول پر روشن نظر آتا تھا۔ یہ سنا سنا یا علم نہیں تھا۔ یہ وہ علم تھا جو سامنے نظر آتا تھا۔ علم کی باتیں سننا کچھ اور ہوتا ہے، علم کو اپنے سامنے دیکھنا کچھ اور بات ہے۔ کچھ ہی باغ میری یونیورسٹی تھی اور میں اس اوپن یونیورسٹی کے باغ میں بیٹھا ایک ایک پتے سے ایک ایک پھول سے، پھولوں پر چمکتے شبنم کے موتیوں سے علم حاصل کر رہا تھا۔ جس طالب علم کو ایسی یونیورسٹی مل جائے اسے کسی دوسرے سکول میں داخل ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

لیکن گھر والوں نے پکڑ کر مجھے ایک بار پھر سکول میں داخل کرا دیا۔ میرا ایک سال پھر ضائع ہو گیا تھا۔ اس دفعہ مجھے امرتسر کے گورنمنٹ ہائی سکول میں نوہن جماعت میں داخلہ مل گیا۔ یہ سکول ہمارے محلے میں ہی تھا اور ماسٹر عبدالقیوم صاحب اس کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ دراز قد، بھرا بھرا جسم، گورا چٹا رنگ، سیاہ دائرہ ان کے چہرے پر بڑی جتنی تھی۔ شلوار قمیض اور اچکن کے ساتھ سر پر نسواری جناح کیپ پہنتے تھے۔ چہرے پر ہر وقت ایک معصوم سی مسکراہٹ رہتی تھی۔ بڑی دلکش اور بارعب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا خوبصورت چہرہ اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے

ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے امرتسر کے مشہور پینٹر اور خطاط سردار پینٹر کی باقاعدہ شاگردی اختیار کر لی تھی۔ سردار پینٹر نے پاکستان بن جانے کے بعد میو ہسپتال کے چوک میں اپنی پینٹری کی دکان کھول لی تھی۔ مقصود یعنی آرٹس بھائی وہاں بھی اس کے پاس جایا کرتا تھا۔ سردار پینٹر نے اپنی دکان کے باہر بورڈ پر لکھوا رکھا تھا۔

”بال سے باریک اور ہاتھی سے موٹا لکھنے والے امرتسر کے مشہور سردار پینٹر کی یہی دکان ہے۔“

سردار پینٹر انگریزی اور اردو کی بڑی اعلیٰ اور معیاری لیسنگ کرتا تھا۔ امرتسر میں وہ جس زمانے میں پرل ٹاکیڈ کا ہیڈ پینٹر تھا، آرٹس بھائی اس زمانے میں بھی اس کا شاگرد تھا۔ آرٹس بھائی کے کوہ مری سے میرے نام لکھے ہوئے خط آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ بڑے رومانٹک اور ادبی خطوط ہیں۔ میری طرح وہ بھی قدرت کے مناظر، جنگلوں، بارشوں، گالٹورڈی کے سیب کے درخت اور میکسم گور کی آپ بیتی کا عاشق تھا۔ اپنے خطوں میں اس نے بڑے رومانوی انداز میں جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں اور بارشوں کا ذکر کیا ہے۔ حالانکہ وہ سوائے کوئٹہ کے اور کبھی کسی شہر نہیں گیا تھا۔ عجیب بات ہے کہ ہماری آپس میں محبت بھی بہت تھی اور ہماری لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھیں۔ ان لڑائیوں میں ہم ایک دوسرے کو گالی وغیرہ نہیں دیتے تھے۔ لڑتے وقت بالکل کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ بس ایک دوسرے کو پہاڑی بکروں کی طرح ٹکریں مارتے رہتے تھے اور لہولہان ہو جاتے تھے۔

پاکستان بننے کے بعد وہ بمشکل ایک ڈیڑھ سال لاہور میں ہمارے ساتھ رہا۔ پھر وہ کوہ مری جا کر سیروز سینما میں بطور ہیڈ پینٹر ملازم ہو گیا اور پھر کوہ مری کا ہی ہو کر رہ گیا۔ میں پچیس برس تک کوہ مری میں رہا۔ سردیوں میں وہ راولپنڈی والے سیروز سینما میں آ جاتا اور گرمیاں شروع ہوتے ہی کوہ مری چلا جاتا۔ اس نے سوائے میرے سب سے ناطہ توڑ لیا تھا۔ گھر والوں میں سے کوئی اس سے ملنے جاتا بھی تو نہیں ملتا تھا۔ موت سے ایک دو برس پہلے اس نے مجھ سے بھی رشتہ توڑ لیا تھا۔ کوہ مری اور راولپنڈی میں بھی وہ کسی سے نہیں

میرے گھر کا کوئی آدمی اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے تصویر بناتے دیکھتا تھا تو انہیں کلا وغیرہ تو دے نہیں سکتا تھا۔ بس برش تھالی میں رکھ کر اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ گھر والوں کے علاوہ اگر کوئی اسے تصویر بناتے دیکھتا تو اسے کوئی لحاظ کئے بغیر جھڑک دیتا تھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو اوائے؟

آرٹس بھائی کو مجھ سے بڑی محبت تھی قیام پاکستان کے بعد جب وہ کوہ مری کے سیروز سینما میں بطور پینٹر ملازم ہو گیا تھا تو مجھے بڑے پیارے بھرے خط لکھا کرتا تھا۔ میرے افسانوں کی منظر نگاری کا وہ عاشق تھا۔ خود بھی اندر سے بڑا رومانیت پسند تھا۔ یہ صفائی پسند تھا۔ کوہ مری کی برزباری میں بھی وہ ہر روز نہاتا، گھر میں دھلی ہوئی یا دھول کی دھلی ہوئی سفید قمیض، سفید کرتا اور بے داغ سفید ربڑ کے شوز پہن کر کام شروع کرتا تھا۔ اس نے ساری زندگی پتلون نہیں پہنی تھی اور دھوتی نہیں باندھی تھی۔ مجھ سے زیادہ گورنر چڑچکلا اور دراز قد تھا۔ ڈھولک بڑی اچھی بجالیتا تھا۔ گانا اسے نہیں آتا تھا لیکن گھر میں کسی تقریب کے موقع پر ڈھولکی گھنٹے کے نیچے دبا کر بجاتے ہوئے گردن ایک طرف ڈالا کسی کسی وقت کوئی پنجابی لوک گیت یا سہگل کا کوئی گانا گانے لگتا تھا۔ اس کا ماتھا بڑا دراز اور فراخ تھا۔ سگریٹ ہمیشہ کیپسٹن کے پیتا تھا۔ میں لڑکپن میں بڑا اچھا گایا کرتا تھا۔ آرٹس بھائی میرے ساتھ بڑی اچھی اور کھمک دار ڈھولک بجاتا۔ میرے ساتھ وہ کسی گانے مذاق کی بات پر کھل کر ہنس بھی لیتا تھا۔ حیرت کی بات ہے کہ اکثر مزاج ہونے کے باوجود وہ بڑا شرمیلا تھا۔ خاندان میں بھی وہ کسی لڑکی سے کبھی بات نہیں کرتا تھا۔ تنہائی پسند سوائے میرے محلے میں اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی۔ ہم دونوں اکٹھے کبھی کبھی صبح کی بر کرنے کپنی باغ یا چالیس کنوؤں پر جایا کرتے تھے۔ میرے واپسی پر ایک آدھ بھلا ضرور اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور پھول والا ہاتھ جھانگیر بادشاہ کی طرح اس کے منہ کے قریب ہوتا تھا اور بڑے بچے تلے قدموں سے میرے ساتھ چل رہا ہوتا تھا۔ مصوری انہوں نے محض اپنے شوئی کی وجہ سے سیکھی تھی اور یہ عطیہ اسے قدرت کی طرف سے ملا تھا۔ کچھ عرصہ وہ ہال بازار میں ایک دکان پر جس کا نام سلور سٹوڈیو تھا پینٹنگ سیکھنے پر ملازم

ساب چکا کر باقی پیسے آرٹسٹ بھائی کی جیب میں ڈال دیتا تھا۔ اپنی ساری زندگی اس نے سفید پاجامے کرتے اور سفید بانا کے بوٹ میں گزار دی۔ سردیوں میں ایک گرم کوٹ پہن لیا کرتا تھا۔ کوہ مری کی سردیوں میں بھی کبھی کوئی کبیل یا دھسہ وغیرہ نہیں لیتا تھا۔ ساری زندگی اس نے سر پر ٹوپی پہنی نہ گلوبند وغیرہ پہینا۔ برفباری میں بھی اس کا سر بغیر کسی گرم ڈاپی وغیرہ کے ہوتا تھا۔ یہ بھائی میرا پہلا اور شاید آخری دوست تھا۔ اس کا ذکر شروع ہو جائے تو جی چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرتا رہوں۔ آپ اگر بور ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔

گورنمنٹ ہائی سکول میں نویں جماعت پاس کی اور دسویں جماعت میں پہنچ گیا۔ بڑی مشکل سے دسویں جماعت میں دو تین مہینے پڑھا تھا کہ پاؤں کے چکر نے پھر نا شروع کر دیا۔ اس دفعہ بنگال کے ترناری اور رجنی گندھا کے سفید پھولوں اور دھرم تلہ رولرز چیت پور روڈ کی پان سگریٹ کی دکانوں سے طلوع ہوتی زررے اور توام کی ڈشبوؤں اور ڈکٹور یہ میموریل کی جھیل میں کھلے ہوئے بارش میں بھیگتے کنول کے پھولوں اور اداں آنکھوں والی دیوداسیوں نے ایک بار پھر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے ایک روز بڑی بہن سے کچھ پیسے لیے اور ہاؤزہ میل میں بیٹھ کر کلکتے کی طرف روانہ ہو گیا۔

کلکتے کے ریل کے سفر کا اپنا ایک کلچر تھا، اس کی اپنی خوشبوئیں تھیں۔ یہ کلچر اور خوشبوئیں پنجاب سے نکلتے ہی اور سہارن پور کے آتے ہی شروع ہو جاتی تھیں۔ سہارن پور کے گنے بڑے مشہور تھے۔ بہت بڑا شہر تھا، ٹرین اسٹیشن بھی بہت بڑا تھا۔ کئی پلیٹ فارم تھے۔ سہارن پور کے بعض علماء ہر سال امرتسر میں ہمارے محلے کی مسجد جان محمد میں معراج ٹریفک کے مبارک موقع پر وعظ کرنے آیا کرتے تھے۔ ان کا وعظ سننے کیلئے شہر کے کونے کونے سے لوگ مسجد میں آیا کرتے اور مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ سہارن پور کے بعد مراد آباد کا شہر آتا ہے جہاں کے ہسپتال کے برتن اور جگر مراد آبادی بہت مشہور تھے۔ اس کے بعد اہم شہر بریلی آتا ہے۔ بریلی کے بعد شاہجہاں پور اور پھر ہندوستان میں اسلامی تہذیب و ثقافت کا علمبردار لکھنؤ شہر آتا ہے۔ لکھنؤ کا اسٹیشن بہت ہی خوبصورت اور

ملتا تھا۔ سینما کے گیٹ کیپر حنیف خان کے سوائے اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ گھر والوں کو اگر اسے کوئی خاص پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو حنیف خان کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا۔ وہ کسی ٹیلی فون بھی نہیں سنتا تھا۔ حنیف خان سنتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ ”استاد جی، کوہ نور ٹیکسٹائل کے ڈیزائن پرسوں بھجوانے ہیں۔“

ان تھک محنتی تھا۔ جبو جہاز سائز کے سینما کے بورڈوں پر چان پر چڑھ کر سارا دن اور کبھی کبھار رات رات بھر رنگ بھرتا رہتا تھا ہاتھ بڑا صاف تھا۔ اس کے بو مری اور راولپنڈی میں بڑے مشہور ہوتے تھے۔ شادی اس نے نہیں کی تھی۔ کسی لڑکی۔ کبھی عشق بھی نہیں کیا تھا۔ دن کے وقت کوہ مری کی مال روڈ پر کبھی نہیں نکلتا تھا۔ رات بارہ بجے کے بعد جب کوہ مری کی سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ تھ صاحب کو اکثر مال روڈ پر یا گرجا گھر والی سڑک پر سگریٹ سلگائے ٹھلٹے دیکھا گیا۔۔

عجب مانوس اجنبی تھا
میں جب بھی بسنی، کلکتہ رنگون یا کولہو کی آوارہ گردیوں سے واپس امرتسر آجھے لے کر کمپنی باغ میں آ جاتا ہم کسی گراؤنڈ میں بیٹھ جاتے اور وہ مجھ سے جنوب مشرقی بارشوں، جنگلوں اور بارشوں میں بھیگتے خاموش ریلوے سٹیشنوں اور سمندروں کی باتیں کرتا مگر اس نے خود ان علاقوں کی آوارہ گردی کرنے کے شوق کا کبھی اظہار نہیں کیا مجھ میں تو کئی عیب ہیں، خود غرضی بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بول لیتا ہوں مگر مقصود میں بہت بڑی خوبی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ کسی سے ڈرتا بھی نہیں تھا۔ بات منہ پر آتھا۔ اپنے کام کا ماہر تھا۔ بے حد قناعت پسند تھا۔ روپے پیسے سے اسے کبھی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی۔ جو کوئی ضرورت مند آ کر جتنے پیسے مانگتا اس کو جیب سے نکال کر دے دیتا، بوٹہ اس نے کبھی نہیں رکھا تھا۔ نوٹ کاغذوں کی طرح اس کی جیب میں ٹھونسنے ہوتے تھے۔ ایک نوٹ باہر نکالتا تھا تو دو نیچے گر پڑتے تھے۔ تین وقت کا کھانا ہونا کھاتا تھا، جو تھوڑا بہت لین دین کا حساب ہوتا تھا وہ تنخواہ ملنے پر اس کا شاگرد حنیف خود ہی کرتا تھا۔ مقصود اسے جہ سات سو روپے دے دیتا تھا اور وہ ہونٹ اور سگریٹ

شاید یہ بنگال کا جادو تھا جو مجھے بار بار کھینچ کر کلکتے کی طرف لے جاتا تھا۔ میں رونے پر یقین نہیں رکھتا اور یہ میرے ایمان کے خلاف بھی ہے لیکن میں نے جو گیوں مادھوں کو حیرت انگیز شعبہ بازیوں کرتے ضرور دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ دو ایک ایسی ہیں جو بھی دیکھا تھا جو اپنے گناہوں کی پاداش میں مادی دنیا میں ہی بھٹکتی پھر رہی تھیں۔ ان میں ایسی بدروہیں بھی تھیں جن پر ان کی مادی فطرت ابھی تک غالب تھی اور جو ان کو تنگ کرتی تھیں اور ایسی بدروہیں بھی تھیں جو انسانوں کی مدد کرتی تھیں اور یوں ہمیں کیے گئے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نانا کی بدروح بھی تھی جو مجھے اپنے مرے ہوئے دادا کے ساتھ گنج باسودہ جاتے ہوئے نانا میں ملی تھی۔ اس نے دو ایک بار مشکل وقت میں میری مدد کی تھی۔ ترشنا کی بدروح نانا کی بدروح تھی۔ شروع میں جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بھٹکتی ہوئی بدروح ہے تو مجھے اسے محبت بھی ہو گئی تھی۔ لیکن جب اس کی اصلیت ظاہر ہوئی تو محبت کی بجائے مجھے اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے آخری بار مجھ سے جدا ہوتے وقت کہا تھا۔

”اگر تمہیں کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو تو تمہارے شہر امرتسر میں ایک باندر ہے۔ اس کے پیچھے ایک شمشان گھاٹ ہے جہاں ہندو اپنے مردے جلاتے ہیں۔ رات کے وقت جب ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہو گھاٹ کے چبوترے پر جا کر بیٹھا۔ میرا تصور کر کے مجھے تین بار آہستہ سے آواز دینا میں تمہارے پاس آ جاؤں

صاف ستھرا تھا۔ لکھنؤ کے بعد بنارس کا شہر آتا ہے۔ یہاں دریائے گنگا کے کنارے عالمگیری مسجد کے مینار دور سے نظر آ جاتے تھے۔ اس کے بعد ٹرین صوبہ بہار میں داخل ہو جاتی تھی اور بہار کا مشہور تاریخی شہر گیا آتا ہے جہاں ایک درخت کے نیچے ایک روایت کے مطابق مہاتما گوتم بدھ کو گیان حاصل ہوا تھا۔ اس زمانے میں یہ ایک چھوٹا شیشن تھا اور اس کے صرف دو پلیٹ فارم تھے ایک ٹرین کی ایک طرف دوسرا دوسری طرف۔ اس کے بعد اسٹیبل کے شیشن سے بنگال شروع ہو جاتا تھا۔ اس طویل سفر کے دوران زبان بدل جاتی تھی لباس اور کپڑے تبدیل ہو جاتا تھا۔

اس بار میں کسی فلم کہنی کی ایکٹریس یا ایکٹرس سے ملنے نہیں جا رہا تھا۔ صرف بنگال کی بارشیں، شام کے وقت دریائے گنگا کی طرف سے آتی ٹھنڈی ہوا اور موہیے کے سفید گجرے اور اداس آنکھوں والی دیوداسیوں کا طلسم مجھے کھینچ کر لئے جا رہا تھا۔



رہنے کے زمانے میں ہمارے محلے کے ہال بازار میں گراموفون ریکارڈوں کی ایک دکان
 لگتی تھی۔ لمبی دکان تھی۔ دکان میں ٹھنڈا ٹھنڈا اندھیرا سا رہتا تھا۔ میں ایم اے او ہائی
 کول جاتے ہوئے اس دکان کے قریب سے گزرتا تو اندر گراموفون پر کوئی نہ کوئی ریکارڈ لگا
 ہوا۔ کبھی سپرنگ کی، کبھی کلا مچھریا کی، کبھی کالونوال، کبھی بھائی چھیلا پٹیلے والا اور کبھی
 ان دیوی، اوما دیوی اور پنکج ملک کے گانے کی آواز آتی۔ اگر کوئی میری پسند کا گانا ہوتا تو
 ہال دکان کے باہر رک جاتا اور سارا گانا سن کر سکول جاتا۔ جس زمانے میں میں تیسری یا
 فی مرتبہ کلکتے بھاگ کر گیا، اس دکان میں مکتی فلم کے ریکارڈ اکثر بجا کرتے تھے۔ اس فلم کا
 گانا مجھے بہت پسند تھا۔ یہ گانا پنکج ملک نے گایا تھا۔ اور بڑا ہو کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ گانا
 مودی صاحب نے لکھا تھا۔ اس گانے کا مکھڑا تھا۔

کون دیس ہے جانا بابو
 کون دیس ہے جانا
 کھڑے کھڑے کیا سوچ رہا ہے
 ہوا کہاں سے آنا بابو
 کون دیس ہے جانا

بعد میں جب میری ایڈوانس آوارہ گردیوں کا زمانہ شروع ہوا تو ایک بار میں
 لاکے بال کیشر گارڈن میں اپنے دوست ظہور الحسن ڈار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمارے
 لہجے اسی زمانے کا ایک مشہور فلمی شاعر بھی بیٹھا تھا۔ اس کے لہجے بال تھے۔ تھوڑی
 لمبی دیر بعد وہ بالوں کو اس طرح سر ہلا کر جھٹک دیتا تھا جیسے اس کے بالوں میں
 ٹیٹل چڑھ گئی ہوں۔ اس فلمی شاعر نے بتایا کہ آرزو لکھنوی صاحب کلکتے پھوڑ کر بمبئی آ
 ئیں اور آج کل سہراب مودی صاحب کی فلم ”پتھروں کا سوداگر“ کے گانے لکھ رہے
 ہیں۔ عمر میں ان دونوں سے چھوٹا تھا۔ آرزو صاحب کا نام سن کر میں ان سے ملنے کو
 تاب ہو گیا۔ میں نے کہا۔

”ابھی ان سے چل کر ملتے ہیں۔“

گی۔“

لیکن جب میں امرتسر میں تھا تو خواہش کے باوجود میں نے کبھی شمشان گھاٹ
 کا رخ نہیں کیا تھا۔ صرف اس خیال سے کہ خواہ مخواہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔
 جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس بار میں کلکتے کی فلم ایکسٹریس یا فلم ایک
 سے ملنے نہیں جا رہا تھا بلکہ بنگال کی موسلا دھار بارشیں وہاں کے جنگل باغ اور موہیے
 گجروں اور اداس آنکھوں والی دیوداسیوں کی کشش مجھے لیے جا رہی تھی۔ آپ اسی کشش
 کو بنگال کا جادو بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں انڈیا کے تمام صوبوں میں پھرا ہوں۔ ہر صوبے
 لوگوں کو قریب سے دیکھا ہے۔ عجیب بات ہے کہ صوبہ بنگال کے مرد شروع ہی سے اٹلا
 اور دہشت گرد مشہور ہیں جبکہ ان کی عورتیں عام طور پر کم گو خدمت گزار فرمانبردار اور
 کی مصیبت اور زیادتی کو برداشت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان کی چال میں بھی بھارت
 دوسرے صوبوں خاص طور پر تامل ناڈو کی عورتوں کی طرح تیزی اور طراری نہیں ہوتی
 بنگال کی عورتیں بڑی اچھی بہنیں، بڑی اچھی بیویاں اور بڑی اچھی مائیں مشہور ہیں۔ ان
 لیے وہاں ساس بہو کے جھگڑے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ درد مندی، ایثار اور انداز
 اندر غم کھاتے رہنے کا جذبہ ان کے میوزک میں بھی ہے۔ ان کی موسیقی کی بنیاد ہی
 بھرے سروں پر ہے۔ یہاں تک کہ ان کے خوشیوں کے گیتوں میں بھی درد و سوز کی ایک
 ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ بنگال کے مزاج کی یہی آب و ہوا تھی جس نے لڑکپن ہی میں مجھ
 بڑا گہرا اثر ڈالا اور میں بار بار کلکتے کی طرف دوڑتا تھا۔

اس بار بھی میں کلکتے پہنچ کر سیدھا اپنے امرتسری دوست جان محمد کے قلیٹ ہا
 گیا۔ وہ کلکتے میں ہی تھا، یہ میں نے امرتسر میں معلوم کر لیا تھا۔ مجھے دیکھ کر جان نے کسی
 کے تعجب کا اظہار نہ کیا۔ وہ میری آوارہ گردیوں سے بخوبی آشنا تھا۔ کہنے لگا۔

”تم بڑے صحیح وقت پر آئے ہو۔ میٹرو سینما میں اسی ہفتے نیو تھیٹر کی فلم ”کئی“

لگی ہے۔ آج اس کا چھ بجے والا شو دیکھیں گے۔“

”کئی“ فلم ابھی امرتسر میں نہیں لگی تھی مگر اس کے گانے میں نے سنے تھے۔ سلم

ی خواب معلوم ہوتا ہے لیکن یہ فلم ایسی تھی جیسے میں نے خواب کے اندر کوئی خواب دیکھا ہو۔ ہم دونوں دوست خوب تیار ہو کر فلم دیکھنے چل دیے۔ سینما ہاؤس کے باہر کافی رش تھا۔ نکلنے کی بلیک بھی ہو رہی تھی۔ سینما ہاؤس کا ایک گیٹ کپہر جان محمد کا وقف تھا۔ اس نے ہمیں سینکڑے کلاس کے دو ٹکٹ لاکر دیے اور ہم سینما ہاؤس میں جا کر بیٹھ گئے۔ ہال کی بنیاں روشن تھیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ کھانے پینے کی چیزیں اور سگریٹ بیچنے والے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان پھنس کر چلتے ہوئے سودا بیچ رہے تھے۔ ہال میں اتر کڈیشنڈ کی ٹھنڈی خوشبو کے ساتھ ساتھ سگریٹ بیڑی اور پان کے قواموں کی مختلف خوشبوئیں اس زمانے کے سینما ہالوں کا لازمی جزو تھے۔ جس طرح ہسپتالوں میں ڈیٹول اور مختلف دوائیوں کی خوشبوئیں پھیلی رہتی ہیں اور یہی خوشبوئیں ہسپتال کی پہچان ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس زمانے کے سینما ہالوں میں پان، سگریٹ کی خوشبوئیں پھیلی ہوتی تھیں اور یہی سینما ہالوں کی پہچان ہوتی تھیں۔ یہی سینما ہالوں کی اصل روح ہوتی تھی۔ جب سے سینما ہالوں میں سگریٹ پینامع کر دیا گیا ہے۔ سینما گھروں کی اصل روح غائب ہو گئی ہے۔ عصر حاضر نے انسان کے ساتھ یہی کیا ہے کہ اس کی روح غائب کر دی ہے۔ یہاں مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ میں یہ شعر آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

عشق کی تیغ جگر دار اڑا لی کس نے
علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی

رات کے نونچ رہے تھے جب ہم فلم دیکھ کر واپس آئے۔ سراج بلڈنگ کے بیچے ایک ہوٹل تھا۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا۔ جان پوچھنے لگا۔
”اس دفعہ تم کس مار پر کلکتے آئے ہو۔“

میں نے کہا۔ ”صرف بنگال کی سیر کرنے۔“

جان ہنس پڑا۔ کہنے لگا۔

”یار لگتا ہے تم پر بھی بنگال کے جادو کا اثر ہو گیا ہے۔“

چنانچہ ہم اسی وقت آرزو لکھنوی صاحب سے ملنے چل پڑے تھے اور ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ کافی بوڑھے ہو رہے تھے۔ بمبئی کے گنجان محلے کے ایک درمیانے درجے کے فلیٹ میں فرش پر تیلیوں کی چٹائی بچھائے بیٹھے تھے۔ اردگرد بید کی آرام کرسیاں بھی لگی تھیں۔ آرزو صاحب ایک پیالی چمچ سے دلیا کھا رہے تھے۔ یہ میری خوش نصیبی تھی کہ مجھے آرزو صاحب سے ملاقات کا اعزاز حاصل ہوا۔ پھویشن پر گیت لکھنے کی بات چلی تو انہوں نے ایک خاص پھویشن کا ذکر کرتے ہوئے ”ڈاکٹر“ فلم کیلئے لکھا ہوا اپنا ایک گیت بھی سنایا۔ جو فلم کی ہیروئن اپنے کم سن بھائی کے ساتھ مل کر ایک باغ میں گاتی ہے۔

یہ تہلی یہ تہلی یہ رنگیلی تہلی

آرزو صاحب نے اسی گیت میں تہلی کو اڑتے ہوئے پھول سے تشبیہ دی تھی جو مجھے اس زمانے میں بھی بے حد اچھی لگی تھی۔

جب آرزو صاحب کلکتے میں تھے تو میں کوشش کے باوجود ان سے ملاقات کا شرف حاصل نہ کر سکا تھا اور اس دفعہ تو میں کلکتے صرف اس کی بارشوں اور موسیے کے گرد والی دیوداسیوں سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے آیا تھا۔ اب میں واپس وہاں آتا ہوں جہاں سے میں نے یہ بات شروع کی تھی۔ جان کی زبانی جب مجھے معلوم ہوا کہ ”مکتی“ فلم میٹرو یا شاید پیراڈائر سینما میں چل رہی ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے جان سے کہا۔
”بس یہ ٹھیک ہے۔ ہم آج ہی چھ بجے والا شو دیکھیں گے۔“

”مکتی“ فلم ڈائریکٹر پی سی بروا نے بنائی تھی۔ اس میں جمننا ہیروئن تھی اور ننگ ملک کے علاوہ پی سی بروا یعنی فلم کے ڈائریکٹر نے بھی بطور ہیرو کام کیا تھا۔ چھوٹے نڈکا دہلا پتلا فلسفی ٹائپ کا آدمی تھا۔ آنکھوں میں ہر وقت کسی نظر نہ آنے والے کو دیکھنے کی تلاش کا تجسس رہتا تھا۔ پوری کہانی مجھے یاد نہیں۔ اتنا یاد ہے کہ فلم کا ہیرو اپنی محبت میں ناکام ہونے کے بعد شہر چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل جاتا ہے وہاں ایک ہاتھی سے اس کا دوستی ہو جاتی ہے۔ عجیب خواب کے ماحول ایسی فلم تھی۔ ویسے تو بچپن کا گزرا ہوا سا زمانہ

تھے کہ اگر مجھے کاروبار میں منافع ہوا تو میں ایک اچھوت کنیا کو دیوی جی کی بھینٹ چڑھاؤں گا۔ کئی لوگ کسی تیم اور لاوارث اچھوت لڑکی کو اپنے جال میں پھنسا کر مندر لے آتے تھے اور بڑے پجاری کی مدد سے اسے لکشمی دیوی پر قربان کرنے کے بعد دیوی کی مورتی کے آگے ہاتھ باندھ کر پکارتے کہ اے دیوی! میں نے تیری خوشی کی خاطر ایک اچھوت لڑکی تمہارے بھینٹ چڑھا دی ہے اب مجھے دولت سے مالا ملا کر دے۔ بعد میں اگر بڑوں نے اس رسم کو سختی سے کچل دیا۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اب بھی چوری چھپے کبھی کبھی دیوی کی خوشنودی کی خاطر یا دولت حاصل کرنے کیلئے کسی بے سہارا اچھوت لڑکی کو دیوی کے بھینٹ چڑھایا جاتا ہے۔“

میں نے کہا۔ ”یہ تو بڑا ظلم ہے کیا اچھوت اس کے خلاف احتجاج نہیں کرتے؟“
جان بولا۔ ”کرتے ہیں لیکن معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور پھر بھینٹ چڑھانے والے پیچھے ذرا بھی ثبوت نہیں چھوڑتے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ لڑکی گم ہو گئی ہے یا اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اچھوتوں کو کون پوچھتا ہے۔ ایک دو اخباروں میں خبر چھپتی ہے اور پھر لوگ بھول جاتے ہیں۔“
میں نے جان سے پوچھا۔

”کیا تم نے کبھی کسی لڑکی کو دیوی کے بھینٹ چڑھتے دیکھا ہے؟“

جان نے کہا۔ ”کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ کولوٹولا والے اس مہا لکشمی کے مندر میں کسی مسلمان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور جس رات کسی لڑکی کو قربان کیا جاتا ہے اس رات تو کسی غیر مسلم کو بھی دیوی کے پوجا پاٹھ والے کمرے کی جانب جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہ سب کچھ مندر کے پجاری سے مل کر کیا جاتا ہے۔“ میں نے جان سے کہا۔
”جان! میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے۔ تمہاری مندروں سے بڑی کاروباری دوستی ہے۔ تم ایک مدت سے یہاں رہ رہے ہو۔ اس کا کھوج لگاؤ کہ کب کوئی لڑکی دیوی کی بھینٹ چڑھائی جا رہی ہے۔“
جان کہنے لگا۔ ”ارے برسوں بعد کبھی ایسا ہوتا ہے۔ میرا ایک ہندو دوست ہے

جان رات کو تخت پوش پر سوتا تھا۔ تخت پوش کے قریب ہی ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کا ایک صوفہ پڑا تھا میں اس پر سوتا تھا۔ سونے سے پہلے جان نے تخت پوش کا طبلہ بجاتے ہوئے مجھے مکتی فلم کا گانا کون دیس ہے جانا با بوسنا یا۔ اس کے بعد ہم سو گئے۔ مجھے بچپن ہی سے صبح صبح اٹھنے کی عادت تھی میں بلا ناغہ کپہنی باغ اور کبھی چالیس کھوہ سیر کرنے جاتا تھا۔ میں صبح اٹھ کر نیچے لوڑ چت پور روڈ پر آ گیا۔ ابھی ٹرام میں چلنی شروع نہیں ہوئی تھیں سڑک خالی پڑی تھی۔ سیر کرتے کرتے میں زکریا سٹریٹ سے بھی آگے نکل آیا۔ یہ بنگالی ہندوؤں کا محلہ تھا۔ رہائشی فلیٹوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی اور کسی کسی فلیٹ میں سے کسی مرد یا عورت کے ہار مونیم پر بنگلہ بھجن گانے کی آواز آ رہی تھی۔

میں مون لائٹ سینما کے عقب سے ہوتے ہوئے ایک بازار میں آ گیا جہاں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکشمی دیوی کے دو مندر تھے۔ ان مندروں میں روشنیاں ہو رہی تھیں۔ جھنڈیاں لگی تھیں۔ مندروں کے دروازے پر گیندے اور موہیے کے پھولوں کے ہار لٹک رہے تھے۔ عورتیں مرد لکشمی دیوی کی پوجا کیلئے مندروں کی طرف جا رہی تھیں۔ میں ڈاہوڑی سکوار کا چکر لگا کر سراج بلڈنگ میں واپس آ گیا۔ جان سلولائڈ کی شیٹوں کو ترتیب سے ایک طرف لگا رہا تھا۔

مجھے دیکھ کر بولا۔

”چلو ناشتہ کر آتے ہیں۔“

ہم نیچے ہوٹل میں آ کر ناشتہ کرنے لگے۔ جان نے بتایا کہ کلکتے میں یہ لکشمی پوجا کے دن ہیں اور اسی تہوار پر لکشمی دیوی کے مندروں میں چار دن تک بڑی رونق رہتی ہے۔ ہندو دیو مالا میں لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے۔ ہندو لوگ دولت کے حصول کیلئے لکشمی دیوی کی پوجا کرتے ہیں۔ جان کہنے لگا۔

”کولوٹولا سٹریٹ میں لکشمی دیوی کا بڑا مندر ہے۔“

”اسی مندر میں کسی زمانے میں اچھوت لڑکیوں کو لکشمی دیوی کی بھینٹ چڑھایا

www.iqbalkalmati.blogspot.com


وہ اپنے محلے کے مندر کے پجاری کا بیٹا ہے، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ یہ لکشمی پوجا کے تہوار کے دن ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کسی اچھوت لڑکی کو دیوی کے بھینٹ چڑھایا جا رہا ہو۔ اس قسم کی وارداتیں اس تہوار کے موقع پر ہی ہوتی ہیں۔ میں آج ہی پجاری کے بیٹے سے بات کرتا ہوں۔“

میں نے محض اپنے تجسس کی تسکین کی خاطر جان سے کہہ دیا تھا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس قسم کی وارداتیں انتہائی خفیہ طریقے سے ہوتی ہیں اور جہاں ہوتی ہیں وہاں کسی باہر کے آدمی کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جان رات کو اپنے ہندو دوست سے ملنے چلا گیا۔ دو ڈھائی گھنٹے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا۔ ”کمال ہے یار! تم نے ایسے موقع پر بات کی ہے کہ اس تہوار پر واقعی ایک لڑکی کی قربانی دی جا رہی ہے۔“

میں نے جلدی سے پوچھا۔

”کہاں؟ کب؟ کیا یہ قربانی بڑے مندر میں دی جا رہی ہے؟“

جان بولا۔ ”بتاتا ہوں، بتاتا ہوں۔ ذرا مجھے ایک بیڑی تو سگالینے دو۔“



جان نے جیب سے پان بیڑی کا بٹل نکال کر ایک بیڑی سلگائی اور بولا۔ ”یہ جو میرا بنگالی لڑکا دوست ہے اس کا نام ست پال ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا یہ پنے محلے کے لکشمی مندر کے پجاری کا بیٹا ہے اور باپ کے ساتھ مندر میں ہی پوجا پٹھ کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے۔ جب میں نے اس سے بات کی تو وہ حیران سا ہو کر میرا منہ رکھنے لگا۔ بولا، تمہیں یہ خیال کیسے آ گیا؟ میں نے اسے تمہارا بتایا کہ میرا دوست امرتسر سے آیا ہے اس کو قربانی کی رسم دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ ست پال بولا۔ ”عجیب بات ہے کہ تم نے ایسے وقت میں بھینٹ پوجا کا پوچھا ہے جب واقعی ایک لڑکی کو لکشمی ماتا کی بھینٹ چڑھانے کیلئے جنگل میں پہنچا دیا گیا ہے۔“

میں نے جان سے پوچھا۔ ”اسے جنگل میں کس لیے پہنچایا گیا ہے؟“ تب جان نے بتایا کہ چونکہ اس قسم کی قربانی دینا ملک کے قانون کے خلاف ہے اور انگریزوں نے اس کی سزا پھانسی رکھی ہے اس لیے جب بھی کوئی دولت مند سیٹھ بھاری رشوت دے کر لکشمی مندر کے کسی پجاری کو اس کام پر راضی کر لیتا ہے تو یہ مذموم رسم بڑے خفیہ طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ جان نے کہا۔

”ست پال نے بتایا ہے کہ اس بار یہ قربانی یہاں سے ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر ایک جنگل میں واقع لکشمی دیوی کے ایک گناہ سے مندر میں دی جائے گی سینٹھ کے آدمیوں نے ایک اچھوت لڑکی کو اغوا کر کے جنگل والے مندر میں پجاری کے پاس پہنچا دیا ہے جس نے اسے مندر کے قریب ہی ایک ٹیلے کے غار میں چھپا دیا ہے۔ چار دن تک

قربان کیا جا رہا ہے وہ اس تالاب کے ساتھ ہی ہے۔ مگر بہت چوکس اور ہوشیار ہو کر وہاں جانا ہوگا۔ تم سے ذرا سی بھی بھول چوک ہوئی تو زندہ واپس نہ آسکو گے۔ میں تو تمہیں اب بھی یہی کہوں گا کہ اس خیال کو دل سے نکال دو۔“

میں نے جواب دیا۔ ”میں پوری احتیاط سے کام لوں گا۔ تم فکر نہ کرو۔ تم نے کہا تھا کہ قربان کی جانے والی اچھوت لڑکی کو اغوا کر کے وہاں پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ یہ لڑکی وہاں کس جگہ پر چھپا کر رکھی گئی ہوگی؟“

جان بولا۔ ”یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس کا کھوج تمہیں وہاں پہنچ کر خود ہی لگانا ہوگا۔“

میں چپ ہو گیا۔ جان نے مجھے خاموش دیکھ کر کہا۔

”امرتسریوں والی اندھا دھند دلیری کا کام نہ کرو۔ کہیں مارے نہ جانا۔“

میں نے کہا۔ ”میں تو اسے ایک ایڈونچر سمجھ کر کر رہا ہوں باقی اللہ مالک ہے۔ تم گرنہ کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ہزاری باغ جانے والی ٹرین کلکتے سے کس وقت روانہ ہوتی ہے۔“

جان بولا۔ ”ہزاری باغ کا شہر بنارس جبل پور روٹ پر ہے۔ اس طرف گاڑیاں ہائی ہی رہتی ہیں۔ ویسے ایک گاڑی صبح چھ بج کر پندرہ منٹ پر جاتی ہے۔ یہ گاڑی تمہارے لیے ٹھیک رہے گی تم دن کے وقت ہی کنڈرگام پہنچ جاؤ گے۔“

گھر سے میں تھوڑے بہت پیسے لے کر اپنی آوارہ گردیوں کے ایڈونچر پر نکلتا تھا کئی میں یہ پیسے والد صاحب کی صدی کی جیب سے اڑا لیا کرتا تھا اور کبھی اپنی بڑی بیٹی کے آگے مختلف بہانے بنا کر حاصل کر لیتا تھا۔ اس بار بھی میرے پاس پچاس پچپن کے قریب روپے تھے۔ اس زمانے میں یہ رقم کافی ہوتی تھی۔

میرا خیال ہے کہ صرف بارہ تیرہ روپے تو امرتسر سے کلکتے کا کرایہ ہی تھا۔ میں نے یہ پیسے جان کے پاس رکھوا دیے تھے۔ عجیب بات ہے میں نے کلکتے کی طرف کبھی بغیر ٹکٹ کے ریل میں سفر نہیں کیا تھا۔ میں نے جان سے پندرہ بیس روپے لے کر رکھ لیے اور

وہاں اس لڑکی کی کڑی نگرانی میں آؤ بھگت ہوگی۔ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلائے جائیں گے۔ صبح شام اسے اشان کرایا جائے گا اور پانچویں روز آدھی رات کو اسے لکشمی دیوی کے اس استھان کے آگے زبردستی لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔“

میں نے کہا۔ ”کیا تم مجھے اس جنگل والے مندر تک پہنچا سکتے ہو؟“

جان نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا۔

”تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو موت کے منہ میں جانے کی تیاری کر رہے ہو۔ ست پال نے مجھے کہا ہے کہ اپنے دوست کو ہرگز ہرگز وہاں مت جانے دینا۔ اگر مندر کے آدمیوں میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو وہ کسی صورت میں بھی تمہارے دوست کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بھلا وہ لوگ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ قتل کی اس واردات کا کوئی معنی گواہ بنے۔ اس خیال کو دل سے نکال دو۔“

مگر میں اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ انسانی قربانی کا یہ خوفناک منظر اگر دیکھ سکا تو ضرور دیکھ کر رہوں گا۔ میں نے جان کو صاف صاف بتا دیا کہ میں جنگل والے مندر میں کسی جگہ چھپ کر انسانی قربانی کا یہ منظر ضرور دیکھوں گا چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔

”تم بے شک میرے ساتھ نہ جانا مجھے یہ بتا دو کہ یہ جنگل کہاں پر ہے اور لکشمی کا مندر اس جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے۔“

جان کو یہ سب کچھ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اس نے بے وقوفی سے کام لینے ہوئے مجھے بتا دیا۔ کہنے لگا۔

”کلکتے سے ہزاری باغ کی طرف جاتے ہوئے راتے میں کنڈرگام کا ایک ریلوے سٹیشن آتا ہے۔ یہ کلکتے سے ڈیڑھ سو میل کے فاصلے پر ہے۔ کنڈرگام اتر کر تمہیں شمال کی طرف جانا ہوگا آگے ایک بڑی ندی آجائے گی۔ اسی ندی کے پار ایک گھٹا جنگل شروع ہوتا ہے جو سنڈربن کی ایک شاخ ہے۔ اسی جنگل میں رام ناتھ نام کا ایک تالاب ہے۔“

یہ تالاب رام پھمن کے زمانے کا بتایا جاتا ہے۔ جس لکشمی مندر میں اچھوت لڑکی

یہ منظر اکثر دیکھنے میں آتا تھا کہ ٹرین ریلوے ٹریک پر سے گزر رہی ہے اور نیچے
بہنوں میں کالے کالے ننھے بنگالی لڑکے ٹرین کے متوازی بھاگتے جا رہے ہیں۔ جنگلوں
ہاؤریاڑ سال اور مہاگنی کے دیو قامت درختوں کی بھرمار ہوتی ہے۔ دیہات میں جگہ جگہ
بل اہلی اور نیم کے درختوں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں تاڑ کے درخت اپنی
نروں کے ساتھ سب سے الگ کھڑے ہوتے ہیں۔

تاڑ کے درختوں کے جھنڈ نہیں ہوتے۔ یہ ستون کی طرح بالکل سیدھے اور
نچے ہوتے ہیں۔ ان کے تنے پر کوئی شاخ نہیں ہوتی۔ اوپر جا کر لمبوترے پتوں کی
نزی سی بنی ہوتی ہے۔ ناریل کے بعض درخت جھکے ہوئے اور ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں مگر
کے درخت بالکل سیدھے اوپر تک گئے ہوتے ہیں۔

ناریل کے درختوں پر تو ناریل لگتے ہیں لیکن تاڑ کے درختوں پر کوئی پھل نہیں
۔ جنگلی اور دیہاتی لوگ درخت کے اوپر چڑھ کر اس کی ایک موٹی شاخ کو کاٹ کر اس
، آگے مٹی کا ایک کورا باندھ دیتے ہیں۔ کٹی ہوئی شاخ میں سے ساری رات سفید رنگ
ٹپٹی تاڑی قطرہ قطرہ ٹپتی رہتی ہے۔ صبح تک کورا کافی بھر جاتا ہے۔ صبح اسے اتار لیا
ا ہے اور لوگ اسے بڑے شوق سے پیتے ہیں۔ یہ جگر کیلئے بڑی مفید ہوتی ہے۔ اس
تک اس تاڑی میں ذرا سا بھی نشہ نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ تاڑی ہمیشہ سورج
سے پہلے درخت سے اتار کر پینی چاہیے۔

سورج نکلنے کے بعد دھوپ اور گرمی کی وجہ سے اس میں نشہ پیدا ہونا شروع ہو
ا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا کے شہروں کے غریب مزدوروں کے محلوں میں جو تاڑی بطور
ب بکتی ہے وہ تاڑ کے درخت کی چھال سے کشید کی جاتی ہے اور نہایت گھٹیا قسم کی
ب ہوتی ہے۔ ان شہروں میں تاڑی خانوں کے آگے سڑک کے کنارے ہاتھ سے رکشا
نے والے فیکٹریوں اور زیر تعمیر عمارتوں پر کام کرنے والے مزدور لوگ اور ان کی عورتیں
نے سائے بیٹھ جاتی ہیں۔ مٹی کے آنخوروں میں سے شراب پیتے ہیں۔ پاس ہی زمین پر
پرنگ یا بھنے ہوئے چنے رکھے ہوتے ہیں۔ تاڑی پیتے جاتے ہیں اور ایک دوسرے

دوسرے دن صبح رکتے پر بیٹھ کر کلکتے کے ہاؤزہ سٹیشن کی طرف چل پڑا۔

یہ قیام پاکستان سے چھ سات سال پہلے کا زمانہ تھا۔ برصغیر کی آبادی ابھی اتنی
نہیں بڑھی تھی۔ ریلوے سٹیشنوں پر ٹرین کے آنے جانے کے وقت مسافروں کا رش ضرور
ہوتا تھا مگر آج کے زمانے والا حال نہیں تھا۔ بڑا نارمل سارٹ ہوتا تھا۔ ٹرین کے جانے کے
بعد پلیٹ فارم خالی خالی سے ہو جاتے تھے۔ انگریزی حکومت کے قاعدے اصول بڑے
سخت تھے۔

ٹرینیں عام طور پر وقت پر چلتی تھیں۔ جس ٹرین میں بیٹھ کر مجھے کندر گام جانا تھا
وہ بھی ٹھیک ٹائم پر روانہ ہوئی۔ کونکے کے انجن والی گاڑیاں چلتی تھیں۔ انجنوں میں سے
خوب دھواں اور بھاپ نکلتی تھی۔ کلکتے سے پشاور تک چلنے والی ہاؤزہ ایکسپریس کی رفتار تو
بڑی تیز ہوتی تھی۔ جہاں سے شور مچاتی دھواں اڑاتی گزرتی تھی وہاں کی زمین ہل جاتی
تھی۔ جس ٹرین پر میں سوار ہوا تھا وہ ہاؤزہ ایکسپریس نہیں تھی اور صرف دلی تک جاری
تھی۔

میرا سفر ڈیڑھ سو میل کا تھا۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ مون سون کا سیزن گزر چکا تھا۔
پھر کبھی ہفتہ دس دن میں ایک بار موسلا دھار بارشیں ہو جاتی تھیں۔ جن اصحاب نے بنگال
سفر کیا ہے انہیں معلوم ہو گا کہ بنگال کا سارا علاقہ ندی نالوں تالابوں اور چھوٹے بڑے
جنگلات سے بھرا پڑا ہے۔

مغربی بنگال کا سندربن کا جنگل تو شیروں ہاتھیوں اور دوسرے درندوں اور دشتار
گزار جنگلوں کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہے۔ ان علاقوں میں تقریباً سارا سال
بارشیں ہوتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے جنگل بن گئے ہیں۔ سبزے کو جب اور
کہیں جگہ نہیں ملتی تو مکانوں کی دیوار پر چڑھ جاتا ہے۔ کلکتے میں برسات کے موسم میں
بہت جس ہو جاتا ہے لیکن شام کو دریاے ہنگلی کی طرف سے خوشگوار ہوا ضرور چلتی ہے۔

دیہات میں ڈھلوان پھتوں والے جھونپڑا نما بوسیدہ مکان ہوتے تھے۔ ہر
چھوٹے بڑے دیہات کی دونوں جانب تالاب ضرور ہوتا تھا جس میں مچھلیاں پالی جاتی

زبان یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے درمیان جو مکالمے ہوئے میں انہیں سیدھی
ماذمی اردو میں ہی لکھوں گا۔

”باپو! تم کہاں سے آئے ہو؟“

میں نے اسے بتایا کہ میرا نام سانپال ہے میں پنجاب سے اس علاقے کی
ہر سیاحت کرنے آیا ہوں۔ بنگالی کہنے لگا۔

”تمہارے پاس کوئی بندوق وغیرہ ہے؟“

میں نے کہا۔ ”نہیں۔“

وہ بولا۔ ”تو پھر رام ناتھ تالاب والے جنگل کا رخ نہ کرنا ورنہ کوئی شیر تمہیں کھا
ائے گا۔“

دو بنگالی وہاں بیٹھے چائے پی رہے تھے وہ بھی میری طرف دیکھنے لگے۔ انہوں
نے میری طرف دیکھ کر آپس میں بنگلہ زبان میں دو تین جملے کہے اور پھر ہنسنے لگے۔ میں
نے اپنے ساتھ والے بنگالی بوڑھے سے کہا۔

”سنا ہے اس جنگل میں لکشمی دیوی جی کا کوئی پرانا تاریخی مندر بھی ہے جو رام
ن جی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔“

بوڑھا بنگالی بولا۔

”وہ مندر تو ویران ہو چکا اس خطرناک جنگل میں پوجا پانٹھ کرنے کون آئے
“

میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہا۔

”سنا ہے اس مندر میں کبھی اچھوت کنیاؤں کی ملی (قربانی) دی جاتی تھی۔“

بوڑھے بنگالی نے بیڑی پیتے ہوئے کہا۔

”یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ اب کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا“ انگریز کا راج بڑا
تہ ہے۔“

دوسرے بوڑھے نے مجھ سے پوچھا۔

سے اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے جاتے ہیں۔ قریب سے گزرتے ہوئے لگتا ہے کہ
آپس میں لڑ رہے ہیں۔

ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے مجھے صبح تاڑ کے درخت سے اتری ہوئی
تازہ تازہ پینے کا اتفاق ہوا تھا۔ بالکل وہی کی میٹھی لسی کی طرح کا ذائقہ تھا اور اس میں کوئی
نشہ نہیں تھا۔ معذرت چاہتا ہوں۔ جنگلوں بارشوں اور درختوں کا ذکر آتا ہے تو میں اپنے
اصل موضوع سے بھٹک جاتا ہوں۔

اصل میں یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف
آتا ہوں۔ دو ڈھائی گھنٹوں میں میرا سفر کٹ گیا اور گاڑی کندر گام کے چھوٹے سے دیہاتی
ٹائپ کے سٹیشن پر تھوڑی دیر کیلئے رکی تو میں ٹرین سے اتر گیا۔ آسمان پر کہیں کہیں سفید اور
بھورے رنگ کے ککڑے نظر آ رہے تھے۔ دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی۔ کسی وقت بادل کا کوئی
ککڑا سورج کے سامنے آ جاتا تھا تو ہر طرف چھاؤں ہو جاتی تھی۔ سٹیشن کے باہر چائے کا
ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا۔

کچھ دیہاتی ٹائپ کے دبلے پتلے سانولے سے آدی لکڑی کے بیچ پر بیٹھے چائے
پی رہے تھے۔ میں نے بھی چائے کا ایک گلاس لیا اور ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر چائے پینے
لگا۔ میرا اصل مقصد ان لوگوں سے رام ناتھ تالاب والے لکشمی مندر کے بارے میں
معلومات حاصل کرنا تھا۔ یہ دیہاتی بنگلہ زبان بول رہے تھے۔ میں بنگلہ زبان بار بار لکھتے
آنے کی وجہ سے تھوڑی بہت سمجھ تو لیتا تھا مگر بول نہیں سکتا تھا۔ یہاں بنگلہ کے علاوہ ٹوٹی
پھوٹی اردو بھی عام بولی جاتی تھی۔

میں نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بنگالی سے پوچھا کہ ادھر جنگل میں رام ناتھ
تالاب کو کون سا راستہ جاتا ہے حالانکہ مجھے جان نے بتا دیا تھا کہ سٹیشن سے آگے ایک ندی
پار کرو گے تو سامنے جنگل میں کافی آگے جا کر ہے۔ لیکن میں ان دیہاتیوں سے لکشمی مندر
کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنگالی بوڑھے نے اپنی اندر دھنسی ہوئی
آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی عجیب قسم کی اردو زبان میں کہا۔ اس کی اصل

برتر والی چھوٹی نہر کا نالہ یاد آ گیا۔ اس کے ایک کنارے پر بھنگ کی جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ہمارے محلے کا ایک آدمی جو بھنگ کا رسیا تھا ان جھاڑیوں کے پتے توڑ کر تیلے میں ڈال کر لے جایا کرتا تھا۔ وہ ان پتوں کو آگ پر بھونتا۔ پھر ان کو گھوٹ کر اس میں اداہم کی گریاں اور چاروں مغز ڈال کر پھر گھوٹتا۔ آخر میں دودھ ڈال کر اس مشروب کو کپڑے سے چھان کر پیالے میں بھر کر ایک طرف رکھ دیتا۔ اس کے بعد وہ حقہ تازہ کرتا، چلم میں تمباکو بھرتا۔ تمباکو کے نیچے گڑ کی ایک ڈلی بھی رکھتا تھا۔ جب حقہ تیار ہو جاتا تو بھنگ سے بھرا ہوا پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر پنجابی کا یہ شعر پڑھتا جو مجھے آج بھی یاد ہے۔

پو بھنگاں تے سوووں باکیں
پچھلے چیون اپنی بھاگیں

اس کا مطلب ہے کہ بھنگیں پیو اور باغ میں جا کر سو جاؤ، اگلے پچھلوں کی فکر مت کرؤ وہ جائیں اور ان کے بھاگ جائیں۔ بڑا دلچسپ کردار تھا۔ گورنمنٹ ہائی سکول کے باہر گنگنیاں بیجا کرتا تھا۔ حقہ اس نے اپنی چھابڑی کے پاس ہی رکھا ہوتا تھا۔ میں اپنے ہم جوڑیوں کے ساتھ نہر پر نہانے جاتا تھا تو بھنگ کے پتے توڑ کر زور سے ہاتھ پر انہیں ملتا اور سوگھتا۔ ان میں سے بڑی تیز بو آ یا کرتی تھی یہ کچی بھنگ کی بو تھی۔



”تم ادھر کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس طرف تو شکاری بھی آتے ہوئے ڈرتے ہیں اور تمہارے پاس تو کوئی ہندوق بھی نہیں ہے۔“
میں نے کہا۔ ”میں جنگل میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا۔ بس دور سے لکشمی دیوی کے پرانے مندر کے درشن کر کے واپس آ جاؤں گا۔“
پہلا بنگالی بوڑھا بولا۔

”میری مانو تو کندر گام کی سیر کر کے واپس چلے جاؤ۔ یہ جنگل دور ہی سے اچھے لگتے ہیں۔“

مگر میں واپس جانے کیلئے نہیں آیا تھا۔ اس چھوٹے سے ہوٹل میں، میں نے تھوڑے سے چاول بھاجی کے ساتھ کھائے اور ندی کے پل پر سے گزر کر دوسرے کنارے پر آ گیا۔ یہاں تین چار جھونپڑیوں کی دکانیں بنی ہوئی تھیں جن میں آٹا، چاول، دال وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ ایک دکان پر تھاں میں بیٹھے جنوں کا ڈھیر لگا تھا۔

میں نے بڑی عقلمندی کی جو وہاں سے بیٹھے چنے خرید کر اپنی جیکٹ کی دونوں جیبیں بھر لیں۔ اس کے بعد میں جنگل میں داخل ہو گیا۔ یہ جنگل بھی علاقے کے دوسرے جنگلوں کی طرح تھا۔ بے سرو پا گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہر قسم کے درخت کھڑے تھے۔ ان میں بانس کے جھنڈ بھی تھے۔

بانس کے جھنڈوں میں سے گزرنے کا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو بانس کی شاخوں اور تنوں پر بڑے سخت لمبے لمبے کانٹے اگے ہوتے ہیں جو صرف کلہاڑی ہی سے کاٹے جا سکتے ہیں۔ دوسرے زمین میں سے بانس کی باریک باریک سوئیوں ایسی کوئیلیں باہر نکلی ہوتی ہیں جو ریز کے جوتوں کے تلے میں بھی گھس کر پاؤں لہولہان کر دیتی ہیں۔ بانس کے کانٹوں بھرے جھنڈ میں سے شیر بھی گزرنے سے گریز کرتا ہے کیونکہ شیر کے دوسرے اعضا جتنے طاقتور ہوتے ہیں اس کے پیٹ کی کھال اتنی ہی نازک ہوتی ہے۔

ندی میں سے ایک نالہ نکل کر جنگل میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ دس بارہ فٹ چوڑا نالہ تھا۔ جس کے کناروں پر بھنگ کی جھاڑیوں کی طرح کی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ مجھے

سگریٹ پی رہی ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے یہ جذبات ساتھ چھوڑتے جاتے ہیں اور عقل غالب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر خالی عقل ہی عقل رہ جاتی ہے اور جذبات تقریباً غائب ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آخری عمر میں یہ محترمہ عقل صاحبہ بھی رخصت ہو جاتی ہے اور انسان پر وہی بچپن کے جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ چنانچہ بوڑھوں کی اکثر حرکتیں بالکل بچوں جیسی ہوتی ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا چکر ہے جو نامعلوم صدیوں سے چل رہا ہے اور انسان کو اس سے فرار ممکن نہیں۔ فرار ہونے کی ضرورت بھی نہیں یہ جیسا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ندی سے نکلا ہوا نالہ آگے جا کر جنگل میں رام ناتھ کے تالاب کے قریب سے گزرتا ہے۔

میرے لیے یہی ایک شارٹ کٹ یعنی سیدھا اور آسان راستہ تھا۔ نالے کے کنارے کوئی پگڈنڈی نہیں تھی۔ لگتا تھا کہ ادھر سے یا تو دیہاتی لوگ بالکل نہیں گزرتے یا کبھی کبھار ہی گزرتے ہیں۔ نالے کے دائیں بائیں جنگل ہی جنگل تھا جہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جہاں جنگل زیادہ گھٹا ہو جاتا تھا وہاں چھاؤں بڑی گہری ہو جاتی تھی۔ جہاں درخت ڈرا دور دور ہو جاتے تھے وہاں دن کی روشنی نظر آنے لگتی تھی۔ کسی کسی وقت کسی درخت پر سے پرندے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ جس کے بعد جنگل کا سناٹا اور زیادہ ڈراؤنا ہو جاتا تھا۔ مجھے جنگل سے ڈر بھی لگ رہا تھا اور لڑکپن کے منہ زور جذبات مجھے آگے ہی آگے لیے بھی جا رہے تھے۔ ویسے بھی میں انڈیا کے جنگلوں کا عادی ہو گیا تھا۔ صرف سانپ اور شیر چیتے سے ڈر لگتا تھا۔ زیادہ خوف محسوس ہوتا تو میں سیٹی بجانے لگتا یا نیو تھیٹر کا کوئی گانا گانے لگتا۔ چلتے چلتے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھ بھی لیتا تھا۔ ایک جگہ ایک بہت بڑا درخت آندھی کی وجہ سے جڑوں کے کھوکھلا ہو جانے کی وجہ سے نالے کے اوپر گرا ہوا تھا۔ میں بڑی مشکل سے اس کی گنجان شاخوں کے بیچ میں سے گزر کر دوسری طرف نکلا۔

میں کافی دیر سے نالے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ابھی تک نہ تو جنگل کا گھٹاپن ختم ہوا تھا اور نہ رام ناتھ کا تالاب دکھائی دیا تھا۔ نالے کے دوسرے کنارے پر میں نے

قیام پاکستان کے وقت لوہاری دروازے کے باہر اتارکلی کی ٹکڑ میں مکتبہ جدید کے ساتھ ایک سرنگ نما دکان ہوتی تھی جہاں بھنگ کے رسیا اندر بیچ پر بیٹھ کر بھنگ پیا کرتے تھے۔ اس دکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے بھنگ کی جھاڑیوں کی خوشبو آیا کرتی تھی اور مجھے امرتسر والی نہر یاد آ جاتی تھی۔ دکان کے اندر ہر وقت بھنگ کھتی رہتی تھی۔ دو پیسے یا شاید ایک آنے کا بھنگ کا گلاس ملتا تھا۔ ایک بار میں نے بھی اس دکان میں بیٹھ کر بھنگ کا ایک گلاس پیا تھا اس کے بعد میری یہ حالت ہو گئی کہ کسی بات پر ہنستا تھا تو ہنستا ہی چلا جاتا تھا۔ کھانا کھانے بیٹھا تو کھانا ہی چلا گیا۔ سارا دن میرے دماغ کی یہی ذلت آمیز حالت رہی۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ کیلئے بھنگ سے توبہ کر لی۔ اسی بھنگ کی جھاڑیوں کی قسم کی جھاڑیاں اس نالے کے کنارے پر بھی اگی ہوئی تھیں جو کنڈرگام سے آگے ندی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا تھا۔ میں نے ایک پتے کو توڑ کر تھیلی پر زور سے ملا اور اسے سوکھا یہ کوئی اور ہی جھاڑی تھی۔ اس میں سے بھنگ کی تیز بو نہیں آ رہی تھی۔ میں نالے کے ساتھ ساتھ جنگل میں چلا گیا۔ دل کو یہ فکر بھی دامن گیر تھا کہ کسی طرف سے شیر یا کوئی دوسرا درندہ اچانک نکل کر سامنے نہ آ جائے۔ اصل میں وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ دل و دماغ پر ہیرو بننے کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ ہر وقت یہی ایک دھن سوار رہتی ہے کہ کوئی ایسا کام کیا جائے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ میرے ذہن میں بھی یہی ہیرو بننے کا جذبہ غالب تھا جو مجھے کلکتے سے کھینچ کر اس جنگل میں لے آیا تھا۔ اس عمر میں انسان پر جذبات کا غلبہ ہوتا ہے۔ عقل منہ سر پلٹ کر ایک طرف خاموش بیٹھی

پر قربان کرنے کیلئے اغوا کر کے لائے ہوئے تھے۔ یہ قتل تھا اور اس قتل کے جرم میں ان لوگوں کو پھانسی کی سزا مل سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو خفیہ طریقے سے قتل کرنے کے نام ضروری اقدامات کیے ہوئے تھے۔ کلکتے کے ست پال نے بھی جان کو بتایا تھا کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کسی نے انہیں یہ واردات کرتے دیکھ لیا ہے تو وہ اسے بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے یہ کیا کہ نالے سے دور ہو کر جھاڑیوں کی اوٹ میں چلنے لگا۔ آخر مجھے لکشمی دیوی کے قدیم مندر کا کھنڈر نظر آ گیا۔ یہ مندر زمین سے دو تین فٹ اونچے پتھرے پر بنا ہوا تھا۔ مندر کے ارد گرد کوئی انسان چلتا پھرتا دکھائی نہیں دیتا تھا لیکن مجھے حساس تھا کہ بیماری کے آدمیوں نے وہاں ناکہ بندی کر رکھی ہوگی چنانچہ میں وہیں سے ہٹ گیا۔ پندرہ بیس قدم چلنے کے بعد میں ان درختوں کی طرف ہو گیا جو مندر کے پیچھے دور تک چلے گئے تھے۔ مندر کے عقب میں جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں ایک ایک ذمہ سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا۔ جذبات کے غلبے سے بچی ہوئی جتنی بھی عقل میرے پاس تھی میں برابر اس سے کام لے رہا تھا۔ مندر سے ڈیڑھ دو سو گز دور ہو کر میں اس کے متوازی ہو کر چل رہا تھا۔ یہاں جھاڑیاں چھ چھ فٹ اونچی تھیں اور مجھے چلتے ہوئے اچھی آڑ مل رہی تھی۔ ایک جگہ نشیب میں مجھے ایک اور تالاب نظر آیا۔ یہ تالاب رام ناتھ کے تالاب سے ہونا تھا اور اس پر ایک جانب سیزھیال تالاب میں اترتی تھیں۔ سیزھیوں کے اوپر درختوں نے سایہ کر رکھا تھا۔ میں ابھی تالاب کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ میں وہیں ایک درخت کی آڑ لے کر بیٹھ گیا۔

آواز تالاب کی طرف سے آئی تھی۔ تالاب نشیب میں چالیس پچاس قدموں کے فاصلے پر ہوگا۔ میری نظریں تالاب پر جمی ہوئی تھیں۔ اتنے میں درختوں میں سے تین دی نمودار ہوئے۔ ان کے کندھوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں۔ ایک جوان لڑکی ان کے اٹھ تھی۔ لڑکی کے گلے میں رسی بندھی ہوئی تھی۔ ایک آدمی نے رسی کو پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی سا رک کر تالاب کی طرف چل رہی تھی اور ان آدمیوں کو بار بار ہاتھ جوڑ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ مسلح آدمی لڑکی کو آگے دھکیل رہے تھے اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں بھی کر رہے

ایک کالے سانپ کو دیکھا جو اپنا پھن کھولے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی اور جلدی جلدی وہاں سے گزر گیا۔ ایک جگہ مجھے جنگل میں زور سے ہاتھی کے چٹکھانڈے کی آواز سنائی دی، پھر یہ آواز دور ہوتی چلی گئی۔ خدا خدا کر کے جنگل کا کھٹا پن کم ہونا شروع ہوا۔ درخت ذرا پرے پرے ہٹ گئے۔ کچھ فاصلے پر میری دائیں جانب ایک جگہ نیم کے بہت سارے درخت ساتھ ساتھ کھڑے تھے۔ نیم کے درخت کو میں دور ہی سے پہچان لیتا ہوں۔ جنگلوں اور امرتسر کے کہنی باغ اور چالیس کنوؤں کے آس پاس پھرنے پھرانے کی وجہ سے مجھے بعض درختوں کی بڑی پہچان ہو گئی تھی۔ یہاں آ کر تالاب ایک طرف کو مڑ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ رام ناتھ کا تالاب نیم کے درختوں کے جھنڈ میں ہی ہوگا۔

میں نالے کو چھوڑ کر نیم کے جھنڈ کی طرف بڑھا۔ ان درختوں کی گہری سبز ٹھنڈی جھاڑوں میں ایک تالاب نظر آیا جس کی ساکن سطح کو گلے سزے پتوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تالاب پر کوئی نہانے یا کپڑے دھونے نہیں آتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تالاب کے ارد گرد جنگل ہی جنگل تھا کوئی گاؤں وغیرہ نہیں تھا۔ شاید رات کو یا دن کے وقت بھی شیر ہاتھی یہاں پانی پینے آتے ہوں گے۔ یہی رام ناتھ تالاب ہو سکتا تھا۔

لکشمی دیوی کے قدیم مندر کے کھنڈر یہاں قریب ہی ہونے چاہیے تھے۔ اب میں محتاط ہو گیا۔ جنگلی جانوروں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ کسی شیر یا ہاتھی نے مجھے نالے کے کنارے جاتے جنگل میں سے دیکھ بھی لیا ہو اور منہ پھیر کر دوسری طرف چلا گیا ہو۔ شیر ہاتھی کی یہ خصلت ہے کہ جب تک وہ غیض و غضب کی حالت میں نہ ہوں یا شیر آدم خورد نہ بن چکا ہو یہ جانور انسانوں کو کچھ نہیں کہتے۔ اکثر حالتوں میں کسی انسان کو اپنے راستے میں دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ سید رفیق حسین نے تو اپنی کتاب ”آئینہ حیرت“ میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وسطی ہند کے جنگلوں میں چلتے پھرتے آدمی بسبب کلکتے کی سڑکوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ محفوظ سمجھتا ہے۔

خطرہ مجھے بیماری اور اس کے آدمیوں سے تھا جو ایک اچھوت لڑکی کو لکشمی دیوی

اٹھ کھڑے ہوئے۔ جس آدمی کے ہاتھ میں رسی تھی اس نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔

لڑکی اس طرح دائیں بائیں سر ہلاتی چلی جا رہی تھی جیسے وہ کسی جادو کے زیر اثر موت کے منہ کی طرف بڑھ رہی ہو۔ حاتم طائی کی ایک کہانی میں کوہ ندا کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس کے غار میں ایک جن رہتا ہے۔ وہ ہر ماہ ایک آدمی کو کھاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ وقت مقررہ پر ایک آدمی کو لے کر کوہ ندا کے غار کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غار میں سے جن کی آواز آتی ہے تو جس آدمی کو جن کی بھیٹ چڑھانا ہوتا ہے وہ اپنے آپ غار کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ مسلم امرتسر کے سینما گھر امرت ناکیز میں میں نے بچپن میں حاتم طائی کی فلم دیکھی تھی۔ اس فلم میں ایک پہاڑ دکھایا گیا تھا۔ یہ کوہ ندا تھا۔ اس کے غار کے باہر گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ ایک آدمی جس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے گئے تھے وہ سب سے آگے غار کی طرف منہ کر کے بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اتنے میں کوہ ندا کے غار میں سے جن کی آواز آتی ہے۔ آواز کو سنتے ہی وہ آدمی جس کو جن کے آگے اس کی ضیافت کیلئے پیش کیا جانا تھا اپنے آپ غار کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنا سر دائیں بائیں ہلاتا رہتا تھا جس طرح یہ مظلوم لڑکی سر ہلاتی رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے حاتم طائی فلم کا کوہ ندا والا سین یاد آ گیا تھا۔ چونکہ میں نے لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس لیے ضروری تھا کہ میں ان قاتلوں کا پیچھا کر کے معلوم کروں کہ لڑکی کو انہوں نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ تینوں مسلح آدمی لڑکی کو آگے لگا کر درختوں میں ایک طرف چل پڑے۔ میں تیزی کے ساتھ شیب میں اتر اور درختوں جھاڑیوں کی آڑ لیتا ان لوگوں کے پیچھے لگ گیا۔ ایک طرح سے میں بھی موت کے منہ میں جا رہا تھا لیکن موت کے منہ میں جائے بغیر میں اس لڑکی کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا تھا۔ لیکن ان لوگوں کو نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ دن کا وقت تھا، درخت زیادہ گنجان بھی نہیں تھے۔ جھاڑیاں بہت تھیں ایک آدمی نے لڑکی کو بازو سے پکڑ رکھا تھا اور وہ اسے کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا۔ میں اپنے دائیں بائیں سے بھی ہوشیار تھا کہ کہیں ان قاتلوں کا کوئی جاسوس مجھے دیکھ کر مجھے بھی نہ پکڑ

تھے۔ تالاب کی سیڑھیوں کے پاس آ کر انہوں نے لڑکی کو زبردستی سیڑھیوں میں بٹھا دیا اور رسی کو ڈھیلی چھوڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ کچھ فاصلے پر جا کر وہ جھاڑیوں کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جسے لکشمی دیوی پر قربان کرنے کیلئے اس جنگل والے مندر میں اغوا کر کے لایا گیا ہے اور یہ لوگ لڑکی کو اشان کرانے لائے ہیں۔ لڑکی کچھ در سیڑھیوں میں سر جھکائے بیٹھی رہی پھر اس نے سر اٹھا کر اوپر درختوں کی طرف دیکھا۔ پھر سر جھکا لیا اور آہستہ آہستہ اپنی ساڑھی اتارنے لگی۔

تالاب کا پانی آخری سیڑھی تک آیا ہوا تھا۔ وہ آخری سیڑھی پر بیٹھ کر نہانے لگی۔ جس طرح یہ بے یار و مددگار چھوٹ لڑکی ان آدمیوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی اس منہ نے میرے دل پر بہت اثر کیا۔ ظاہر ہے وہ ان لوگوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوگی اسے تو علم ہو گیا ہوگا کہ یہاں اسے لکشمی دیوی کی بھیٹ چڑھانے کیلئے لایا گیا ہے اور اس کی زندگی کے بس دو ایک دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ ایک غریب بے سہارا لڑکی، قتل تھا، یہ ظلم تھا۔ میرے اندر کا ہیرو جاگ اٹھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں اس لڑکی کو لکشمی دیوی کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گا اور اسے ہر حالت میں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا۔ کہاں میں دیوی کی انسانی قربانی کا ایڈ ونچر دیکھنے آیا تو اور کہاں میں نے دیوی پر قربان کی جانے والی لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو یہاں سے کیسے بھگا کر لے جاؤں گا۔ میں نے زندگی میں یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں بالکل خیال نہ ہو سچنا چاہیے۔ بس اندھا دھند کر دینے چاہئیں۔ زیادہ سوچ بچار کرنے سے وہ کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ میں نے بھی ذرا سا بھی نہیں سوچا تھا اور بس اللہ توکل لڑکی کو ان قاتلوں سے بچانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لڑکی تالاب کی سیڑھیوں پر بیٹھی بادل نخواستہ اشان کر رہی تھی۔ شاید وہ رو بھی رہی تھی کیونکہ وہ بار بار ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھ لیتی تھی۔ اس کی گردن میں رسی بندھی ہوئی تھی جس کا سرا جھاڑیوں کے پاس بیٹھے تین مسلح آدمیوں میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا۔ نہانے کے بعد لڑکی نے ساڑھی جسم کے گرد لپیٹی۔ تینوں آدمی بگ

دہانے سے صرف بیس پچیس فٹ ہی چٹان کے اندر گیا ہوا تھا۔ اس کا دہانہ قدرتی جھاڑیوں اور گھاس پھوس میں چھپا ہوا تھا۔ مجھے یہ ڈر ضرور لگا کہ کہیں یہ کسی جنگلی درندہ از قسم شیر وغیرہ کی کچھار نہ ہو جہاں رات کو آ کر وہ آرام نہ کرتا ہو۔ غار کے اندر گلے سڑے پتوں اور دلدل کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی اور اندھیرا بھی تھا۔ میں نے زمین کو پاؤں سے دبا کر دیکھا مگر زمین دلدلی نہیں تھی بلکہ خشک تھی اور وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ غار کے منہ کے آگے آئی ہوئی جھاڑیوں اور اونچی اونچی جنگلی گھاس کی وجہ سے غار میں دن کے وقت بھی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی نالہ بہہ رہا تھا۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی میں غار سے نکل کر بڑے محتاط انداز میں چلتا ہوا نالے پر گیا۔ کنارے پر بیٹھ کر پانی پیا اور اسی طرح دبے پاؤں چلتا غار میں واپس آ گیا۔ میری جیکٹ کی دونوں جیبیں میٹھے چنوں سے بھری ہوئی تھیں جو میں نے کندر گام کے ٹیشن کے باہر ایک دکان سے خریدے تھے۔ بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ میں خاموشی سے چنے کھانے لگا۔



لے۔ چلتے چلتے یہ لوگ ایک ٹیلے کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ چھوٹا سا ٹیلہ تھا۔ اس کے واس میں ایک کوٹھڑی بنی ہوئی تھی۔ کوٹھڑی کا ایک پٹ کھلا تھا۔ انہوں نے لڑکی کو کوٹھڑی کے اندر دھکیل کر کوٹھڑی کا دروازہ بند کر کے تالا لگا دیا۔ کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ ایک پگڈنڈی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ اس طرف چلے گئے۔ لڑکی کو کوٹھڑی میں دھکیلنے سے پہلے انہوں نے اس کی گردن میں سے رسی کھول دی تھی۔

میں بڑا حیران تھا کہ انہوں نے کوٹھڑی کے باہر پہرہ دینے کیلئے اپنا کوئی آدمی کیوں نہیں چھوڑا تھا۔ پھر خیال آیا کہ شاید انہیں پورا یقین ہے کہ اس دور افتادہ خطرناک جنگل میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کون آئے گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس پگڈنڈی پر ایک آدمی آتا نظر آیا جو کوٹھڑی کے باہر آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے پاس بندوق تھی۔ اب وہ مظلوم لڑکی مسلح پہرے میں تھی۔ میں آگے جا کر کوٹھڑی کا جائزہ لینا چاہتا تھا کہ لڑکی کو وہاں سے نکالنے کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں۔ لیکن دن کی روشنی میں کوٹھڑی کے آس پاس جانا میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں اور آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ بہت ممکن تھا کہ کوٹھڑی کے پیچھے ان لوگوں کا ڈیرہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ بڑی آسانی سے مجھے قتل کر کے لاش جنگل میں پھینک سکتے تھے۔ وہاں کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے رات کے اندھیرے میں اس طرف آنا چاہیے۔ یہ حقیقت بھی میرے سامنے تھی کہ لڑکی کو بچانے کیلئے میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا۔ زیادہ سے زیادہ ایک دن کے بعد وہ اس لڑکی کو دیوی کی مورتی کے آگے قتل کرنے والے تھے۔

میں خاموشی سے واپس ہو گیا۔

جس طرف سے آیا تھا اسی طرف اپنے آپ کو جھاڑیوں اور درختوں میں چھپانا چل دیا۔ مجھے کسی ایسی محفوظ جگہ کی تلاش تھی جہاں میں دن کا باقی حصہ گزار سکوں۔ آخر مجھے ایک جگہ مل گئی۔ یہ جگہ ندی سے نکل کر جنگل میں داخل ہونے والے نالے کے قریب ایک بھورے رنگ کی چٹان کا ایک قدرتی غار تھا۔ اسے میں غار نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ وہ اپنے

بب میں روشن تھا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے بچے کھاتا رہا۔ خدا جانے یہ کس قسم کا آسبی جنگل تھا کہ کسی پرندے تک کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مارے جنگل پر ایک دہشت سی طاری ہے۔ کسی جنگلی جانور کے بولنے کی بھی آواز تک پائی نہیں دے رہی تھی۔

میرے اوپر درختوں کی چلمن میں سے آسمان ابھی تک روشن روشن نظر آ رہا تھا۔ بچے کھانے سے جب میری بھوک ختم ہو گئی تو میں آہستہ سے اٹھا۔ جھاڑیوں میں سے بے غور سے چاروں طرف خاص طور پر نالے کی طرف نظر دوڑائی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ آس پاس کوئی آدمی نہیں ہے تو میں نالے کے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بلدی جلدی پانی پیا منہ پر سفندے پانی کے چھینٹے مارے اور جلدی سے اٹھ کر اسی طرح وہیں جھاڑیوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں بیٹھے دس پندرہ منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ مجھے فضا میں بیڑی کے تبا کو کی بو محسوس ہوئی۔ میرا دوست جان بھی کلکتے میں بیڑی پچتا تھا۔ میں اس کے تبا کو کی بو سے بڑی اچھی طرح سے واقف تھا۔ میں جلدی سے غار میں جا کر اس کے دہانے کے قریب اونچی گھاس کی اوٹ میں چھپ گیا۔ چند لمحوں کے بعد دو آدمیوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ آواز دور سے آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میں اونچی گھاس کو ذرا سا ایک طرف ہٹا کر دیکھنے لگا۔ آواز نالے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں دو آدمی نمودار ہوئے۔ دونوں کے کندھوں سے بندوقیں لٹک رہی تھیں۔ وہ بیڑیاں پی رہے تھے اور ہنگامہ زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے آ رہے تھے۔ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے۔ لیکن میں بڑی اچھی اور محفوظ آڑ میں چھپا ہوا تھا۔ وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تو میں انہیں نظر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ دونوں آدمی کشمی مندر والے پجاری کے آدمی ہی ہو سکتے تھے۔ ان کا لباس یعنی دھوتی کرتا شہر کے آدمیوں والا لباس تھا۔ وہ جنگل میں رہنے والے دیہاتی نہیں تھے۔ جو تین آدمی اچھوت لڑکی کو تالاب پر اٹھانے کے لئے آئے تھے ان کا بھی یہی لباس تھا۔ یہ شہر کے بڑے مندر کے سنگ دل پجاری کے ساتھی تھے اور شہر سے لڑکی کو انوا

بہت جلد مجھ پر اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ میں غار میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا۔ وہاں چھتر بہت زیادہ تھے اور جس بھی بہت تھا۔ ہوا اتنی ہی آ رہی تھی کہ جو زندہ رہنے کیلئے کافی ہو۔ پھر فضا میں دلدل، سیلن اور گلے سڑے پتوں کی ناگوار بو بھی تھی۔ چھتروں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں ادھر ادھر ہاتھ چلانے لگا۔ لیکن وہ جنگل کے آدم خور چھتر تھے۔ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے لیکن وہ میری نوعمری کا زمانہ تھا۔ بدن میں تازہ گرم خون گردش کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھ پر ہیر و بننے کی دھن سوار تھی۔ میں تو اس وقت اپنے آپ کو جنگل کی اس زمانے کی مشہور قلم نازن کا ہیر و سمجھ رہا تھا۔ اس کے باوجود مجھ سے وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھا گیا اور میں غار سے نکل کر باہر جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ گیا۔ یہاں اندر کے مقابلے میں فضا قابل برداشت تھی۔ خطرہ صرف اتنا ہی تھا کہ کہیں مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے۔ لیکن میں نے اس کیلئے اپنے آپ کو جھاڑیوں اور اونچی گھاس کی آڑ میں اچھی طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ جب آدمی وقت گزارنے کیلئے کسی جگہ خاص طور پر کسی سنسان جنگل میں بیٹھ جائے تو وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے وقت ایک جگہ آ کر رک گیا ہے اور بالکل نہیں گزر رہا۔ مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں آسمان کی طرف دیکھتا جو درختوں کی شاخوں میں سے نظر آ رہا تھا۔ درختوں کے اوپر آسمان روشن تھا۔ درختوں کے نیچے تو گہری اور گھنی چھاؤں تھی لیکن درختوں کے اوپر شاخے دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ میں صرف درختوں کی گنجان شاخوں میں سے نظر آئے والے آسمان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا سکتا تھا کہ شام ہوئی ہے یا نہیں لیکن جتنا بھی آسمان مجھے نظر آ رہا تھا وہ

پنے وطن کے دشمن کی دیومالا کے اس اصلی روپ سے ناواقف ہے۔ ہماری نئی نسل ڈش پر رن ان کی عورتوں کے دیومالائی بھارت ٹائم اور کھٹک رقص ہی دیکھتی ہے وہ ہندو دیومالا کے بھیا تک روپ سے بالکل نا آشنا ہے۔ میں اپنی نئی نسل کو اپنے دشمن کا اصلی روپ دکھانا چاہتا ہوں جسے میں نے سارے ہندوستان میں اپنی آوارہ گردیوں کے زمانے میں بڑے قریب سے دیکھا ہے۔

رات پڑ جانے کے بعد جب کافی وقت گزر گیا اور جنگل کی خاموشی کافی گہری ہو گئی تو میں جھاڑیوں میں سے نکل کر نالے کے ساتھ ساتھ اس ٹیلے کی طرف چلنے لگا جس کے نشیب میں کوٹھڑی تھی۔ جنگل کا راستہ مجھے اندھیرے میں بھی یاد تھا۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ ہر کے کسی مکان کا کمرہ بند کر کے کھڑکیوں کے پردے گرا دیے جائیں ساری بتیاں گل کر لی جائیں تو کمرے میں اتنا اندھیرا چھا جاتا ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا اور آدمی میز کرسیوں سے ٹکرانے لگتا ہے۔ لیکن جنگل کے اندھیرے میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ جنگل میں کتنی ہی ایک رات کیوں نہ چھا جائے پھر بھی درختوں اور جھاڑیوں وغیرہ کے دھندلے دھندلے کے نظر آتے رہتے ہیں۔ کچھ میں بھی جنگل کی راتوں کے اندھیرے کا عادی ہو گیا تھا۔ لہے اندھیری رات میں بھی جنگل میں وہ درخت نظر آ رہے تھے جن کے قریب سے ہو کر لہے ٹیلے کی طرف جانا تھا۔ جہاں مجھے نالے سے الگ ہونا تھا وہاں میں اس سے الگ ہو گیا اور کچھ فاصلے پر جو ٹیلا دھندلا سا نظر آ رہا تھا اس طرف چلنے لگا۔ یہاں میں محتاط ہو گیا۔ میں دبا دبا کر قدم اٹھا رہا تھا تاکہ چلتے وقت آہٹ پیدا نہ ہو۔

اوس پڑنے کی وجہ سے گھاس گیلی اور بے آواز ہو گئی تھی۔ میں ٹیلے سے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا اور اوپر کا لمبا چکر کاٹ کر ٹیلے کے قریب آ کر ایک جگہ رخت کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سامنے کچھ فاصلے پر ٹیلے کے نشیب میں بنی ہوئی کوٹھڑی ندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ میں بڑے غور سے اس کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے باہر وہ مسلح شخص نہیں بیٹھا تھا جسے میں نے دن کے وقت پہرے پر بیٹھے دیکھا تھا۔ شاید وہ اپنی ڈیوٹی دے کر چلا گیا تھا اور اب اس کی جگہ کوئی دوسرا آدمی آنے والا

کر کے اسے یہاں دیوی کی مورتی کے آگے قربان کرنے کیلئے لائے تھے۔ دونوں ہاتھ کرتے ہوئے میرے سامنے سے گزر گئے جب ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو میں آہستہ سے اٹھ کر غار کے اندر سے نکلا اور وہیں قریب ہی جھاڑیوں کے پاس بیٹھ گیا کیونکہ اندھیرے میں مجھ پر دوبارہ حملہ کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وقت اس آسپی جنگل میں آ کر شاید رک گیا ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ وقت گزر رہا تھا۔ درختوں کی چٹمن سے اوپر آسمان کی سفید روشنی پھینکی پڑتی جا رہی تھی۔ پھر درختوں پر رات کے وقت بسیرا کرنے والے پرندوں نے بھی آنا شروع کر دیا اور جنگل ان کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ یہ بڑا عجیب قسم کا شور تھا جس میں اور کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے یہ جنگل پرندوں کا بہت بڑا منجمرہ ہے اور میں اس منجمرے میں جانوروں کے ساتھ بند کر دیا گیا ہوں۔

جیسے جیسے آسمان کی روشنی ماند پڑتی گئی پرندوں کا شور بھی کم ہوتا گیا۔ سورج غروب ہوتا وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر اب کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام ہو گئی تھی درختوں میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں وہیں جھاڑیوں میں ہی بیٹھا تھا۔ کسی کسی وقت اٹھ کر ہاتھ پاؤں ہلا لیتا تھا اور پھر وہیں بیٹھ جاتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب رات کا اندھیرا گہرا ہو جائے تب اس کوٹھڑی کی طرف جاؤں جہاں اچھوت لڑکی قید تھی۔ جب چاروں طرف رات کا اندھیرا ہو گیا اور پرندوں کی آوازیں بھی رک گئیں تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رات کتنی گزر گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ اس وقت جاؤں جب وہ لوگ لڑکی کو کھانا وغیرہ کھلا چکے ہوں۔ کیونکہ سنت پال نے بتایا تھا کہ لکشی دیوی پر قربان کرنے سے پہلے لڑکی کو خوب اچھے اچھے کھانے اور حلوہ پوری کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کے جسم میں زیادہ سے زیادہ خون پیدا ہو اور یہ خون اسے ذبح کر کے لکشی کے چرنوں میں بہایا جائے۔

بڑی خوفناک اور درندہ صفت دیومالا ہے ہندو قوم کی۔ ہماری نسل کے لوگ ہندو قوم کی اس بھیا تک دیومالا کے تمام پہلوؤں سے واقف تھے لیکن پاکستان کی نئی نسل

دیکھا۔ مجھے کوٹھڑی کی پچھلی دیوار میں کوئی کھڑکی وغیرہ دکھائی نہ دی۔ دیوار کے ساتھ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ میں ہمت کر کے گھنٹوں کے بل چلتا جھاڑیوں کے پاس چلا گیا۔ دیوار پتھر جوڑ کر بنائی گئی تھی۔ اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کان لگایا۔ کوٹھڑی میں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اسی طرح گھنٹوں کے بل دیوار کے ساتھ چلتا کونے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے سر ذرا سا آگے نکال کر دیکھا۔ کوٹھڑی کا دروازہ مجھ سے تین چار فٹ کے فاصلے پر تھا۔ باہر کوئی پہرے دار وغیرہ نہیں تھا۔ میں دیوار سے لگ کر بلی کی طرح چاروں ہاتھ پاؤں پر چلتا دروازے کے پاس آ گیا۔

دروازے بڑی مضبوط لکڑی کا تھا۔ میں کھڑے ہو کر دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ ایک بار پھر تاریکی میں سامنے اور ارد گرد کے درختوں کی طرف دیکھا۔ رات سنان تھی۔ کوئی پہرے دار وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے تالے کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ یہ دسی تالا تھا اور زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس زمانے کے دسی تالوں کی چابی گھما کر کھولا جاتا تھا اس کے کنڈے کے درمیان کافی جگہ تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر نیچے کو جھٹکا دیا۔ مگر تالا اپنی جگہ پر قائم رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اس کے کنڈے کے درمیان درخت کی کوئی مضبوط شاخ ڈال کر اسے اوپر سے نیچے دو چار جھٹکے دوں تو تالا کھل سکتا ہے۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ گھنٹوں کے بل چل کر کوٹھڑی کے پیچھے جو درخت تھے ان کے پاس جا کر درخت کی کوئی گری پڑی ٹہنی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد مجھے ایک ٹہنی مل گئی۔ یہ مضبوط ڈنڈے کی طرح کی تھی۔ میں اسے لے کر دروازے کے پاس واپس آ گیا۔ ٹہنی کا ڈنڈا تالے کے کنڈے کے اندر سے گزر گیا۔ میں نے اس کے اگلے سرے کو دروازے کے ساتھ لگایا اور دونوں ہاتھوں سے اسے اوپر سے نیچے کی طرف زور سے جھٹکا دیا۔ تالا اپنی جگہ سے ذرا بھی نہ ہلا۔ مجھے یہ خیال بھی رکھنا پڑ رہا تھا کہ جھٹکا لگنے سے آواز پیدا نہ ہو۔ میں نے دو تین بار کوشش کی، مگر تالا نہ کھلا۔ کم بخت بڑا مضبوط تالا تھا۔ مجھے کسی کے رونے کی دبی دبی آواز سنائی دی۔

میں دروازے کی درز تلاش کرنے لگا۔ رونے کی آواز کوٹھڑی کے اندر سے آ

تھا۔ ایک اعتبار سے جائے واردات خالی پڑی تھی۔ پھر بھی میں پوری تسلی کرنا چاہتا تھا کہ آس پاس تو کوئی مسلح آدمی گشت نہیں کر رہا۔ میں نے سرسئی اندھیرے میں ٹیلے کے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ مجھے وہاں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر نہ آیا مگر میں ابھی تک مطمئن نہیں ہو تھا۔ میں نے فضا کو سونگھا، فضا میں بیڑی کے تمباکو کی کوئی بو نہیں تھی۔ یہ لوگ بیڑیاں بہت پیتے تھے۔ اگر وہاں ان میں سے کوئی ہوتا تو فضا میں بیڑی کی بو ضرور پھیلی ہوتی۔ میں نے کان لگا کر جنگل کی خاموشی کو سننے کی کوشش کی۔ کسی طرف سے کسی قسم کی کوئی آہٹ یا آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھا اور جھک کر آہستہ آہستہ کوٹھڑی کے عقب کی طرف بڑھنے لگا۔ میں بالکل سلوموشن میں چل رہا تھا۔

میرا خیال تھا کہ کوٹھڑی کے پیچھے ضرور کوئی کھڑکی ہوگی میں اسے توڑ کر لڑکی کا نکال لے جانے کی کوشش کر دوں گا۔ میں یہ بھول گیا تھا کہ ایسا فلموں میں ہی ہوتا ہے۔ حقیقت زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ اول تو میرے پاس کھڑکی توڑنے کیلئے کوئی اوزار نہیں تھا۔ دوسرے اگر میں نے کھڑکی توڑنے کی کوشش کی تو اس کی آواز پیدا ہوگی اور یہ آواز قاتل پجاریوں کو ہوشیار کر دے گی لیکن جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں یہ میری جوانی کے گرم خون اور ایک مظلوم لڑکی کی بے اختیار مدد کرنے کا جذبہ تھا جس نے مجھے بہت حد تک دلیر اور کما حد تک بے وقوف بنا رکھا تھا۔ یہ میری بے وقوفی ہی تھی کہ میں بغیر سوچے سمجھے موت کے منہ میں چلا جا رہا تھا لیکن یقین کریں کہ اگر آپ بے وقوفی میں بھی کسی مظلوم انسان کی مدد کرنے چل پڑتے ہیں تو خدا اس طرح آپ کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔

بشرطیکہ آپ کی نیت نیک ہو اور بے وقوف آدمی عام طور پر بدنیت نہیں ہوتے۔ میں بے طرح اگی ہوئی جھاڑیوں اور پودوں میں سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا کوٹھڑی سے بیس پچیس فٹ کے فاصلے پر پہنچ کر رک گیا۔ جنگل کی تاریک رات ساکت اور خاموش تھی۔ کوئی پتا بھی نہیں مل رہا تھا۔ ابھی تک نہ کسی نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے کسی کو دیکھا تھا۔ کوٹھڑی کے بند دروازے کے آگے کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ میں جھک کر چلتا کوٹھڑی کے پیچھے آ گیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ میں نے اندھیرے میں بڑے غور سے

لڑکی کو میں نے دل سے بھائی کہا تھا۔ اس پر اس کا اثر ہو گیا۔ وہ سہمی ہوئی آواز
بولی۔

”باہر پجاری لوگ تو نہیں ہیں؟“

میں نے کہا۔

”باہر اس وقت کوئی نہیں۔ وقت ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی آ گیا تو تمہارے ساتھ
بھی قتل ہو جاؤں گا۔“

میں نے لڑکی کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ لڑکی اندھیرے میں دروازے کی طرف بڑھی۔
درازے کے پاس آ کر میں نے دروازے کو ٹول کر دیکھا۔ پھر آہستہ سے اس کا ایک
ہاتھ کھول دیا۔ ایک بار پھر دروازہ چرچرایا۔ میرا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا سانس نیچے رہ
پا۔ لڑکی بھی ڈر کر میرے ساتھ لگ گئی۔

دوسرے لمحے ہم دروازے سے باہر نکل گئے تھے اور لڑکی میرے ساتھ رات کی
رنگی میں جھاڑیوں اور درختوں میں بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ میرا رخ نالے کی طرف تھا۔



رہی تھی۔ دروازے میں کوئی نہ کوئی جھری وغیرہ ضرور ہوگی مگر اندھیرے میں وہ مجھے نظر نہیں
آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر سنا۔ رونے کی آواز اندر سے آ رہی تھی
اور یہ ظلم لڑکی کی آواز تھی جو دہی دہی آواز میں رو رہی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ غالباً
لوگ اسے دیوی کی بھینٹ چڑھانے والے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے کسی پہرے
دار کے آجانے کا بھی دھڑکا لگا تھا۔ میں نے تالا توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایک بار
میں نے زور سے جھٹکا دیا تو تالا کھل گیا۔ میں نے اسے دروازے کے کندھے میں سے
نکال کر ایک طرف زمین پر رکھ دیا اور دروازے کو آہستہ سے کھولا۔ دروازہ کم بجٹ
چرچرایا۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کوشٹری میں لڑکی کے رونے کی
آواز آنی بند ہو گئی۔ اس نے سہمی ہوئی خشک آواز میں کہا۔

”مجھ پر دیا کرو (رحم کرو) میری بھینٹ نہ دو۔“

میں جلدی سے کوشٹری میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کوشٹری میں گھپ
اندھیرا تھا۔ میں نے لڑکی سے کہا۔

”میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں۔ جلدی سے میرے ساتھ باہر آ جاؤ۔“

جلدی کرو؟“

کوشٹری میں خاموشی چھا گئی۔ نہ مجھے لڑکی نظر آ رہی تھی نہ لڑکی کو میں دکھائی دے
رہا تھا۔ ہم دونوں اندھیرے کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ لڑکی نے ڈرے ہوئے
لہجے میں کہا۔

”نہیں! میں نہیں جاؤں گی۔ مجھ پر دیا کرو مجھے دیوی کی بھینٹ نہ چڑھاؤ۔“

میں دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر جس طرف سے لڑکی کی آواز آئی تھی اس طرف
بڑھا۔ میرا ایک ہاتھ لڑکی کے کندھے اور ایک اس کے منہ پر جا کر لگا۔ اس کی آنکھیں اور
رخسار گیلے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کہا۔

”میں تمہارے بھائی کی طرح ہوں۔ جلدی سے میرے ساتھ یہاں سے بھاگ

چلو۔ نہیں تو وہ لوگ تمہیں دن نکلنے ہی مار ڈالیں گے۔“

کمرے میں ایک باورچسٹر سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کلکتے جانے والی گاڑی کے بارے میں پوچھا تو اس نے میری طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔
”صبح جائے گی۔“

ہم خالی پلیٹ فارم پر آ کر ایک بند سٹال کے پاس جہاں تھوڑا اندھیرا تھا بیٹھ گئے۔ لڑکی سانولے رنگ کی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی سولہ سترہ سال کی ہوگی۔ ناک میں سرخ نگ والا کوا تھا۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔
”گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ لوگ اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تمہارا نام کیا ہے؟“

لڑکی نے آہستہ سے کہا۔ ”رانی۔“

اس کے باوجود کہ ہم خطرے سے بہت حد تک دور ہو گئے تھے میں اس علاقے سے جتنی جلدی ہو سکے نکل جانا چاہتا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی بہت وقت تھا۔ لڑکی رانی بند سٹال کی کلاڑی کی دیوار سے ٹیک لگا کر سٹ کر بیٹھی تھی۔

میری نگاہیں بار بار خالی پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ڈر اس بات کا تھا کہ اگر پجاری قاتلوں کو لڑکی کے فرار کا علم ہو گیا تو وہ اس کی تلاش میں ریلوے سٹیشن پر ضرور آئیں گے۔ پہلے میں نے سوچا کہ لڑکی کو پولیس چوکی لے جانا ہوں۔ پھر خیال آیا کہ پولیس کی مصیبت خواہ مخواہ گلے نہ پڑ جائے۔ وہیں بیٹھا رہا۔ مگر میں سکون سے نہیں بیٹھا ہوا تھا مجھے بے چینی لگی ہوئی تھی۔

کلکتے کی طرف جانے والی ٹرین صبح کے وقت آتی تھی۔ کم از کم ریلوے کے باہر نے مجھے یہی بتایا تھا اور صبح تک مندر کے قاتل پجاریوں کو لڑکی کے فرار کا علم ہو جانا یقینی تھا اور ان کا لڑکی کی تلاش میں سٹیشن پر آنا بھی یقینی تھا۔

طرح طرح کے دوسے میرے دل میں پیدا ہو رہے تھے رات بڑی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ کسی اگلے سٹیشن پر بیٹھ کر ٹرین کا انتظار کرتا ہوں۔ اس سٹیشن پر بیٹھنا خطرناک ہے۔ پھر

مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں لڑکی کو موت کے منہ سے نکال کر لے آیا ہوں۔ لڑکی دہلی پتلی تھی۔ میرے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ نالے کے قریب پہنچ کر جہاں درخت جھاڑیاں گنجان ہو گئیں ہم بھاگنے کی بجائے تیز تیز چلنے لگے۔ میں نے اندھیرے میں ہی دیکھ لیا تھا کہ ہم رام ناتھ کے تالاب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے نکل گئے ہیں۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ لکشمی دیوی کے پجاری جو بندوقیں لے کر پھر رہے تھے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ شاید رات کو انہوں نے زیادہ تاڑی پی لی تھی اور کہیں بے ہوش پڑے تھے۔ بہر حال میں نے ہیرو کا کردار ادا کر دیا تھا اور لڑکی کو دشمنوں کے زرخے سے نکال کر لے آیا تھا۔

میں صبح سمت کو جا رہا تھا۔ آخر ہم اس جگہ آ گئے جہاں نالہ ندی میں سے نکل کر جنگل میں داخل ہوتا تھا۔ ہم نے ندی کا پل پار کیا تو سامنے کندرگام ریلوے سٹیشن کی بنیاد نظر آنے لگیں۔ ان روشنیوں کو دیکھ کر میرا حوصلہ بلند ہو گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ میں مہذب دنیا میں آ گیا ہوں اور اب ہمار کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔

سٹیشن کی ایک جانب کندرگام کی آبادی میں بھی کہیں کہیں روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہاں پولیس کی چوکی بھی ہوگی اور پولیس ہماری ضرور حفاظت کرے گی۔ کیونکہ کسی انسان کو کسی دیوی کی بھینٹ چڑھانا قتل کے جرم کے برابر تھا۔

میں لڑکی کو لے کر سیدھا کندرگام کے سٹیشن پر آ گیا۔ سٹیشن کی گھڑی رات کا ڈیڑھ بج رہی تھی۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ بنگ آفس کی کھڑیک بند تھی۔ صرف ایک

تم پر آ رہی ہے۔“
میں جلدی جلدی چلا لڑکی رانی کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ گاڑی آ رہی ہے۔
میں خاموشی سے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے ٹکٹ تو لیے
ہیں۔ میں نے لڑکی سے کہا۔

”میں ٹکٹ لے آؤں۔ تم یہیں رہنا۔“

اور تیز تیز قدموں سے چلتا باہر بنگ آفس کے پاس آ گیا۔ بنگ آفس کی
لڑکی کھلی تھی۔ اندر جی چل رہی تھی۔ میں نے کلکتے تک کے تھرڈ کلاس کے دو ٹکٹ لیے اور
اپس آ کر ایک ٹکٹ رانی کو دے دیا۔ ”اے سنبھال کر رکھنا۔“

وہ ڈری ہوئی آواز میں بولی۔ ”پجاری لوگ تو نہیں ہیں؟“

میں نے اسے تسلی دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی تک سب خیر خیریت
ہے۔ پلیٹ فارم ابھی تک خالی پڑا تھا۔ وہاں سوائے ہم لوگوں کے اور کوئی مسافر نہیں تھا۔
ٹھوڑی دیر بعد زور سے ریل گاڑی کی سیٹی کی آواز آئی۔ میں نے خوش ہو کر لڑکی سے کہا۔
”گاڑی آ گئی ہے۔ ابھی بیٹھی رہو۔“

ٹھوڑی دیر بعد کلکتہ ایکسپریس آ کر پلیٹ فارم پر رک گئی۔ ڈیوں میں روشنی ہو
رہی تھی۔ میں رانی کو لے کر تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں ٹھس گیا۔ اکثر مسافر جن میں
عورتیں بھی تھیں، سو رہے تھے۔ میں کھڑکی میں سے برابر باہر پلیٹ فارم کا جائزہ لے رہا
تھا۔ ٹرین بمشکل دو تین منٹ رکی ہوگی۔ گارڈ نے سیٹی دی اور ٹرین چل پڑی۔ جب ٹرین
کاٹی آگے نکل گئی اور اس کی رفتار بھی تیز ہو گئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔

دن کا ہلکا ہلکا اجالا پھیلنے لگا تھا کہ ٹرین کلکتے کے سٹیشن میں داخل ہو گئی۔ میں لڑکی
کو لے کر سٹیشن سے باہر آ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا۔

”تمہارا گھر کہاں ہے۔ میں تمہیں تمہارے ماتا پتا کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔“

لڑکی نے مجھے کسی محلے کا نام بتایا جو میرے لیے اجنبی تھا۔ میں نے اس سے کہا۔

”رکھنے والے کو یہ پتہ بتا دینا۔“

خیال آیا کہ رات کا وقت ہے۔ راستے میں جنگل پڑتا ہے۔

راستہ میرا دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ کہیں اس طرف سے ان لوگوں میں سے کوئی
نکل نہ آئے۔ ان ہی خیالات میں گم میں لڑکی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پلیٹ فارم کا جائزہ میں
لے رہا تھا۔ پلیٹ فارم پر جہاں سٹیشن کے آفس کا دروازہ تھا، اس کے اندر سے دو آدمی باہر
نکلے۔ ان میں سے ایک شاید قلی تھا۔ اس نے کوئی بکاسر پر اٹھا رکھا تھا۔

دوسرا سٹیشن ماسٹریا اس کے دفتر کا کوئی کلرک وغیرہ تھا۔ قلی نے بکس پلیٹ فارم
پر آگے جا کر رکھ دیا۔ دوسرا آدمی واپس دفتر میں چلا گیا۔ ٹھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی نمودار
ہوا۔ ایک جگہ پلیٹ فارم پر ریلوے کی بیڑی کا ایک ٹکڑا لٹک رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر
اس نے لوہے کی موٹی سلاخ سے اسے بجانا شروع کر دیا۔ یہ گھنٹی اس بات کا اعلان تھا کہ
ٹرین آنے والی ہے۔

میں نے تھوڑا سکھ کا سانس لیا۔ لیکن ابھی رات کا وقت تھا۔ کلکتے جانے والی
ٹرین کو صبح جانا تھا۔ میں نے رانی سے کہا کہ میں اس آدمی سے جا کر پتہ کرتا ہوں کہ اس
وقت کون سی گاڑی آ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ گاڑی کلکتے سے آ رہی ہو۔ لڑکی نے سہمی ہوئی
نظروں سے میری طرف منہ کیا اور بولی۔

”دیر نہ لگاتا۔“

میں نے کہا۔ ”میں ایک منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔“
گھنٹی بجانے والا آدمی چلا گیا تھا۔ پلیٹ فارم پر جو آدمی بکس لایا تھا وہ بکس کے
اوپر بیٹھ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا۔

”کلکتہ ایکسپریس آ رہی ہے۔“

میں نے پوچھا۔ ”کیا یہ کلکتے جانے والی گاڑی ہے؟“

اس نے کہا۔ ”ہاں بابو یہ کلکتے جانے والی گاڑی ہے۔“

میں نے کہا۔ ”وہ تو سنا تھا کہ صبح کو آتی ہے۔“

وہ بولا۔ ”تم نے غلط سنا ہے۔ کلکتہ ایکسپریس اسی وقت آتی ہے آج۔ رات“

تھا۔ اس وقت میرا سگریٹ پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ میں نے قبیحی کا ایک سگریٹ لیا اور وہیں کھڑے ہو کر سگریٹ پینے لگا۔

پان والے کی دکان پر ریڈیو لگا ہوا تھا اور بنگلہ گیت گائے جا رہے تھے۔ سڑک پر سے ٹرام گزر گئی۔ میں اسے دور تک جاتے دیکھتا رہا۔ پان سگریٹ والے نے دکان میں اگر بتیاں سلگا رکھی تھیں۔ میں وہیں ایک طرف کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ میرے قریب ہی ایک کالے رنگ کا دبلا پتلا بنگالی بچلی کے کھبے کے ساتھ لگ کر بیڑی پی رہا تھا۔

غیر ارادی طور پر میری نگاہ اس پر پڑی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں چار ہوتے ہی وہ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا۔ سگریٹ ختم کر کے میں نے اسے سڑک پر پھینکا اور واپس جانے کیلئے مڑا تو میں نے دیکھا کہ بچلی کے کھبے کے ساتھ لگ کر کھڑا بنگالی مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔

اس کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے بھی اسے غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ جب میں اچھوت لڑکی رانی کو اس کے ماتا پتا کے حوالے کر کے واپس جانے لگا تھا تو یہ بنگالی جھونپڑی سے کچھ فاصلے پر کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میں نے اسے محض ایک اتفاق خیال کیا اور اس کا خیال دل سے نکال دیا اور اپنے دوست جان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔

جان اس وقت سلولائیڈ کے چھوٹے چوکور ٹکڑے جوڑ جوڑ کر ایک ڈبے میں رکھ رہا تھا۔ میں نے کہا۔

”یار مجھے بے حد نیند آ رہی ہے۔ ساری رات کا جاگا ہوا ہوں۔ میں تو سونے لگا ہوں۔“

”ہوں۔“

وہ بولا۔ ”سو جاؤ سو جاؤ۔“

میں دیوار کے ساتھ جو پرانی چار پائی پتھی رہتی تھی اس پر لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اور پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ شام ہو رہی تھی جب جان نے مجھے جگایا۔ کہنے لگا۔

باہر آ کر ہم نے ایک موٹر رکشالے لیا۔ لڑکی نے بنگلہ زبان میں رکشے والے کو اپنے علاقے کا پتہ بتایا۔ رکشا چل پڑا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ جب ہمارا رکشا شہر کے ایک دور دراز غریبانہ سے گنجان آباد محلے میں داخل ہو گیا۔ لڑکی نے رکشے والے کو اپنی زبان میں ایک طرف چلنے کو کہا۔ ایک جگہ بوسیدہ سی جھونپڑیاں ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک جھونپڑے میں لڑکی کے ماں باپ رہتے تھے۔ لڑکی دوڑ کر اپنی جھونپڑی میں کھس گئی۔ اندر سے لڑکی کے اونچی اونچی رونے کی آواز آنے لگی۔

میں رکشے کے پاس ہی کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بیمار سا آدمی باہر نکلا اور اس کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی تھی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بنگلہ زبان میں جھک جھک کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ لڑکی بھی جھونپڑی کے دروازے میں ساڑھی کے پلو سے آنسو پونچھتی آن کھڑی ہوئی۔ میں نے کہا۔

”رانی کو اب کچھ روز باہر نہ نکلنے دینا۔“ یہ کہہ کر میں رکشے میں بیٹھ گیا اور اسے چت پور روڈ کی طرف چلنے کو کہا۔ سراج بلڈنگ میں آ کر جب میں نے جان کو اپنا سارا ایڈوچر سنایا تو وہ حیرت کی تصویر بنا میری طرف دیکھتا رہا۔ پھر کہنے لگا۔

”اس بار تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مگر آئندہ ایسی حماقت کبھی نہ کرنا۔ تم یہاں کے پجاری لوگوں کو نہیں جانتے۔ لکشمی دیوی کی بھینٹ کا معاملہ ان کے دھرم کا معاملہ ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ خود بھی سلامت واپس آ گئے۔ یہاں کرسٹولہ سٹریٹ میں لکشمی دیوی کا مندر ہے۔ خدا کیلئے اس مندر کے قریب بھی نہ چمکنا۔“

میں نے ہنس کر کہا۔ ”یار ان باتوں کو چھوڑو اور مجھے ناشتہ کراؤ۔ کل سے بیٹھے چنے کھا رہا ہوں۔“

جان ایک پرانے رجسٹر پر کچھ حساب کتاب لکھ رہا تھا۔ کہنے لگا۔ ”میں نے تو ناشتہ کر لیا ہے۔ تم نیچے جا کر ناشتہ کراؤ۔“

سراج بلڈنگ کی دکانوں میں ایک چھوٹا سا بنگلہ ریسٹوران تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر ناشتہ کیا اور پان والے کی دکان پر آ گیا۔ میں کبھی کبھی یونہی شوقیہ سگریٹ پی لیا کرتا

”اٹھو یا رات باقی رات کو سونا۔“

اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میرے لیے اتنی گہری نیند سونا کس قدر ضروری تھا۔ میں بالکل تازہ دم تھا۔ جان نے کہا۔

”میں زکریا سٹریٹ چچا کے پاس جا رہا ہوں۔ انہیں پچھلے پندرہ دنوں کا حساب لکھوانا ہے۔ مجھے وہاں دس بج جائیں گے۔“

میں نے کہا۔ ”میں اس بھوت بنگلے میں اکیلا بیٹھ کر کیا کروں گا۔“

وہ بولا۔ ”پیراڈائز ٹاکنز میں مار دھاڑ کی انگریزی فلم لگی ہے وہ دیکھنے چلے جاؤ۔ وقت بھی گزر جائے گا اور تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی۔“

مجھے اس کی یہ تجویز پسند آئی۔ میں نے کہا۔ ”ٹھیک ہے۔“

اس وقت پہلے شو کا ٹائم ہو رہا تھا۔ میں پیراڈائز سینما کی طرف اور جان زکریا سٹریٹ کی طرف چل دیا۔ سینما ہاؤس ٹرام کار کی روٹ میں تھا اور ہماری بلڈنگ سے دور تھا۔ میں سراج بلڈنگ سے نکل کر سامنے والے ٹرام کار کے سٹاپ پر کھڑا ہو گیا۔ دو تین اور لوگ بھی کھڑے تھے۔

اتنے میں ایک ہلکے نیلے رنگ کی ساڑھی والی عورت بھی آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس عورت نے اپنے بالوں کے جوڑے میں رجنی گندھا کے پھول لگا رکھے تھے۔ اس کا رنگ عام بنگالی عورتوں کی طرح سانولا نہیں تھا بلکہ کھلتا ہوا گورا رنگ تھا۔ میں نے اسے ایک عام نظر سے دیکھا اور جیسے اسے بھول گیا۔ اتنے میں ٹن ٹن کی آواز پیراڈائز ٹرام آ کر ہمارے قریب رک گئی۔ میں بھی اس میں سوار ہو گیا۔

نیلی ساڑھی والی عورت بھی سوار ہو گئی۔ میرے ساتھ والی سیٹ خالی دیکھ کر وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھے ہی مجھے ایوننگ ان پیرس کی خوشبو آئی۔ اس زمانے میں یہ پرفیوم بڑا پاپولر تھی اور اس کی نیلے رنگ کی شیشی ہوا کرتی تھی۔ اس عورت نے بھی یہی پرفیوم لگا رکھی تھی۔ اس کا جسم کسی وقت چلتی ٹرام کے ہلکے ہلکے پھولوں میں میرے ساتھ لگ جاتا تھا۔ پہلی بار ٹرام کے موڑ کاٹتے ہوئے اس کا جسم میرے ساتھ لگا تو

وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ”سوری۔“

پیراڈائز سینما کے سٹاپ پر ٹرام رکی تو میں جلدی سے نیچے اتر گیا کیونکہ ٹرام زیادہ دیر نہیں رکا کرتی تھی۔ لوگ چلتی ٹرام کار میں بھی چڑھ جایا کرتے تھے۔ پیراڈائز سینما میں کافی رش تھا۔

میں عام طور پر سینکڑ کلاس میں بیٹھتا تھا کیونکہ سینکڑ کلاس سینما کی سکریں یعنی پردہ ہمیں سے نہ تو زیادہ دور ہوتی تھی اور نہ اتنا قریب ہوتی تھی کہ سر اٹھا کر فلم دیکھنی پڑے۔ سینکڑ کلاس کی بینک پر بھی قطار لگی تھی۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کر ٹکٹ خریدا اور سینما ہال میں آ کر درمیان والی کرسیوں کی قطار میں بیٹھ گیا۔

ہال تقریباً خالی پڑا تھا۔ اس سینما ہاؤس کا ہال بہت بڑا تھا۔ یہ بھی کسی زمانے میں تھیٹر ہوا کرتا تھا اور یہاں آغا سٹر کا شمیری کے سٹیج ڈرامے ہوا کرتے تھے۔ اتنے بڑے ہال میں لوگ آنا شروع ہو گئے۔ بعض مرد اپنے بال بچوں کو لے کر آئے ہوئے تھے۔ شو ٹھیک ساڑھے چھ بجے شام شروع ہو جاتا تھا۔

پہلی کھنٹی بج چکی تھی۔ تیسری کھنٹی بیجنے کے بعد ہال کی بتیاں گل کر دی جاتی تھیں اور سکریں پر کمرشل یا آنے والی فلموں کی سلائیڈز آنا شروع ہو جاتی تھیں۔ اس کے بعد آنے والی فلموں کے نمونے دکھائے جاتے تھے اور پھر فلم شروع ہو جاتی تھی۔

میں اپنی سیٹ پر بیٹھا اچھوت لڑکی رانی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے اس کی زندگی لکھی ہوئی تھی اور سچ گئی ورنہ اس کا ان ظالموں کی قید سے بچ کر نکل آنا ناممکن تھا۔ تیسری کھنٹی بجی اور سینما ہال کی بتیاں ایک ایک کر کے گل ہو گئیں۔ ہال میں اندھیرا ہو گیا اور سکریں پر سلائیڈز دکھائی جانے لگیں۔

مجھے ان میں سے دو سلائیڈز یاد رہ گئی ہیں۔ ایک سلائیڈ اس زمانے کے مشہور ملٹ ساز ادارے جے پی منگا رام کے بسکٹوں کی سلائیڈ تھی اور دوسری پلٹن چائے کی سلائیڈ تھی۔ سلائیڈز انگریزی اور ہنگل زبان میں تھیں۔ اتنے میں کوئی میرے ساتھ والی خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کوئی خیال نہ کیا اور سلائیڈ پر لکھی ہوئی انگریزی پڑھتا

رہا۔ اچانک مجھے ایونٹک ان پیرس کی خوشبو آئی۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سکرین پر سلائڈوں کی چمک کی وجہ سے ہال میں ہلکی چاندنی کی طرح کی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔

وہی چاندنی کے اس غبار میں میں نے اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی عورت کو پہچان لیا۔ یہ وہی رجنی گندھا کے جوڑے والی عورت تھی جو ٹرام میں میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ عجیب اتفاق ہے۔ یہ عورت ٹرام کار میں بھی میرے ساتھ بیٹھی تھی اور سینما ہاؤس میں وہی میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے سوچا اور اپنی نظریں پردہ سیمیں یعنی سکرین کی طرف کر لیا۔ سکرین پر اب آنے والی فلموں کے نمونے دکھائے جا رہے تھے۔



مجھے یاد ہے ان نمونوں میں ڈائریکٹر محبوب کی مشہور زمانہ فلم ”روٹی“ کا بھی نمونہ تھا جس کی ہیروئن اختر بی بی فیض آبادی تھی۔ نمونوں کے بعد انگریزی فلم شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں ”بیمبئی“ کلکتہ اور مدراس ایسے بڑے شہروں کی ریل گاڑیوں اور سینما ہالوں کی نیٹو کلاس اور انٹر کلاس میں عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ سفر کرتے تھے۔ ریل گاڑیوں کی تو فرڈ کلاس میں بھی مرد عورتیں اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اس بات کو ہرگز معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کو بڑا نارمل سمجھا جاتا تھا۔

میرا مزاج بھی اس زمانے کا مزاج تھا اور میں نے بھی اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی کہ میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں یہ خیال ضرور آیا تھا کہ کیسا اتفاق ہے کہ جو عورت ٹرام کار میں میرے ساتھ بیٹھی تھی وہی عورت سینما ہال میں میرے ساتھ بیٹھی ہے۔ پھر میں بھی اسے ایک اتفاق سمجھ کر بھول گیا۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ ایسا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا تھا۔ فلم شروع ہو چکی تھی۔ جاسوسی فلم تھی۔ اس کا آغاز بھی بڑے حیرت انگیز انداز میں ہوا تھا۔ میں فلم دیکھنے میں محو تھا میرا دایاں ہاتھ سیٹ کے بازو پر تھا۔ عورت کا ہاتھ ساتھ والی سیٹ کے بازو پر تھا۔ اچانک میں نے اپنے ہاتھ پر عورت کے ہاتھ کی دو انگلیاں محسوس کیں۔ میں نے ذرا مڑ کر دیکھا۔ عورت نے جلدی سے انگلیاں ہٹا لیں۔

مجھے عورت کی یہ حرکت بڑی عجیب اور غیر معمولی لگی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ عورت باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایسا کر رہی ہے۔ کچھ وقت خاموشی سے گزر گیا۔ اس

ابھی گئے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں نے بھی آج پیراڈائز میں فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟“

میں نے اسے بتا دیا کہ میں لوئر چٹ پور روڈ پر اپنے ایک دوست کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ بات مجھے اسے نہیں بتانی چاہیے تھی مگر ایک تو وہ میری جوانی کا زمانہ تھا جب آدمی پر جذبات کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے میں شروع ہی سے بہت زیادہ جذباتی تھا۔ ہاٹ ٹائم ختم ہو گیا۔ ہال میں اندھیرا ہو گیا اور فلم دوبارہ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس عورت نے ایک بار پھر میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ایک بار تو مجھے پسینہ آ گیا۔ فلم ختم ہوئی تو سینما ہاؤس سے باہر آ کر اس عورت نے مجھ سے کہا۔

”چلو کہیں چل کر کافی پیتے ہیں۔“

میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اس وقت میرا بھی اس کے ساتھ کافی پینے کو جی چاہ رہا تھا۔ بس یونہی وہ عورت مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایسے حالات میں تو حلقہ بند سے حلقہ بند آدمی بھی ایک بار چکر کھا جاتا ہے اور میرے اندر تو عقل کی پہلے ہی بہت کمی تھی اور صرف جذبات ہی جذبات تھے جو اس عمر میں آگ ہوتے ہیں۔

بونداباندی بھی شروع ہو گئی جس نے ماحول کو اور زیادہ رومانٹک بنا دیا۔ ہم ٹیکسی رکشے کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بولی۔

”ریستوران کو چھوڑو۔ ہوٹل چلتے ہیں وہاں ایک مہمان کو ساتھ لانے کی اجازت ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے کافی بنا کر تمہیں پلاؤں گی۔“

میں پہلے ہی رومانوی فضا میں اڑ رہا تھا۔ اس نے یہ بات کہی تو پرواز کچھ اور بلند ہو گئی اور میں ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔

نیمہ اپنے ساتھ ایک بڑا تھرمس اور پک تک کی چوکور ٹوکری بھی لائی تھی۔ کہنے لگی کہ میں نے اس میں کافی چکن سینڈویچز بنوا کر رکھ لیے ہیں۔

”ہم دوپہر کا کھانا تو چند منگ کے کسی ریستوران میں کھائیں گے یا پھر دریا

کے بعد عورت نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ میرا ہاتھ سیٹ پر جیسے سن ہو کر رہ گیا۔ میرے جسم میں عجیب قسم کا ہیجان سا پیدا ہونے لگا۔ میں نے عورت کے ہاتھ کے نیچے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس کے بعد اس عورت نے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کی۔ جب انٹرول ہوا تو عورت نے میری طرف دیکھ کر ہلکے سے تبسم کے ساتھ بڑی صاف اردو میں کہا۔ ”بڑی دلچسپ فلم ہے۔“

میں نے بھی مسکرائے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ”ہاں۔“

میں عورت سے آنکھیں چار کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ مجھے یوں شرم سی محسوس ہو رہی تھی جیسے مجھ سے کوئی نازیبا حرکت سرزد ہو گئی ہو مگر وہ عورت مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک مہٹا طبعی کشش تھی یا مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عورت مجھے اپنے طلسمی حلقے میں لے رہی ہے۔ کہنے لگی۔

”تم بنگال کے نہیں لگتے۔ پنجاب سے آئے ہو؟“

میں نے کہا۔ ”ہاں پنجاب کے شہر امرتسر سے آیا ہوں۔“

اب وہ مسکرائی تھی۔ کہنے لگی۔

”میں تمہارا رنگ روپ دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ تم پنجابی ہو۔ کیا نام ہے تمہارا؟“

میں نے اسے اپنا نام بتایا۔ کہنے لگی۔

”تم مسلمان ہو۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے۔ میں بھی مسلمان ہوں۔ میرا

نام نسیم ہے۔ دلی میں ہمارا گھر ہے۔ میں دلی کے اندر پرستھا کالج میں پیکچرار ہوں۔ آج کل ہندو دھرم پر ریسرچ ورک کر رہی ہوں۔ اس سلسلے میں بنگال کے مندروں کا جائزہ لینے آئی ہوں، میں یہاں لڑکیوں کے ایک ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں۔“

میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ وہ مسلمان ہو کر ہندو دھرم پر ریسرچ کیوں کر رہی ہے۔ مجھے اس وقت اتنا شعور ہی نہیں تھا۔ دوسرے مجھے اس سے اتنی زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی۔ پھر اس نے خود ہی کہا۔

”جب میں نے تمہیں ٹرام کار کے سپاٹ پر دیکھا تو پتہ نہیں کیوں تم مجھے بڑے

بڑی محبت کی باتیں کر رہی تھی۔ بار بار یہ جملہ دہراتی۔
”ہم ساری زندگی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے اور دوستوں کی طرح

ایک دوسرے سے پیار کرتے رہیں گے۔ مجھے دوستی بہت پسند ہے۔“
اس قسم کی محبت بھری باتوں میں وقت کے گزرنے کا کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ دو گھنٹے
بھی گزر گئے۔ کلکتے کے مضافات میں جانے والی ٹرین تھی اس میں اتنا رش نہیں تھا۔ گھنٹے
سوا گھنٹے میں ہم چندر نگر پہنچ گئے۔ اس وقت تک چندر نگر ابھی فرانسیسی نوآبادی ہی تھی اور
اس چھوٹے سے شہر پر فرانس کا قبضہ تھا۔ ہم سٹیشن سے سیدھا دریا کے گھاٹ پر آ کر ایک
جلد درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ لُنج کا وقت ہو گیا تھا۔ نیسہ نے نوکری میں سے سینڈوچز
نکال کر مجھے بھی پلیٹ میں ڈال کر دیے اور خود بھی لے لیے۔ باسکٹ کے اندر اس نے پانی
کی بھی ایک تھرمس رکھی ہوئی تھی۔ سینڈوچز اس نے بڑے مزے دار بنائے تھے۔ ہم نے
خوب مزے سے لُنج کیا۔ دریا کی طرف سے بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ آسمان پر ادھر
ادھر سے آ کر بادلوں کے ٹکڑے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ میں نے نیسہ سے کہا۔

”کہیں بارش نہ آ جائے۔“

اس نے بادلوں کو ایک نظر دیکھا اور کہا۔

”میرے خیال میں یہ بارش والے بادل نہیں ہیں۔ اور اگر بارش شروع ہو بھی
گئی تو کوئی بات نہیں ہماری پک تک اور زیادہ رومانٹک ہو جائے گی۔“
میں نے کہا۔ ”وہ تو ٹھیک ہے مگر تم قدیم مندروں پر ریسرچ ورک نہیں کر سکو
گی۔“

اس نے ہنس کر کہا۔ ”تم فکر نہ کرو مجھے بارش میں بھی کام کرنا آتا ہے۔“
جب ہم دریا پار کرنے کیلئے چندر نگر گھاٹ پر سے ایک بڑی کشتی میں بیٹھے تو
آسمان پر کافی بادل جمع ہو چکے تھے اور دھوپ کسی وقت نکلتی تھی اور کسی وقت غائب ہو جاتی
تھی۔ کلکتہ شہر میں پہننے والا دریا بے جتنا عرف دریا بے ہنگمی بڑے سکون کے ساتھ بہ رہا
تھا۔ کیونکہ ہوا معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ کشتی میں اور مسافر بھی بیٹھے تھے۔ دریا پار

کنارے بیٹھ کر اپنے لائے ہوئے سینڈوچز سے لُنج کریں گے۔ کیا خیال ہے؟“
میں نے کہا۔

”ہم دریا کنارے بیٹھ کر ہی لُنج کریں گے۔ ریسٹوران میں جانے کی کیا
ضرورت ہے۔“

”میرا بھی یہی خیال ہے۔“ اس نے کہا اور میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ کہنے
لگی۔ ”آج میں بڑی خوش ہوں کہ تمہارے ساتھ سارا دن گزاروں گی۔“

میں نے کہا۔ ”مجھے تم سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔“
وہ ہنس کر بولی۔ ”یہ تو سیتا بن کے جنگل میں پہنچنے کے بعد ہی معلوم ہو گا کہ ہم
میں سے کون زیادہ خوش ہے۔“

اس جملے کے پیچھے جو پوشیدہ معنی چھپے ہوئے تھے میں انہیں بالکل نہ سمجھ سکا۔ اس
وقت میں سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں صرف سمندر کی پرسکون سطح کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے نیچے
جو طوفانی موجیں چھپی ہوئی تھیں ان کی مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ سٹیشن پر آ کر پتہ چلا کہ ٹرین دو
گھنٹے لیٹ ہے۔ ہم پلیٹ فارم پر ہی ایک بیچ پر بیٹھ گئے۔ ویٹنگ روم وہاں سے کچھ فاصلے
پر تھے۔ ہم اس طرف نہ گئے۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ نیسہ نے گہرے کاسنی
رنگ کی ساڑھی پہن رکھی تھی۔ آج اس نے ماتھے پر بندی بھی لگائی ہوئی تھی۔ میں نے
اسے کہا۔

”نیسہ! تم تو مسلمان ہو۔ پھر ماتھے پر ہندو عورتوں کی طرح بندی کیوں لگائی

ہے۔“

وہ مسکرا کر بولی۔
”یہ تو یہاں کا فیشن ہے۔ میں محض فیشن کے طور پر کبھی کبھی لگاتی ہوں اور پھر
اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔“

اس نے پک تک باسکٹ میں سے پلاسٹک کے دو چھوٹے کپ نکالے۔ تھرمس
میں سے ان میں چائے ڈالی اور ہم وہیں بیٹھے چائے پیتے رہے۔ یہ عورت آج مجھ سے

نسیہ نے میرے کندھے کو آہستہ سے تھپتھپاتے ہوئے کہا۔
 ”تم سچ بچے بڑے بہادر لڑکے ہو۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی تمہیں اپنا دوست بنایا
 ہے۔ مجھے بہادر لڑکے بڑے پسند ہیں۔“

اور اس نے دوبارہ آگے آگے چلنا شروع کر دیا۔
 راستے میں ایک جگہ چھوٹی سی برجی دیکھی جو ایک ٹوٹے پھوٹے چہوڑے پر بنی
 رہی تھی اور خستہ حالت میں تھی۔ نسیہ نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
 ”یہ اسی مندر کی ایک مڑھی ہے۔ ہم منزل کے قریب آگئے ہیں۔“

ہم نے ایک چھوٹی سی ندی پار کی۔ ندی کے اوپر بھلے ہوئے درختوں نے ایک
 رنگ سی بنا رکھی تھی ابھی تک ہمیں کوئی جنگلی جانور نہیں ملا تھا۔ درختوں پر کہیں کہیں کسی
 بڑے کے بولنے کی آواز ضرور آ جاتی تھی۔ ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شاید
 لگی میں پہلی بار مجھے اس خاموشی سے ڈر سا آنے لگا۔ میری چھٹی حس بیدار ہو چکی تھی اور
 بے آنے والے خطرات سے خبردار کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں اس عورت کے طلسم
 لہز پر اثر اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔

ایک جنگلی بلا زور سے غراتا ہوا ہمارے قریب سے ہو کر نکل گیا۔ میں ڈر کر
 رت کے ساتھ لگ گیا۔ عورت یعنی نسیہ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔
 ”ڈر گئے؟“

میں جلدی سے الگ ہو کر بولا۔ ”بالکل نہیں۔“
 وہ ہنس پڑی۔ ہم چلتے چلتے جنگل کے وسط میں ایک ایسی جگہ آگئے جہاں
 نیت اتنے قریب قریب ہو گئے تھے اور ان کے درمیان اتنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں کہ
 اداوار ہو رہا تھا۔ مگر وہ عورت اس طرح راستہ بناتے آگے آگے چلی جا رہی تھی جیسے اس
 پہلے سے یہ راستہ دیکھ رکھا ہو اور وہ کئی بار اس راستے سے گزری ہو۔ مجھے پک تک کی
 سی سنبھال کر ان جھاڑیوں میں سے گزرتے ہوئے کافی محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ اس
 نہ جانے کیوں اچانک میرے دل میں خیال آ گیا کہ مجھے اس طرف نہیں آنا چاہیے

پہنچنے کے بعد اس عورت نے ایک جانب جدھر درختوں کے جھنڈے دیکھا اور بولی۔
 ”ٹھیک ہے ہمیں ان درختوں کی طرف جانا ہے۔ میں نے جو نقشہ دیکھا تھا اس
 میں ان درختوں کا جھنڈ صاف طور پر دکھایا گیا تھا۔“
 ہم ایک پگڈنڈی پر چلنے لگے۔

ہمارے ارد گرد کافی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان میں
 سے ہو کر جا رہے تھے۔ آخر ہم درختوں کے جھنڈ کے پاس پہنچ گئے۔ پگڈنڈی اس جھنڈ
 میں سے گزر کر دوسری طرف جاتی تھی۔ آگے درخت زیادہ قریب قریب آگے ہوئے تھے
 اور بادلوں کی وجہ سے وہاں درختوں کے نیچے ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یہ اندھیرا گہرے
 سائے کی مانند تھا۔ نسیہ کہنے لگی۔

”ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں۔“
 وہ مجھ سے آگے آگے چل رہی تھی میں اس کے پیچھے تھا اور میں نے پک تک
 والی بانس کی چھوٹی ٹوکری اٹھا رکھی تھی۔ پانی کا تھمس ٹوکری کے اندر تھا اور چائے والا
 تھمس نسیہ نے اپنے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ کہنے لگی۔
 ”یہاں سے سیتا بن کا جنگل شروع ہو جاتا ہے۔“

ہم سیتا بن کے جنگل میں داخل ہو گئے۔ جنگل میں ہر قسم کے درختوں اور جنگلی
 بیلوں کی اور جنگلی پھولوں کی ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم کافی دیر تک درختوں کے نیچے
 چلتے رہے۔ راستے میں ہمیں کوئی دیہاتی آدمی نظر نہ آیا۔
 میں نے نسیہ سے پوچھا۔

”کیا اس طرف کوئی گاؤں وغیرہ نہیں ہے؟“
 وہ بولی۔ ”ایک گاؤں ہے مگر وہ مندر کے آگے ہے۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا؟“
 اس نے رک کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے بڑی دلیری سے جواب دیا۔ ”بالکل
 نہیں، میں نے ایسے کئی جنگل دیکھے ہیں۔ بسببی کی طرف جو جنگل آتے ہیں وہ اس سے

میں بیٹھ گیا اور اپنے ارد گرد جنگل کو اور کبھی سامنے عجیب و غریب خستہ حال مندر کے ارد گرد سکنے لگا۔ ہم نے تھرس میں سے پانی نکال کر پیا۔ کچھ سینڈوچز کھائے، میں نے نئے کی چھوٹی پیالیاں نکال کر چوترے کے پتھر پر رکھیں تو وہ عورت بولی۔ ”ایک منٹ رو پہلے مجھے اس مندر کے گرد ایک چکر لگا کر اس کا جائزہ لے لینے دو۔ ویسے تو مجھے یقین ہے کہ یہ وہی مندر ہے جس پر مجھے ریسرچ کرنی ہے لیکن ایک بار اس کا جائزہ لینے سے میرا دور ہو جائے گا۔ تم یہیں بیٹھے رہو۔“

وہ مجھے چوترے پر بیٹھا چھوڑ کر مندر کے پیچھے چلی گئی۔



تھا۔

اس عورت نے شاید میرے چہرے سے میرے دل کے خوف کو پڑھ لیا تھا۔ وہ مجھے اپنے قریب کرتے ہوئے بولی۔

”گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچنے ہی والے ہیں۔“

درختوں کا گھٹنا پن تھوڑا تھوڑا ختم ہو گیا اور اب مجھے ان کے درمیان ایک پگڈنڈی بھی نظر آئی۔ کچھ دور چلنے کے بعد میں نے درختوں کے نیچے ایک پرانے مندر کا کھنڈر نما عمارت دیکھی۔ وہ عورت، یعنی نسیم، بڑی خوش ہو کر بولی۔

”نو، ہم رام چندر جی کے قدیم مندر کے پاس آ گئے ہیں۔“

مندر کی عمارت ایک طرف سے بالکل ہی بیٹھ چکی تھی۔ جو دیواریں سلامت تھیں ان کی بھی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھیں اور ان پر گھاس اگ رہی تھی۔ مندر کے کھنڈر کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ سامنے کی جانب ایک شکاف سا بنا ہوا تھا۔ شاید وہاں کوئی دروازہ ہوا کرتا ہوگا۔ جو اب غائب ہو چکا تھا اور دروازے کا صرف شکاف ہی باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بالکل سامنے پتھروں کو جوڑ کر ایک چوترا سا بنایا ہوا تھا جس کے تپا بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کے درمیانی درزوں میں سے سوکھی گھاس باہر نکلی ہوئی تھی۔ نسیم چوترے پر جا کر بیٹھ گئی۔

کہنے لگی۔

”شکر ہے بھگوان۔“

میں نے ذرا سا چونک کر اسے دیکھا تو وہ ہنس کر بولی۔

”تم ضرور حیران ہو رہے ہو گے کہ میں نے مسلمان ہوتے ہوئے بھگوان کا نام کیوں لیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہندو دیومالا پر کام کرتے کرتے مجھ پر اس کا تھوڑا تھوڑا اثر ہو گیا ہے اور کبھی کبھی میرے منہ سے خدا کی بجائے بھگوان کا لفظ نکل جاتا ہے۔“

میں نے تب بھی کوئی خیال نہ کیا اور پلنگ کی ٹوکری رکھ کر چوترے پر اس۔

میں چائے ڈالی اور ہم چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ ابھی میں نے چائے کے دو تین گھونٹ ہی پئے تھے کہ اس عورت نے چوڑے کے نیچے ایک طرف جھاڑیوں میں دیکھتے ہوئے میرا نام لے کر کہا۔

”وہ دیکھ رہے ہو؟“

وہ جھاڑیوں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی۔ میں بھی ادھر دیکھنے لگا۔ ”ادھر کیا ہے؟“

وہ بولی۔ ”شاخوں میں ایک سرخ پھول کھلا ہوا ہے۔ یہ گل مہر کا پھول ہے۔ مجھے گل مہر کے پھولوں سے بڑی محبت ہے۔ پلیز میری خاطر وہ پھول مجھے لا دو گے؟“ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے پھول لانے کیلئے کہتی اور میں نہ جاتا۔ میں نے چائے کی پیالی وہیں رکھ دی اور چوڑے سے اتر کر جھاڑی کی طرف بڑھا۔ یہ گل مہر کے پھولوں کا پودا یا جھاڑی تھی۔ گل مہر کے پھول سرخ ہوتے ہیں اور اس کا جھاڑ چھ سات فٹ سے زیادہ اونچا نہیں ہوتا۔ میں نے سرخ پھول توڑا اور اسے لا کر نسیمہ کو دیا۔ وہ بڑی خوش ہوئی۔ اس نے پھول کو اپنے بالوں میں لگا لیا اور بولی۔

”تم سچ بڑے بہادر ہو۔ تمہارے اندر ایک مرد کی ساری خوبیاں موجود ہیں بھگوان نے چاہا تو.....“

وہ ایک دم رک گئی اور مسکراتے ہوئے بولی۔

”آئی ایم سوری ڈیئر! میرے منہ سے پھر غلطی سے بھگوان کا نام نکل گیا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ خدا نے چاہا تو ہماری دوستی ساری زندگی قائم رہے گی۔“

پھر اس نے میری چائے کی پیالی اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔

”لو اپنی چائے پیو“ میں بھی اپنے چائے پیتی ہوں۔“ اور اس نے اپنی پیالی بھی اٹھالی۔ ہم ایک ایک گھونٹ کر کے چائے پینے لگے۔ درختوں کے درمیان سے کہیں کہیں آسمان دکھائی دے رہا تھا۔ دھوپ بالکل نہیں تھی۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ عورت مسلسل میری طرف دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے پر بڑا بے معلوم سا تبسم تھا۔

ایک عجیب سا نا ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ پہلے کسی پرندے کے بولنے کی آواز کسی وقت آ جاتی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہوا بھی بند تھی۔ کوئی پتا تک نہیں مل رہا تھا۔ دس پندرہ منٹ گزرنے کے بعد وہ عورت یعنی نسیمہ مندر کے کھنڈر کی دوسری طرف سے درختوں جھاڑیوں کے درمیان سے آتی نظر آئی۔ وہ مسکرا رہی تھی آ کر میرے پاس بیٹھ گئی کہنے لگی۔

”میں نے تسلی کر لی ہے۔ یہ وہی مندر ہے یہاں ایک پیالی چائے پیتے ہیں۔ اس کے بعد تم اسی جگہ بیٹھنا میں اس مندر کو اندر سے جا کر ایک نظر دیکھوں گی اور ضروری نوٹس لینے کے بعد ہم سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے واپس چل دیں گے۔“

میں تھرمس سے چائے نکال کر پیالیوں میں ڈالنے لگا۔ اس ویران سے جنگل میں چائے پینے کا بے حد لطف آیا۔ چائے بھی تھرمس میں پڑی رہنے کی وجہ سے ابھی تک گرم تھی۔ جب ہم ایک ایک پیالی چائے پی چکے تو اس عورت نے تھرمس کھولتے ہوئے کہا۔

”ایک ایک پیالی اور پنی چاہیے اس سے ہماری رہی سہی تھکان بھی اتر جائے گی۔“

میں نے کوئی اعتراض نہ کیا کہ وہاں چائے نے واقعی بڑا مزہ دیا تھا۔ اور سفر کی تھکان کافی دور ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اپنی پیالی میں چائے ڈالنے کے بعد میری پیالی

تھا۔ بند آنکھوں کے اندر سفید دائرے گھوم رہے تھے یہ دائرے گھومتے گھومتے سفید سے نیلے ہو گئے پھر سرخ ہو گئے پھر غائب ہو گئے اور اندھیرا اچھا گیا۔ میں نے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی مگر میں انہیں ہلانہ سکا۔ میرا سارا بدن جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ مگر بے ہوش اس طرح ہوا تھا کہ میرے کانوں میں اس عورت نیسہ کی آواز برابر آ رہی تھی۔ وہ مجھے آہستہ آہستہ میرا نام لے کر پکار رہی تھی۔ ”کیا تم سو گئے ہو؟ تم میری آواز سن رہے ہو؟“ میری زبان بند تھی میں بول نہیں سکتا تھا اس عورت کا مجھ پر کھل چکا تھا۔ اس نے مجھے چائے میں کچھ پلا دیا تھا۔ جب میں اس کیلئے گل مہر کا پھول لینے گیا تھا تو اس وقت اس نے میری پیالی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ مجھے اس کی آواز مدھم مگر پوری طرح سے سنائی دے رہی تھی۔

مجھے اس کے جسم کا اس کے ہاتھوں کا لمس بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر میں اپنے ہاتھ چہر ہلانے سے قاصر تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے چہوڑے پر لٹا دیا ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کے چہوڑے سے اترنے کی آواز آئی۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں سوپنے لگا کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔

میری سمجھ میں ابھی تک یہ معنی نہیں آیا تھا کہ اس نے مجھے کس لیے بے ہوش کیا ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک مرد اور ایک عورت کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ آواز قریب آئی تو میں نے اس عورت نیسہ کی آواز کو پہچان لیا، وہ اپنے ساتھ کسی مرد کو لے آئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر باتیں کرنے لگے۔ نیسہ نے کہا۔

”میں نے اپنا کام کر دیا ہے اب آگے جو کچھ کرنا ہو گا تم لوگوں کو کرنا ہو گا۔“

مرد کی آواز آئی۔

”رانی اندوتم نے لکشمی میا کے دشمن کو ہمارے قدموں میں ڈال کر اپنا کرتوے کو پوری طرح بھایا ہے اس کے بدلے لکشمی دیوی تمہیں جنم جنم کے چکر سے مکت کر دے گی۔“

میں نے چائے کا گھونٹ پینے کے بعد کہا۔ ”تمہارا چہرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔“ وہ ہنسنے لگی۔ تم بھی مجھے بڑے اچھے لگتے ہو میرے ساتھ دلی چلو گے؟ تم اب انکار نہیں کر سکتے تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو۔“ میں نے کہا۔ ”ضرور چلوں گا۔“

میں بھی مسکرانے لگا تھا۔ مجھے اپنے اندر سرور کی ہلکی ہلکی سی لہر دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ جنگل میں اپنی دوست عورت کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے اور باتیں کرنے کا اثر تھا۔ لیکن چائے کے مزید تین چار گھونٹ پینے کے بعد اس سرور میں اضافہ ہو گیا۔ جب میں نے چائے کی پیالی خالی کر کے نیچے رکھی تو سرور کی یہ کیفیت ہلکے سے نشے کی حالت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ عورت بدستور میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ کہنے لگی۔

”تمہیں ضرور ہلکا ہلکا سرور محسوس ہو رہا ہوگا۔“

میں نے کہا۔ ”ہاں۔“

کہنے لگی۔ ”مجھے بھی ہو رہا ہے یہ اس جنگل کی ہوا کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ سیٹا بن کے تالاب کے کنارے جو اس مندر کی دوسری طرف ہے ایسے درخت اگتے رہتے ہیں جن کی شاخوں اور پتوں سے نشے کے بخارات نکل نکل کر ہوا میں شامل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ نشہ اس ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہے۔“

لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ وہ نشے یا سرور کی کیفیت میں نہیں تھی وہ بڑے سکون سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ میرا سر اس نشے کی کیفیت میں آہستہ آہستہ ڈولنے لگا۔ میں گھبرا گیا اور اس عورت سے کہا۔

”مجھے چکر آ رہے ہیں۔“

اس نے مجھے تھام لیا۔ کہنے لگی۔ ”اگر نیند آتی ہے تو سو جاؤ۔“

میرا سر اپنے آپ بند ہو رہی تھی۔ میں نے انہیں کھلا رکھنے کی کئی بار کوشش کی مگر میں کامیاب نہ ہوا اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ میرا دماغ ابھی تک گھوم رہا

مجھے پھکڑا گاڑی کے پیہوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ ساتھ ہی دو تین آدمیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ پھکڑا گاڑی چبوترے کے پاس آ کر رک گئی جو مرد پہلے مکار عورت رانی اندو سے باتیں کر رہا تھا اس نے کہا۔ ”اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈال دو۔“

دو تین آدمیوں نے مجھے اٹھایا اور پھکڑا گاڑی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد گاڑی چل پڑی۔ مجھے نہیں معلوم گاڑی کے آگے تیل جتا ہوا تھا یا گدھا گاڑی آہستہ آہستہ ہچکولے کھاتی ایک طرف چل پڑی۔ یہ لوگ مجھے وسطی جنگلوں میں کسی جگہ واقع بھدر گام کے کسی منٹھ میں لے جا رہے تھے جہاں مجھے کسی مورتی کے آگے قتل کر دینا تھا۔



تب مجھ پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ یہ عورت مسلمان نہیں تھی ہندو تھی اور اس کا نام رانی اندو تھا۔ اس کو ایک سازش کے تحت میری تلاش میں اور مجھے پکڑنے کیلئے بھیجا گیا تھا۔ اندو رانی نے کہا۔ ”دلکشی میا تو مجھے جنم جنم کے چکر سے مکتی دلانے کا جو وردھان دے گی وہ میرے سو بھاگ ہیں لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کے عوض دو ہزار روپے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ بھی تمہیں پورا کرنا ہوگا۔“

مرد نے کہا۔ ”وہ صبح ہوتے ہی تمہارے گھر پہنچا دیے جائیں گے ابھی ہمیں دلکشی میا کے اس دشمن کو جس نے دیوی کی بھینٹ کو اس کے استھان سے چھینا تھا یہاں سے بھدر گام کے جنگل والے منٹھ میں پہنچانا ہوگا جہاں بڑے پجاری جی کے آنے کے بعد اسے دلکشی میا کی مورتی کے آگے قتل کرنے کے بعد مورتی کو اس کے خون سے نہلانا ہوگا۔ اس کے بعد ہی ہم سب دلکشی دیوی کے سراپ (بد دعا) سے بچ سکیں گے۔“

عورت نے کہا۔ ”تم اپنے آدی بلا کر اسے یہاں سے لے جاؤ“ میں یہاں سے واپس نکلنے درگا دیوی کے دریا کنارے والے مندر میں چلی جاؤں گی۔“

مرد نے کہا۔ ”ہمارا آدی تمہیں وہیں آ کر صبح دو ہزار روپے دے جائے گا۔ تھوڑی دیر یہاں ٹھہرو میں پھکڑا گاڑی اور اپنے آدمیوں کو لے کر آتا ہوں۔ ہم نے سب کام تیار کر رکھا تھا۔“

اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ آدی چلا گیا تھا مکار عورت شاید میرے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ کسی کسی وقت مجھے اس کے آہستہ سے کھانسنے کی آواز آ جاتی تھی۔ پھر مجھے ایسی آواز آئی کہ وہ پیالیاں وغیرہ بانس کی ٹوکری میں ڈال رہی تھی۔ میں بولنا چاہتا تھا میں چیخ چیخ کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا ہے مگر میری زبان بند تھی۔ میں صرف سن سکتا تھا۔ نہ بول سکتا تھا نہ ہاتھ پاؤں اور جسم کو ہلا سکتا تھا۔ مجھے اندھے جذبات میں بہہ جانے اور عقل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دینے کی سزا مل رہی تھی۔ میں نے صدق دل سے اللہ کے حضور دعا مانگی کہ یا اللہ پاک مجھے اس عذاب سے بچالے۔ میں آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔

طرح سن ہو چکا تھا۔ خدا جانے اس عورت نے مجھے چائے میں کیا پلا دیا تھا۔ میرا ذہن برابر کام کر رہا تھا اور میں سوچ بھی رہا تھا اور مجھے گزرے ہوئے سارے واقعات یاد بھی آ رہے تھے۔

اس کے بعد ایسا ہوا کہ میرے ذہن پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں سو گیا ہوں کیونکہ باہر کی آوازیں سنائی دینی بند ہو گئی تھیں۔ کچھ معلوم نہیں کہ میں کب تک سویا رہا۔ پوری رات سویا رہا کہ پورے دوسرے دن بھی سوتا رہا۔ جب میری سماعت واپس آئی اور میرا ذہن بیدار ہو گیا تو مجھے موٹر کے انجن کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے کسی موٹر کار یا جیپ میں ڈال کر کسی دوسری جگہ لے جایا جا رہا تھا۔ جیپ سڑک پر ہموار چل رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی کچی سڑک تھی۔ کافی دیر کے بعد جیپ ایک طرف کو مڑ کر شاید کچی سڑک پر تھوڑا اچھل اچھل کر چلنے لگی۔ یہ حالت پندرہ بیس منٹ تک رہی۔ اس کے بعد جیپ کی رفتار کافی ہلکی ہو گئی اور اسے کم چکولے لگنے لگے۔ میرے اوپر جو تریپال ڈالی ہوئی تھی اس کے ساتھ درختوں کی شاخوں کے ٹکرانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ شاید ہم ایک بار پھر کسی جنگل سے گزر رہے تھے۔

تریپال پر بارش کی رم جھم کی آواز رک گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ بارش رک گئی تھی۔ گاڑی بہت دیر تک ہلکے ہلکے چکولوں کے ساتھ چلتی رہی۔ پھر وہ ایک جگہ رک گئی۔ یہاں کچھ اور آدمیوں کے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ اتنی دیر میں مجھے وہ لوگ تیل گاڑی میں سے اٹھا کر کسی جگہ لے گئے۔ اتنا اندازہ ہوا کہ وہ کوئی زینہ اتر کر نیچے گئے تھے۔ شاید یہ کوئی قید خانہ تھا جہاں مجھے لا کر ایک چارپائی پر ڈال دیا گیا تھا۔ خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد مجھ پر بھی غنودگی سی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ میری غنودگی گہری بے ہوشی میں تبدیل ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا میری نیند کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ میں ہاتھ پاؤں ہلا سکتا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو میری آنکھیں بھی کھل گئیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی کونڈری تھی۔ کونڈری کی دیوار کے طاق میں دیا روشن تھا۔

میں صرف سن سکتا تھا اس کے علاوہ مجھے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چھٹرا گاڑی کے ہچکولے محسوس ہوتے تھے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی ابھی تک جنگل میں ہی جا رہی ہے۔ کتنی ہی دیر تک گاڑی چلتی رہی۔ پھر مجھے بارش کی آواز سنائی دینے لگی۔ تیل گاڑی کے اوپر کوئی تریپال وغیرہ ڈال کر مجھے شاید ڈھانپ دیا گیا تھا۔ یہ آواز بارش کی بوندوں کے تریپال پر گرنے کی تھی۔ ٹیپ کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تیل گاڑی کے پہیوں کی چرخ چوں بھی سنائی دے رہی تھی۔ کسی آدمی کے بولنے کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ کچھ پتہ نہیں تیل گاڑی ایک کھنٹے تک چلتی رہی کہ دو گھنٹوں تک چلتی رہی۔ ایک جگہ پہنچ کر تیل گاڑی رک گئی۔ لاری کے ہارن کی آواز سنائی دی اور پھر ایسے لگا جیسے کوئی لاری تیل گاڑی کے پیچھے آ کر رک گئی ہے۔ دو تین آدمیوں کی کچھ قاصدے پر سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ تیل گاڑی کسی ریلوے پھانک کے پاس آ کر رک گئی تھی جو بند تھا۔ کچھ دیر کے بعد ریل گاڑی کے شور مچا کر گزرنے کی آواز آئی۔ جب یہ آواز دور نکل گئی تو ریلوے پھانک کھلا گیا اور ہماری تیل گاڑی پھر سے چل پڑی۔

یہ سفر جہاں تک میرا اندازہ ہے پانچ گھنٹے تک جاری رہا۔ اب گاڑی کو بہت کم ہچکولے لگ رہے تھے اور وہ قدرے ہموار سڑک پر جا رہی تھی۔ کچھ دیر تک مجھے لاریوں کے گزرنے کی آوازیں بھی آتی رہیں۔ اس کے بعد پھر خاموشی چھا گئی اور گاڑی کو ہچکولے لگنے شروع ہو گئے۔ گاڑی پھر کسی جنگل میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے دو تین بار کوشش کی کہ آنکھیں کھولوں مگر میرے پہیوں نے ذرا بھی حرکت نہ کی۔ میرا باقی کا جسم بھی اتنا

آدمی مورتی کے پاس بیٹھا خدا جانے کیا بولتا جا رہا تھا۔ مجھے پکڑ کر اس کے پاس لے جایا گیا۔ مہنت نے کہا۔

”اس کو بیٹھا دو۔“

مجھے اس سے ایک گز کے فاصلے پر بیٹھا دیا گیا۔ مہنت نے وہ تھالی جس میں بیجے جل رہے تھے اٹھائی اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ لاپتے ہوئے تھالی کو میرے سر کے اوپر ٹھانے لگا۔ دس بارہ مرتبہ میرے سر کے اوپر تھالی کو گھمانے کے بعد وہ مورتی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور جو آدمی مجھے پکڑ کر لائے تھے ان کی طرف دیکھ کر بولا۔

”اس کو لے جا کر بند کر دو۔ آدھی رات کے بعد چند رمان آکاش پر نکلے تو اس بچہ کو دیوی ماتا پر قربان کر دیا جائے گا۔“

میں نے دیکھ لیا تھا کہ مورتی کے آگے سنگ مرمر کا ایک بڑا پتھر رکھا ہوا تھا جس پر ایک کلہاڑی اور دو چھریاں رکھی ہوئی تھیں۔ ان چھریوں سے آدھی رات کے بعد مجھے زخ کیا جانے والا تھا۔ انہیں دیکھ کر میرے اندر دہشت کی لہریں دوڑنے لگی تھیں۔

مجھے تہہ خانے میں واپس لا کر کے چار پائی پر ڈال کر زنجیر سے باندھ دیا گیا۔ دونوں آدمی چلے گئے اور تہہ خانے کا دروازہ بند کر کے تالا بھی لگا گئے۔ اس کا مطلب تھا کہ میری زندگی میں بظاہر چند ایک گھنٹے ہی باقی رہ گئے تھے۔ پہلے تو مجھ پر موت کا خوف ماری ہو گیا اور میرا جسم ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر میں ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور دعا مانگنے لگا کہ یا اللہ پاک میرے گناہ معاف فرما دے۔ زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ مجھ پر تم فرما اور مجھے ان قاتلوں سے نجات دلا دے۔ دعا مانگنے کے بعد مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا۔ لیکن موت مجھے سامنے نظر آ رہی تھی۔ موت میرے سر سے ابھی ٹلی نہیں تھی۔

جیسے جیسے رات گہری ہوتی جا رہی تھی میرے اندر موت کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ غیب سے اگر کوئی مدد آنے والی تھی تو اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ لیکن بظاہر میرے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ طاق میں دیا جل رہا تھا۔ کوٹھڑی میں موت کا سنانا طاری۔ میں زنجیر سے بندھا چار پائی پر بیٹھا تھا۔ کسی بھی وقت موت کا فرشتہ زینے میں نمودار

سامنے ایک زینہ اوپر کو جاتا تھا۔ میں اٹھ کر زینے کی طرف جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میرا ایک پاؤں چار پائی کے ساتھ زنجیر سے بندھا ہوا تھا۔ زنجیر لوہے کی تھی اور جہاں اس کا سرا چار پائی کے ساتھ بندھا تھا وہاں ایک تالا بھی لگا ہوا تھا۔ یعنی اگر میں زنجیر کو کھولنا بھی چاہوں تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سر کے پتھر بالکل ختم ہو چکے تھے۔ جسم کی طاقت بھی واپس آ گئی تھی۔ اس مکار عورت نے مجھے چائے میں ملا کر جو سفوف پلایا تھا اس کے اثرات بالکل ختم ہو چکے تھے۔ اوپر سے کسی کے زینے پر سے اترنے کی آواز آئی۔ میں چار پائی پر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ یہ دو آدمی تھے۔ ان کی رنگت کالی تھی۔ ایک نے ہاتھوں میں بندوق پکڑی تھی اور ایک قدم پیچھے تھا۔ دوسرے کے ہاتھوں میں تھالی تھی جس میں چاول تھے جن کے اوپر زرد رنگ کی دال ڈالی ہوئی تھی۔ اس آدمی نے کہا۔

”اٹھو یہ کھا لو۔“ میں آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ اس نے تھالی میرے ہاتھوں میں تھالی اور بندوق والے آدمی کے ساتھ زینہ چڑھ کر چلا گیا۔ اوپر سے مجھے دروازے کے بند ہونے اور باہر سے تالا لگنے کی آواز آئی۔ مجھے اس نتیجے پر پہنچنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ بھدر گام کا وہ جنگل ہے جہاں مجھے کسی دیوی کی مورتی کے آگے ہلاک کر کے مجھ سے لکشی دیوی کی بھینٹ کو بھگا کر لے جانے کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں سے میرے لیے اپنی جان بچانا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ صرف خدا ہی غیب سے میری مدد کا کوئی سامان پیدا کر سکتا تھا۔ بظاہر میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔

وقت کا تو مجھے کوئی اندازہ تھا ہی نہیں۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ اس کوٹھڑی میں قید میں پڑے مجھے کتنے دن کتنی راتیں گزر گئی تھیں۔ پھر ایک روز مجھے قید خانے کی کوٹھڑی سے نکال کر باہر لایا گیا۔ باہر آ کر میں نے دیکھا کہ درخت ہی درخت تھے۔ درختوں کے اوپر آسمان پر دن کی روشنی گلابی ہو رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا جس کے موٹے تنے کی دونوں جانب مشعلیں روشن تھیں۔ درخت کے آگے چھوٹے سے چبوترے پر کسی دیوتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ مورتی کے آگے تیل کے ٹینا چار دیے ایک تھالی میں جل رہے تھے۔ ایک بچاری یا مہنت ٹائپ کا موٹے پیٹ والا

ہیں اس میں سے کیسے گزر سکتا تھا۔ کہیں ترشٹانے میرے ساتھ سنگین مذاق تو نہیں کیا؟ کہیں
دشنامی جگہ یہ کوئی دوسری بدروح تو نہیں تھی۔ طرح طرح کے خیال آرہے تھے۔

پھر سوچتا کہ اگر ترشٹانے میرے ساتھ مذاق کیا ہوتا تو وہ میرا پاؤں زنجیر سے
اذاونہ کرتی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹولا۔ اس پر دونوں ہاتھ پھیرے۔ اسے
مدر کی طرف دبایا۔ دیوار پتھر کی طرح تھی۔ مجھے خیال آ گیا کہ ترشٹانے کہا تھا کہ جب
میں چلی جاؤں تو تم دیوار میں سے گزر جانا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ گزرنے سے پہلے
دیوار کو ٹٹول کر ہاتھ لگا کر اسے دبا کر دیکھنا۔

میں نے دیوار میں سے گزرنے کی اداکاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ زیادہ سے
یادہ یہی ہو سکتا تھا کہ میں دیوار سے ٹکرا جاتا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دیوار کی
رف اس طرح بڑھا جیسے میں دیوار میں سے نہیں بلکہ کسی دروازے میں سے گزرنے والا
ہوں۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ دیوار میں سے کیسے گزر گیا۔ یہ کوئی جادو ٹونہ ہی ہو سکتا
ہے۔ میں دیوار کے ساتھ بالکل نہیں ٹکرایا تھا۔ میں نے جو قدم بڑھایا تھا وہ دیوار میں سے
بے گزر کر دوسری طرف چلا گیا جیسے دروازے میں سے گزرا ہو۔ میں نے آنکھیں بند
کیں۔ میں نے دوسرا پھر تیسرا اور چوتھا قدم اٹھایا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا میرے چہرے کو لگی
میں نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ منظر بدل گیا ہے۔ جہاں مجھے لایا گیا تھا
وہ جگہ نہیں ہے۔ میرے دائیں بائیں دو ٹیلے تھے جن کی ڈھلانوں پر اندھیرا چھایا ہوا
ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ سا راستہ بنا ہوا تھا۔ میں جتنی تیز چل سکتا تھا اس راستے پر
نہ لگا۔ میں اس خیال سے تیز چل رہا تھا کہ کہیں میرا اندازہ غلط نہ ہو اور یہ وہی جگہ نہ ہو
جس میں میرے دشمنوں نے مجھے قید میں ڈال رکھا تھا۔ اگر یہ وہی جگہ تھی تو آس پاس کوئی نہ
کی مسلح پہرے دار ضرور موجود ہوگا۔ میں ٹیلوں کے درمیان تنگ راستے میں سے نکل
پا۔

میرے سامنے ایک مختصر سا کھلا میدان تھا۔ وہاں کوئی درخت نہیں تھا۔ جھاڑیاں
جھاڑیاں تھیں۔ میں میدان میں سے بھی گزر گیا۔ آگے پھر اونچے اونچے درختوں کا

ہو کر مجھے باہر مورتی کے سامنے لے جا کر ہلاک کر سکتا تھا۔ میں بے بسی کے عالم میں بیڑ
سامنے والی دیوار کو یونہی نکلے جا رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے دیوار میں کوئی چیز حرکت کر
رہی ہے۔ میں نے اس پر نظریں جمادیں۔ پہلے میں یہی سمجھا کہ شاید کوئی سانپ ہے جو
جنگل میں سے اندر آ گیا ہے اور اب دیوار پر رینگ رہا ہے۔ حرکت کرتی ہوئی چیز نے
ایک انسانی سائے کی شکل اختیار کر لی۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔

اچانک انسانی سایہ دیوار سے اتر کر زمین پر آ گیا۔ میں ڈر گیا کہ یہ کوئی آسیب
ہے۔ جلتے ہوئے چراغ کی دھیمی روشنی میں سائے کے نقش صاف ہونے لگے اور پھر میں
نے اس انسانی سائے کو پہچان لیا۔ یہ وہی میری ہمدرد بھئی ہوئی بدروح ترشٹا تھی۔ آج وہ
میری طرف دیکھ کر مسکرائی رہی تھی خاموش تھی۔ وہ وہیں دیوار کے ساتھ کھڑی مجھے دیکھ
رہی تھی۔ پھر مجھے اس کی سرگوشی نما آواز سنائی دی۔ کہنے لگی۔

”جہاں میں کھڑی ہوں۔ میرے جانے کے بعد دیوار میں اس جگہ میں سے نکل
جاؤ۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن میں مجبور ہوں۔ اس سے زیادہ نہیں
کر سکتی۔ میں دیوتا کی مورتی کے منہ سے اس کا شکار چھین رہی ہوں۔ مجھے اس کا بددعا
لگے گی۔ مگر میں تمہیں ان وحشی درندوں کے ہاتھوں مرتا نہیں دیکھ سکتی۔ میرے گناہوں میں
ایک اور گناہ کا اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے اس کی پروا نہیں۔ میں تمہاری محبت کے ہاتھوں
مجبور ہوں۔“

اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ترشٹا میرے دیکھتے دیکھتے انسانی جسم سے سائے
میں تبدیل ہو گئی۔ پھر یہ سایہ دیوار میں جذب ہو گیا۔ ترشٹا جا چکی تھی۔ میں کچھ دیر
ساکت سا ہو کر بیٹھا رہا۔ پھر خیال آیا کہ میرا ایک پاؤں زنجیر سے بندھا ہوا ہے میں اٹھ کر
دیوار کے پاس کیسے جا سکتا ہوں۔ میں نے اپنا لوہے کی زنجیر میں جکڑا ہوا پاؤں ہلایا تو زنجیر
میرے پاؤں میں سے نکل گئی۔ میرا پاؤں آزاد ہو چکا تھا۔

میں جلدی سے اٹھ کر دیوار کے پاس آ گیا۔ دیوار پتھر کی تھی۔ اس میں کوئی درز
تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ لگا کر دیکھا۔ پتھر کی طرح سخت تھی۔

کی امید تھی۔ میں بائیں طرف مڑ کر درختوں میں چل پڑا۔ دونوں میرے پیچھے مجھ سے دو تین فٹ کے فاصلے پر چلے آ رہے تھے۔ کچھ دور چلنے کے بعد مجھے اندھیرے میں درختوں کے نیچے ایک لائٹن چلتی ہوئی دکھائی دی۔ یہ لائٹن ایک کوٹھڑی کے باہر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک جانب کچھ گھوڑے کھڑے تھے۔ ان آدمیوں نے مجھے کوٹھڑی کھول کر اندر دکھایا اور دروازہ بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ کوٹھڑی میں گھپ اندھیرا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی درزوں میں سے اندر آتی ہوئی لائٹن کی مدہم روشنی میں مجھے کوٹھڑی کی دیوار کے ساتھ بڑی ہوئی ایک خالی چارپائی نظر آئی۔ میں اس پر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ دیکھیں تقدیر مجھے کیا دکھاتی ہے۔

جو دو آدمی مجھے وہاں لائے تھے وہ چلے گئے تھے۔ باہر خاموشی تھی۔ پھر باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازے کی کنڈی کسی نے اتاری اور دروازہ کھول دیا۔ ایک آدمی لائٹن لیے کوٹھڑی میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک اونچا لمبا بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی تھا جس کے کندھے سے بندوق لٹک رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں دو مسلح آدمی تھے جو شاید اس کے باڈی گارڈ تھے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے آدمی نے میرے قریب آ کر مجھے گھور کر دیکھا اور رعب دار آواز میں پوچھا۔

”تم ایس پی سکند لال کے آدمی ہو؟“

میں نے کہا۔ ”میں کسی سکند لال کو نہیں جانتا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا۔ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ آپ کے آدمیوں نے مجھے پکڑ لیا۔“
 مونچھوں والے آدمی نے اس آدمی کی طرف دیکھا جس نے لائٹن پکڑ رکھی تھی۔
 وہ آدمی بولا۔ ”رانا جی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ پولیس کا جاسوس ہے۔“
 مونچھوں والے آدمی نے اس سے پوچھا۔ ”تو پھر اس کا کیا کریں؟“



سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب میں کافی اندر نکل گیا اور کوئی آدمی میرے پیچھے نہ آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ ترشٹانے اپنے طلسم کی مدد سے مجھے میری موت کے مقام سے نکال کر کسی دوسری جگہ پہنچا دیا ہے۔ میں اندھیرے میں درختوں کے نیچے چلا جا رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ میری دائیں جانب اندھیرے میں جھاڑیاں حرکت کر رہی ہیں۔ میں نے رک کر ادھر دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں چل پڑا۔ پھر مجھے میری بائیں جانب جھاڑیوں میں حرکت کا احساس ہوا۔ میں خوفزدہ ہو کر رک گیا۔ غور سے بائیں جانب دیکھا۔ وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ جھاڑیاں اندھیرے میں بالکل ساکت تھیں۔ میں پھر چلنے لگا۔ چند قدم چلا ہوں گا کہ اب مجھے اپنی دونوں جانب جھاڑیوں میں حرکت کا احساس ہوا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میری دونوں جانب کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔

میرے جسم میں خوف و دہشت کی ٹھنڈی لہریں اٹھنے لگی تھیں۔ اتنے میں میرے دائیں جانب سے کسی نے بھاری مردانہ آواز میں پوچھا۔
 ”کدھر جا رہے ہو؟“

اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا۔ دونوں جانب کی جھاڑیوں میں سے دو انسانی سائے نکل کر میرے سامنے آ گئے۔ وہ مجھ سے چھ سات فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ اندھیرے میں مجھے ان کی لال آنکھیں انگاروں کی طرح نظر آ رہی تھیں۔ ایک نے پوچھا۔

”کون ہو تم؟“

میں نے اتنی دیر میں اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ ایک دوست کے ساتھ شکار کھیلنے آیا تھا۔ جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں۔ ان دونوں کی بندوقیں میں نے دیکھ لی تھیں جو انہوں نے ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں۔ دوسرے آدمی نے کہا۔
 ”بائیں طرف مڑ کر ہمارے آگے آ جا۔ بھاگنے کی کوشش کی تو گولی مار دیں گے۔“

”مے“

موت کے منہ سے نکل کر موت کی جھولی میں گر گیا تھا۔ یہاں تھوڑی بہت بچتے

وہ مجھے یرغمال بنا کر میرے رشتے داروں سے پیسہ وصول کرنا چاہتے تھے۔ آج شام میں موقع پا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس وقت سے جنگل میں بھٹک رہا ہوں کہ کوئی راستہ باہر نکلنے کا مل جائے تاکہ میں ٹرین یا کسی لاری کو پکڑ کر واپس نکلے چلا جاؤ۔“

ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا۔

”تم ہندو ہو کہ مسلمان؟“

میں نے کہا۔ ”میں مسلمان ہوں اور پنجابی ہوں۔“

ڈاکوؤں کا سردار خاموشی سے چائے پیتا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے میرے بیان پر یقین آ گیا ہے۔ اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر بولا۔

”یہ لڑکا بڑا چالاک لگتا ہے۔ مجھے یقین ہے اسے پولیس نے ہماری ٹوہ لگانے کیلئے بھیجا ہے۔“

اس کا آدمی کہنے لگا۔

”رانا جی! ہمیں تو پہلے ہی یقین تھا۔ حکم دیں! ابھی اس کو مار کر دبا دیتے ہیں۔“

رانا جی نے کہا۔

”ایسا کرو اسے لے جا کر بند کر دو۔ جس روز یہاں سے ڈیرہ اٹھائیں گے اس کو مار کر دبا دینا اور ایس بی مکنڈ لال کو پرچی لکھ کر بھیج دینا کہ ہم نے تمہارے آدمی کو فلاں جگہ دبا دیا ہے آ کر لاش لے جاؤ۔“

میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک بار پھر موت میرے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے اس کوٹھڑی میں لا کر بند کر کے باہر پہرہ لگا دیا گیا۔ ایک آدمی مجھے کچھ کھانے کو دے گیا۔

انہوں نے مجھ پر اتنی مہربانی ضرور کی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے تھے۔ میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد دروازے کی جھریوں میں سے باہر دیکھ لیتا تھا۔ باہر ایک کی بجائے دو مسلح ڈاکو چار پائیوں پر بیٹھے میری نگرانی کر رہے تھے۔

وہ آدمی کہنے لگا۔ ”اس نے ہمارا خفیہ ٹھکانہ دیکھ لیا ہے۔ اس کو مار ڈالتے ہیں۔“
موتیوں والے رانا نے میری طرف دیکھا اور بولا۔

”اس کو بند کر کے پہرہ لگا دو۔ سویرے اس سے پوچھ گچھ کریں گے۔“

وہ مجھے کوٹھڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ میں نے باقی رات کوٹھڑی کے اندر گزار دی۔ دروازے کی جھریوں میں سے دن کا اجالا اندر آنے لگا تو کسی نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا۔ لال لال آنکھوں والا ایک آدمی اندر آیا اور مجھے پکڑ کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف لے گیا۔ وہاں وہی بڑی بڑی مونچوں والا آدمی جس کو رانا کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ایک چار پائی پر بندوق ایک طرف رکھے بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پیتل کا گلاس تھا۔ اس میں شاید چائے تھی۔ وہ چائے پی رہا تھا۔ ایک آدمی بندوق اٹھائے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جو آدمی مجھے پکڑ کر لایا تھا اس نے مجھے رانا کے سامنے زمین پر بیٹھا دیا اور خود ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔

دوسرے درختوں کی طرف سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی کسی وقت آواز آ جاتی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ڈاکو لوگ ہیں اور انہوں نے اس جنگل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے اور یہ بڑی بڑی مونچوں والا رانا ڈاکوؤں کا سردار ہے۔ اس نے مجھ سے کہا۔

”لڑکے صاف بتا دو تم کون ہو۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔“

میں نے ڈاکوؤں کے سردار رانا کو صاف بتا دیا کہ میں اصل میں گھر سے بھاگ کر نکلے آیا تھا۔ وہاں سے کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کیا اور ایک جنگل میں لے آئے۔

کے پاس لے گئے۔ ایک ڈاکو نے بندوق تان لی۔ دوسرے نے مجھے حکم دیا۔
”یہاں بیٹھ جاؤ اور اپنے خدا کو یاد کرو۔“ میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے
تھے۔

میں بیٹھ گیا اور خدا کو یاد کر کے رونے لگا۔ مجھے نہیں پتہ پھر کیا ہوا اتنا یاد ہے کہ
میں نے روتے ہوئے خدا کو اس طرح یاد کیا جیسے وہ میرے سامنے موجود ہو۔ ایک آسمانی
بجلی سی چمکی، جھماکا سا ہوا اور میری آنسوؤں سے بھری آنکھیں چکاچوند ہو گئیں اور میرے
حلق سے خوف کے مارے چیخ نکل گئی۔ میں یہی سمجھا کہ مجھ پر بندوق کا فائر ہوا ہے۔ میرا
جسم صحیح سالم تھا، میں منہ کے بل پڑا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اب کوئی بجلی نہیں
چمک رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔

میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میرے دونوں ہاتھ کھلے تھے۔ شروع رات کے
تاروں کی دھندلی دھندلی روشنی میں میں نے دیکھا کہ دونوں ڈاکوؤں میں سے کوئی بھی
وہاں نہیں تھا۔

میں نے سامنے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ میں سکول کی کھیلوں میں بڑا تیز
دوڑا کرتا تھا۔ اندھیرے میں کچھ نظر آ رہا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بے تحاشا دوڑتا چلا
جا رہا تھا۔ میں جھاڑیوں میں الجھ رہا تھا۔ سامنے آ جانے والے درختوں سے اپنے آپ کو
بچا رہا تھا۔ ایک جگہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر بھی پڑا مگر میں رکنا نہیں، دوڑتا چلا گیا۔

آگے ڈھلان آگئی یہ ڈھلان ایک گہری گھاٹی میں اترتی تھی۔ میں گھاٹی میں
اتر گیا۔ یہاں تاریکی زیادہ تھی مگر میں دوڑ رہا تھا۔ گھاٹی کے دونوں کنارے اونچے تھے۔
درمیان میں تنگ سا راستہ تھا جس میں گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں گھاس میں ایک طرف کو
بھاگ رہا تھا۔

مجھے یہ بھی خبر نہیں تھی کہ یہ گھاٹی آگے کہاں جاتی ہے اور میں کس طرف جا رہا
ہوں۔ میرا کام جان بچا کر بھاگنا تھا اور میں بھاگ رہا تھا۔ ایک جگہ گھاٹی ختم ہو گئی۔
سامنے تھوڑی سی چڑھائی تھی میں چڑھائی چڑھ کر گھاٹی سے باہر نکل آیا۔

کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ صرف ایک خیال میرے دل کو تھوڑا سہارا
دیتا تھا کہ شاید ترشنا کی بدروح میری مدد کو آجائے لیکن وہ عین وقت پر آتی تھی۔ ہو سکتا ہے
اس دفعہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں کس مشکل میں پھنس گیا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ اس وقت
آئے جب یہ لوگ مجھے مارنے کے بعد میری لاش کو زمین میں دفن کر رہے ہوں۔

باہر شام کا اندھیرا ہونے لگا۔ ایک آدمی کوٹھڑی میں آ کر مجھے کھانے کو دو
روٹیاں اور اچار دے گیا۔ یہ سارے لوگ مسلح تھے اور چروں ہی سے بڑے سفاک قاتل
لگ رہے تھے۔ میں بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ کوٹھڑی کے چاروں طرف ڈاکو ہی ڈاکو چلتے
پھرتے مختلف کام کرتے نظر آ رہے تھے۔

وہ رات بھی گزر گئی۔ دوسرا دن بھی گزر گیا۔ میں نے دروازے کی درزوں میں
سے دیکھا کہ ڈاکو وہاں سے چلنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ گھوڑوں پر تھوڑا بہت سامان لادا
جا رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا تھا۔

ترشنا کی بدروح میری مدد کرنے ابھی تک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ میں سخت گھبرایا
ہوا تھا۔ کبھی چارپائی پر بیٹھ جاتا کبھی اٹھ کر کوٹھڑی میں سے باہر دیکھنے لگتا۔ باہر اب رات کا
اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک دو درختوں کے نیچے لائین روشن ہو گئی تھیں۔ کوٹھڑی کے باہر والی
لائین بھی روشن کر دی گئی تھی۔

کوٹھڑی کے آگے جو دو بانس کی چارپائیاں چھپی ہوئی تھیں وہ بھی اٹھالی گئی
تھیں۔ اب باہر صرف ایک ڈاکو بندوق لیے ایک پتھر پر بیٹھا پہرہ دے رہا تھا۔ کوٹھڑی کے
آگے سے چھ سات گھوڑے جن پر سامان رکھا ہوا تھا گزر گئے۔ ان کے ساتھ ڈاکو چل
رہے تھے۔

میری موت کا وقت آ گیا تھا۔ ابھی تک ترشنا کی بدروح میری مدد کو نہیں آئی
تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں موت کے خوف سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ اتنے میں کوٹھڑی کا
دروازہ کھلا اور دو ڈاکو اندر آ گئے۔ ایک ڈاکو بندوق پکڑے کھڑا رہا۔ دوسرے نے رسی سے
میرے دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ وہ مجھے چلاتے ہوئے ایک طرف درختوں کے جھنڈ

وہاں کالی سیاہ بڑی بڑی چٹائیں تھیں جو آڑی ترچھی زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ کوئی بالکل سیدھی کھڑی تھی، کوئی ٹیڑھی ہو رہی تھی اور کوئی زمین سے نکل کر کچھ دور جا کر واپس زمین میں چلی گئی تھی۔ ان کے درمیان پتھروں سے لکراتا چشمہ بہ رہا تھا۔ چشمہ ایک ندی کی شکل میں تھا۔ اس کے بہتے پانی کی آواز آ رہی تھی۔ میں چشمے میں اتر گیا۔ پانی ٹھنڈا تھا اور میری پنڈلیوں تک تھا۔ میں چشمے میں سے لے لے ڈگ بھرتا نکل کر دوسرے کنارے پر آ کر بیٹھ گیا۔ میرا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، مجھے ہر لمحے ڈاکوؤں کا ڈر لگا ہوا تھا۔

مجھے خوف تھا کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ میں کیسے ان کی گولیوں سے بچ گیا تھا؟ یہ میں آج بھی نہیں سمجھ سکا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھے بچا لیا تھا۔ بس اللہ کو میرے آنسو دیکھ کر مجھ پر رحم آ گیا تھا اور اس نے مجھے بچا لیا تھا۔ کیسے بچا لیا تھا اور وہ قیامت خیز بجلی کی چمک کیا تھی جس نے مجھے چکا چونک کر دیا تھا اور ڈاکوؤں کو غائب کر دیا تھا۔ یہ میں کوشش بھی کروں تو آپ کے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں خود اس راز کو نہیں سمجھ سکا، آپ کو کیا سمجھاؤں گا۔

خدا جانے میں اس خوفناک جنگل میں رات کی تاریکی میں کب تک اور کہاں تک بھاگتا اور کبھی تیز تیز چلتا چلا گیا۔ جب میرے پاؤں میں چلنے کی بالکل سکت نہ رہی اور ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا تو میں ایک جگہ گر پڑا اور دیر تک اسی حالت میں سو گئی خشک گھاس پر پڑا رہا۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔

آسمان کی طرف دیکھا، تارے چمک رہے تھے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان ظالموں سے میری جان بچالی۔ اس کے بعد ارد گرد کا جائزہ لیا کہ میں کہاں آ گیا ہوں۔ میرے سامنے کی جانب اب کوئی گھٹنا جنگل نہیں تھا زمین صاف تھی اور ستاروں کی روشنی میں ایسے لگ رہا تھا جیسے آگے کھیت ہی کھیت ہیں۔

میں ان کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ ان کھیتوں میں کہیں تو فصل کھڑی تھی اور کہیں کھیتوں میں ہل چلا ہوا تھا۔ میں اونچی فصل کی آڑ میں سامنے کی جانب چلا جا رہا تھا۔ میں

نے ایک جگہ کھڑی فصل کے ٹانڈوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا۔ یہ کما دکا کھیت تھا۔ کما د یعنی گئے دیسی تھے جو پتے ہوتے ہیں۔ وہ شبم میں بھیکے ہوئے تھے۔

میں نے دو تین گئے اکھاڑے اور وہیں بیٹھ کر انہیں توڑ توڑ کر چوسنے لگا۔ تازہ پیٹھے رس نے مجھے کافی حد تک پھر سے تازہ دم کر دیا۔ یقین کریں میں نے تین چار گئے ختم کر دیے۔ کسی طرف سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، میں اٹھ کر چلنے لگا۔ میں کھیتوں کے درمیان چل رہا تھا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ چلتے چلتے اونچی فصل سے باہر نکلا تو سامنے دو درو تین روشنیاں ٹھماتی دکھائی دیں۔

ابھی تک مجھے یہ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کون سے علاقے میں آ گیا ہوں۔ جن ڈاکوؤں سے میں جان چھڑا کر بھاگا تھا وہ ہندی اردو بول رہے تھے، بنگلہ نہیں بول رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ میں صوبہ بنگال سے آگے نکل آیا ہوں اور بہار کے جنگلوں میں سے گزر کر آیا ہوں اور ٹھماتی روشنیوں کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا کہ میں انسانوں کی آبادی میں پہنچ گیا ہوں۔

میرا رخ ان روشنیوں کی طرف تھا کھیت ختم ہو گئے۔ آگے ایک ریلوے لائن آ گئی۔ ٹھماتی روشنیاں ریلوے لائن کی جانب ہی تھیں۔ شاید یہ کوئی ریلوے سٹیشن تھا۔ میں ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا ریلوے لائن ایک طرف کو گھوم گئی تو سامنے سنگنل کی سرخ بتی نظر آئی۔

میں تیز تیز چلنے لگا میں ایک چھوٹے سے ریلوے سٹیشن پر آ گیا۔ اس کے پلیٹ فارم پر تین چار بتیاں جل رہی تھیں۔ پلیٹ فارم خالی پڑا تھا۔ پلیٹ فارم کا ایک گیٹ تھا، میں گیٹ کے پاس خالی بیچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی آدمی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نیلی قمیض والا ٹرالی پر کچھ سامان لادے پلیٹ فارم پر نمودار ہوا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور پوچھا۔

”یہ کون سا سٹیشن ہے؟“

اس نے ٹرالی ایک طرف رکھ دی تھی اور اس میں سے سامان اتار رہا تھا۔ میرے

ہے۔

ٹھنڈ لگتی تو میں اور زیادہ سمٹ جاتا۔ کسی وقت اٹھ کر بیچ کے پیچھے اندھیرے میں ٹہلنے لگتا۔ وقت تو گزر ہی رہا تھا، صرف مجھے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ رک گیا ہے۔ رات بھی وقت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر کوئی گھڑی بھی نہیں لگی ہوئی تھی کہ جس سے اندازہ ہوتا کہ رات کا کیا بج رہا ہے۔

بے چینی اور کوفت کی وہ رات مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ بیچ پر دبک کر بیٹھے بیٹھے کسی وقت مجھے نیند بھی آ جاتی لیکن سردی لگنے سے کچھ دیر بعد ہی آنکھ کھل جاتی۔ بڑی مشکل سے آسمان پر پھیلی ہوئی تاریکی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ میں نے آسمان کے مشرق کی جانب نگاہ ڈالی۔ وہاں آسمان کے کناروں پر نیلا ہٹ سی جھلکنے لگی تھی۔ یہ صبح کے آثار تھے۔ یہ نیلا ہٹ بڑے بے معلوم انداز میں سفیدی مائل ہونے لگی۔ آسمان پر سورج نکلنے سے بہت پہلے کا نورانی غبار اڑنے لگا۔ جن کھیتوں اور جنگلوں سے میں گزر کر آیا تھا ان کی جانب سے کسی کسی وقت ٹھنڈی ہوا آتی۔ اسی ہوا میں جنگلی پھولوں، درختوں اور شبنم میں بھگی ہوئی جھاڑیوں اور گھاس کی مہک تھی۔

اس کے بعد سورج نکل آیا اور پلیٹ فارم پر کچھ مسافر بھی نظر آنے لگے۔ دھوپ نکلنے سے فضا کی خشکی اور سردی کم ہو گئی تھی۔ میں اٹھ کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔



سوال پر میری طرف دیکھے بغیر پوچھا۔ ”تمہیں کہاں جانا ہے؟“
میں نے کہا۔ ”پنجاب جاؤں گا۔ کیا یہاں سے کوئی ٹرین پنجاب جاتی ہے؟“
وہ بولا۔ ”صبح چھ بجے ایک پنجر میل جاتی ہے۔“
وہ خالی ٹرائی لے کر جس طرف سے آیا تھا اس طرف چلا گیا۔

مجھے اب ساری رات اس ویران پلیٹ فارم پر گزارنی تھی۔ مجھے یہ خوف تھا کہ ڈاکوؤں کا کوئی پتہ نہیں کہیں میری تلاش میں سٹیشن پر بھی نہ پہنچ جائیں۔ جس بیچ پر میں بیٹھا تھا اس پر بجلی کے کھمبے کی روشنی پڑ رہی تھی۔

میں وہاں سے اٹھ کر پلیٹ فارم کے دوسرے سرے کی طرف چلا گیا۔ وہاں تھوڑا اندھیرا تھا۔ میں ایک بیچ پر بیٹھ گیا۔ شام کو ڈاکوؤں نے مجھے کچھ کھلا پلا دیا تھا۔ جس کی وجہ سے مجھے ہوک نہیں لگ رہی تھی۔ قریب ہی ایک نکا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ منہ دھویا اور بیچ پر آ کر بیٹھ گیا۔

اگرچہ موسم سردیوں کا نہیں تھا لیکن رات کو خشکی ہو گئی تھی اور مجھے تھوڑی تھوڑی سردی لگنے لگی تھی۔ میں نے ٹھنڈی پتلون اور قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میرے پاس کوئی پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں سمٹا کر بیچ کے کونے میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کب دن چڑھے گا اور کب پنجاب جانے والی ٹرین آئے گی۔ سٹیشن کا نام عجیب سا تھا جو مجھے یاد نہیں رہا۔

یہ صوبہ بہار کا علاقہ ہی تھا۔ وہاں سے پنجاب کافی دور تھا۔ لیکن ایک بار ٹرین میں بیٹھنے کی دیر تھی، پھر امرتسر تک میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ صرف ایک ہی خطرہ تھا کہ میں بغیر ٹکٹ سفر کروں گا۔ راستے میں پکڑا گیا تو ٹی ٹی مجھے وہیں ٹرین سے اتار دے گا۔

میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ٹی ٹی ٹرین سے اتار دے گا تو میں کوئی دوسری ٹرین پکڑ لوں گا۔ واپس نکلنے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب تو کسی نہ کسی طرح میں اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ ویران پلیٹ فارم کی رات بڑی آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ کسی وقت تو ایسے لگتا کہ جیسے رات گزر ہی نہیں رہی۔ ویران پلیٹ فارم پر آ کر وہ بھی رک گئی

عام طور پر چیکر چلتی ٹرین میں دوڑ کر ڈبے میں سوار ہوا کرتے تھے۔ اس طرح کسی مسافر کو اترنے کا بہت کم موقع ملتا تھا۔

میں بھی ٹکٹ چیکر کے منصوبے پر عمل کیا کرتا تھا اور جب ٹرین پلیٹ فارم پر سپیڈ پکڑ لیتی تھی تب اس میں سوار ہوتا تھا۔ اس دوران میں یہ تسلی کر لیتا تھا کہ ڈبے میں کوئی چیکر سوار نہیں ہوا۔ اگر چیکر سوار ہوتا تھا تو میں وہ بوگی چھوڑ کر کسی پچھلی بوگی کے ڈبے میں گھس جاتا تھا۔

بعض ڈبوں کے دروازے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے تھے۔ ٹکٹ چیکر چلتی ٹرین میں ایک ڈبے کے مسافروں کو چیک کر کے دروازے کے پینڈولوں کو پکڑ کر دوسرے ڈبے میں آ جاتا تھا۔ مگر دو بوگیوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہوتا تھا۔ یہاں وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں چیکر والی بوگی چھوڑ کر دوسری بوگی میں سوار ہو جاتا تھا۔

ٹرین بنارس شہر کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل آئی تھی۔ شام کے وقت ٹرین دریائے گوتمی کے پل پر سے گزری اور پھر لکھنؤ کے سٹیشن پر رکتے ہی میں حسب عادت ڈبے سے اتر کر ادھر ادھر ہو گیا۔ مجھے اس طریقہ کار پر اس وقت تک عمل کرتے رہنا تھا جب تک ٹرین امرتسر نہیں پہنچ جاتی۔ کیونکہ میرے پاس ٹرین کا ٹکٹ نہیں تھا اور میں بغیر ٹکٹ سفر کر رہا تھا۔ پتہ نہیں آج کل کیا صورتحال ہے مگر انگریز کے زمانے میں یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور ٹکٹ چیکر پکڑے ہوئے مسافر کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ وہ ڈبل جرمانہ ادا نہ کر دے۔ اگر مسافر کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اسے ریلوے پولیس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ میری عمر کے لڑکوں کو اکثر ٹکٹ چیکر پکڑنے کے بعد راستے میں ہی کسی سٹیشن پر اتار دیا کرتے تھے۔ میرے ساتھ ایسا تین چار مرتبہ ہو چکا تھا۔ ایک تو لکھنؤ کا سٹیشن ایک بڑا جنکشن تھا۔ دوسرے ٹرین پشچر تھی۔ وہ کافی دیر تک وہاں رکی رہی اور میں ٹکٹ چیکروں سے آنکھ بچاتا ادھر ادھر چھپتا پھرتا رہا۔ بڑی مشکل سے گارڈ نے سیٹی دی پھر انجن نے دو تین بار واصل دیا اور ٹرین پلیٹ فارم پر سے کھٹکنے لگی۔ میں ذرا پرے ہٹ کر ٹرین کے ساتھ ساتھ تیز قدموں سے چلنے لگا۔ اپنے ڈبے کی نشاندہی میں نے یاد کر رکھی تھی۔ میرا ڈبہ

پنج ٹرین اپنے وقت پر آگئی۔ میں پچھلی بوگی کے ایک ڈبے میں چڑھ کر بیٹھ گیا۔ ٹرین تھوڑی دیر کیلئے ہی رکی اور پھر چل پڑی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک تو ٹرین کی رفتار ہلکی تھی اور دوسرے وہ تقریباً ہر سٹیشن پر کھڑی ہوتی تھی۔ بنارس پہنچتے پہنچتے دن ڈھلنے لگا تھا۔ ابھی تک ڈبے میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں آیا تھا۔ بنارس کے سٹیشن پر گاڑی رکی تو میں محتاط ہو گیا۔ یہ بڑا سٹیشن تھا۔ یہاں پلیٹ فارم پر بھی ٹکٹ چیکر کا خطرہ تھا۔ یہ بات میرے بغیر ٹکٹ سفر کرنے کے تجربے میں آچکی تھی کہ کبھی کسی بڑے سٹیشن کے پلیٹ فارم پر بھی ٹکٹ چیکر اگر کسی پر شک پڑ جائے تو ٹکٹ چیک کر لیتا تھا۔ میں پلیٹ فارم پر اترتے ہی ٹرین سے دور ہٹ کر کتابوں رسالوں کے سٹال کے کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ جتنی دیر ٹرین بنارس کے سٹیشن پر رکی رہی میں وہیں کھڑا رسالے وغیرہ دیکھتا رہا۔ جب ٹرین چل پڑی تو میں بھی ٹرین کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ڈبے میں کوئی ٹکٹ چیکر نہیں چڑھا تو میں دوڑ کر ڈبے میں گھس گیا۔

اس کے آگے بڑا سٹیشن لکھنؤ تھا۔ یہاں بھی بغیر ٹکٹ پکڑے جانے کا شدید خطرہ تھا۔ مگر میں بھی بغیر ٹکٹ سفر کرنے میں بڑا ماہر ہو گیا تھا۔ اس کھیل کے تمام کرداروں کی نفسیات سے واقف تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ جب تک گاڑی تھوڑی رفتار نہیں پکڑ لیتی، ٹکٹ چیکر ڈبے میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر وہ رکی ہوئی ٹرین کے کسی ڈبے میں سوار ہو تو اس ڈبے میں بغیر ٹکٹ سفر کرنے والا مسافر ٹکٹ چیکر کی شکل دیکھ کر ہی اتر سکتا تھا۔ لیکن جب ٹرین تھوڑی تیز ہو جاتی تھی تو پھر بغیر ٹکٹ سفر کرنے والے کیلئے اترنا مشکل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ

مشفق بزرگ تھے انہوں نے زبردستی مجھے بہت کچھ کھلا دیا۔ میری بھوک ختم ہو گئی۔ راستے میں ٹرین ایک جگہ رکی تو انہوں نے تھرمس میں سے چائے نکال کر ایک کپ مجھے بھی دیا۔

مجھ سے پوچھا کہ میں کہا جا رہا ہوں۔ میں نے کہا۔ ”امر ترس جا رہا ہوں۔“

”کہاں سے آرہے ہو؟“ انہوں نے پوچھا۔

خدا جانے مجھے کیا سوچھی کہ میں نے کہہ دیا۔

”یہی مراد آباد سے ہی سوار ہوا ہوں۔ ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ پتہ چلا کہ

وہ کلکتے جا چکا تھا۔ اب واپس اپنے شہر جا رہا ہوں۔“

میں اس بزرگ سے باتیں کر رہا تھا کہ اچانک ہمارے ڈبے میں ایک ٹکٹ چیکر

وار ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں گھبرا گیا۔ سوچا ڈبے سے اتر جاؤں مگر اس دوران ٹرین کی

تاریز ہو گئی تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ ٹکٹ چیکر مجھے پکڑ لے گا۔ ہو سکتا ہے

کہ وہ مجھے ٹرین سے نیچے نہ اتارے اور کہے کہ تمہیں دلی پہنچ کر پولیس کے حوالے کر دوں

۔ دلی وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ اس بزرگ کے آگے میری بڑی بے

زنی ہوگی۔ اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹرین پوری رفتار سے جا رہی تھی۔

ٹکٹ چیکر مسافروں کے ٹکٹ چیک کرتا ہماری نشستوں کی طرف آ رہا تھا۔ بزرگ مجھ سے

بُھ باتیں ضرور کر رہے تھے۔ میں ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا اور میری ساری توجہ

ٹکٹ چیکر کی طرف تھی جو آہستہ آہستہ ہمارے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ آخر وہ میرے ساتھ

ٹھے ہوئے بزرگ کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ان سے ٹکٹ مانگی۔ بزرگ نے بڑے

بیگانہ سے اچکن کی اوپر والی جیب سے زرد رنگ کا ریلوے ٹکٹ نکال کر چیکر کو دیا۔ چیکر

نے اس پر پنسل سے نشان بنایا اور ٹکٹ واپس کر دیا۔ اب اس نے مجھ سے پوچھا۔

”ٹکٹ؟“

اس کی آواز ہم کا دھماکہ بن کر میرے کانوں میں گونج اٹھی۔ میں نے وہی پرانا

راستعمال کیا اور یونہی اپنی چٹلون کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ چیکر بڑی معنی خیز مسکراہٹ کے

نہ میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنی ساری جیبوں کی تلاشی لینے کے بعد حیران

میرے پیچھے سے آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا اور میں نے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی چیکر سوار نہیں تو میں نے دوڑتے دوڑتے ڈبے کے ہینڈل کو پکڑا اور اس میں سوار ہو گیا۔

جس روٹ پر یہ پنجر ٹرین سفر کر رہی تھی اس روٹ پر سارے بڑے بڑے شہر

آتے تھے۔ لکھنؤ کے آگے شاہجہان پور تھا، پھر بریلی تھا۔ اس کے بعد رامپور تھا اور اس

کے آگے مراد آباد کا شہر تھا۔ لیکن ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ اب رات ہو گئی تھی

اور رات کو ٹرین میں چینگ کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ بریلی کے سٹیشن پر میں پلیٹ فارم پر اتر گیا

لیکن اس کے بعد میں ڈبے میں ہی رہا۔ ٹرین رات کے وقت سفر کرتی رہی۔ کم بخت کوئی

سٹیشن نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب مراد آباد آیا تو دن نکل آیا تھا۔ بھوک سے میرا حال کافی

خراب ہو رہا تھا۔ پانی تو میں پی لیتا تھا، مگر سارا دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میرے پاس

ایک پیسہ تک نہیں تھا۔ لیکن اللہ میاں بڑا کارساز ہے اور رزاق ہے۔ مراد آباد سے میرے

ڈبے میں ایک بزرگ سوار ہوئے جن کے پاس ایک بڑا سا فن کیریز بھی تھا۔ اتفاق سے

وہ میرے پاس ہی آ کر بیٹھ گئے۔ مراد آباد سے ٹرین نے دلی کا رخ کیا۔ جب ٹرین چل

پڑی تو اس بزرگ نے فن کیریز کھول دیا۔ اس کے اندر کھانے کو بہت کچھ تھا۔ میں کھڑکی

سے باہر دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس بزرگ نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا۔

”برخوردار! ناشتہ کرو گے؟“

میں نے دل پر جبر کر کے تکلفاً کہہ دیا۔

”جی نہیں، شکریہ!“

اس بزرگ نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔

”میاں! ہم کبھی اکیلے ناشتہ نہیں کرتے۔ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ مجھے خوشی

ہوگی۔“

مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ پوریاں تھیں، حلوہ تھا، کچوریاں تھیں۔ مجھے سخت بھوک

لگی ہوئی تھی پھر بھی میں ہاتھ روک کر کھا رہا تھا کہ بزرگ مجھے مدیدہ نہ سمجھیں۔ لیکن بڑے

”میاں! تمہیں تو امر تر جانا ہے۔ آگے کیا کرو گے۔ تمہارے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے۔“

میں نے کہا۔ ”میں دلی اتر کر اپنے کسی رشتے دار کے پاس جا کر پیسے ادھار لے لوں گا۔“

وہ بولے۔ ”میاں! تمہاری یہ عمر اپنے رشتے داروں کے احسان لینے کی نہیں ہے۔ فکر نہ کرو۔“

انہوں نے بڑے میں سے بیس روپے نکال کر مجھے دیے اور فرمایا۔ ”یہ کرائے کیلئے اپنے پاس رکھو۔ تمہیں میں اپنے بچوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔“

مراد آباد کے اس بزرگ کی مہربان صورت آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ میں انہیں ہمیشہ نیک دعاؤں کے ساتھ یاد کرتا ہوں۔ اس زمانے میں بیس روپوں کی بڑی قیمت تھی۔ گاڑی دلی پہنچی تو وہ بزرگ مجھے خدا حافظ کہہ کر دوسرے مسافروں کے ہجوم میں میری نگاہوں سے ادھمٹ ہو گئے۔ لیکن میرے تصور میں آج وہ دنیا کے ہجوم میں سب سے الگ نظر آتے ہیں۔ دلی سٹیشن پر اس پنجر ٹرین کو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ٹھہرنا تھا۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کسی طرح پلیٹ فارم سے نکل کر باہر گیا اور دلی سے امر تر تک کا ٹکٹ کلاس کا ٹکٹ خرید کر جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں آگے بھی بغیر ٹکٹ ہی جاؤں۔ لیکن اب میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ میں جلدی اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مجھے اپنا گھر اپنے گھر والے بہن بھائی اپنا شہر اپنے شہر کی گلیاں اور سب سے بڑھ کر اپنے امر تر شہر کا کہنی باغ بہت یاد آ رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس بار میں نے اپنے ایڈونچرس سفر میں بہت مصیبتیں اٹھائی تھیں اور دو تین بار موت کے منہ میں جاتے جاتے بچا تھا۔

میں اپنی پنجر ٹرین میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹکٹ میری جیب میں تھا۔ اب مجھے کسی کی فکر نہیں تھی بلکہ میری خواہش تھی کہ کوئی ٹکٹ چیکر ڈبے میں آئے اور میں بڑی شان سے

ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔

”خدا جانے کہاں گم ہو گیا ہے ٹکٹ۔ میں نے اسی جیب میں رکھا تھا۔“

ٹکٹ چیکر نے طنزیہ لہجے میں کہا۔

”برخوردار! تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ تم نے ٹکٹ نہیں خریدا تھا۔ کہاں سے سوار

ہوئے تھے؟“

چیکر نے اپنی خاکی بس شرٹ کی جیب میں سے کا پی پنسل نکالتے ہوئے پوچھا۔

میں نے کہہ دیا۔

”مراد آباد سے سوار ہوا ہوں۔“

چیکر نے حساب لگا کر مراد آباد سے لے کر دلی تک کے ریل کے کرائے کی رقم

مع جرمانے کے بتائی تو میں نے کہا۔

”میرے پاس تو اتنے ہی پیسے تھے جس کا میں نے ٹکٹ خریدا تھا۔ اب میرے

پاس کچھ نہیں ہے۔“

چیکر بولا۔ ”تو پھر برخوردار نہیں آرام سے بیٹھے رہو۔ دلی آ رہا ہے۔ وہاں میں

تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔“

اچکن پوش بزرگ بڑی خاموشی سے ہمارے درمیان جاری مکالمے سن رہے

تھے۔ جب ٹکٹ چیکر نے پولیس کا نام لیا تو انہوں نے کہا۔

”مراد آباد سے دلی کا ٹکٹ کاٹ دیجیے۔ پیسے میں دیے دیتا ہوں۔“

میں نے کہا۔ ”نہیں نہیں جناب آپ تکلیف نہ کریں۔“

انہوں نے بڑے میں سے روپے نکال کر ٹکٹ چیکر کے حوالے کرتے ہوئے

کہا۔ ”کوئی بات نہیں برخوردار! تم میرے بچوں کی طرح ہو۔“

ٹکٹ چیکر کو شاید افسوس ہو رہا تھا کہ شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس

نے پیسے لے کر مجھے چھپے ہوئے کاغذ کی شکل میں مراد آباد سے دلی تک کا ٹکٹ تمہایا اد

ڈبے کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں اس بزرگ کا شکر یہ ادا کرنے لگا۔ وہ بولے۔

ٹکٹ نکال کر اسے دکھاؤں۔ لیکن میری یہ حسرت پوری نہ ہوئی۔ امرتسر تک کوئی چیکر ٹکٹ چیک کرنے نہ آیا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ٹکٹ اپنے پاس ہو تو ٹکٹ چیکر ڈبے میں نہیں آتا۔ جب ٹکٹ پاس نہ ہو تو چلتی ٹرین میں ٹکٹ چیکر ڈبے میں آ جاتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ بھی۔

ہماری پنجر ٹرین اسی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ جیسے یہ اس کا آخری سفر تھا جو ختم ہو گیا ہے۔ اس کا انجن بھی غائب ہو گیا تھا۔ ٹرین کے آس پاس ریلوے کا کوئی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ گارڈ کا ڈبہ بھی خالی پڑا تھا۔ لگتا تھا کہ ٹرین کا کوئی وارث نہیں رہا۔ انتہائی صبر آزما انتظار کے بعد آخر گارڈ صاحب کی صورت نظر آئی۔ وہ سرخ اور سبز جینڈیاں بغل میں دبائے سگریٹ پیتے ایک طرف سے چلے آ رہے تھے۔ گارڈ کو دیکھ کر کچھ حوصلہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد ایک انجن بھی کسی طرف سے شٹ کرتا آیا اور ٹرین کے آگے لگ گیا۔ آخر گارڈ کو مسافروں پر رحم آ گیا۔ اس نے سیٹی بجائی۔ ایک بار نہیں دو تین بار سیٹی بجائی۔ اس کی سیٹی کی آواز سن کر انجن کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے بھی دو تین بار وسل دیا اور پنجر ٹرین کے مردہ جسم میں جان پڑ گئی۔ اس نے تکلیف دہ آوازوں کے ساتھ اپنی جگہ سے حرکت کی اور پلیٹ فارم پر کھسکنا شروع کر دیا۔ ٹرین کے ہمارے ڈبے کے پہیوں میں سے عجیب دردناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ ٹرین آدھی رات کے وقت امرتسر پہنچی۔ گھ میں سب سو رہے تھے۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ آپوجی یعنی والدہ نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر اپنے ساتھ لگا کر میرا ماتھا چومنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

